اسلامی ناموں کی ڈکشنری

تحقیق وتالیف: مسعود مفتی

اسلامی ناموں کی
ڈکشنری

مسعود مفتی

علم و عرفان پبلشرز

34 اردو بازار لاہور۔ فون 7232336-7352332
E-Mail:ilmoirfanpublishers@hotmail.com

marfat.com

Marfat.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	....	اسلامی ناموں کی ڈکشنری
مرتب	....	مسعود مفتی
ناشر	....	گل فراز احمد
		علم وعرفان پبلشرز، لاہور
کمپوزنگ	....	ظفر اقبال
مطبع	....	زاہدہ نوید پرنٹرز،
سنِ اشاعت	....	2009-10ء
قیمت	....	-/280 روپے

بہترین کتاب چھپوانے کے لیے رابطہ کریں۔فون: 0300-9450911

علم وعرفان پبلشرز

34-اردو بازار، لاہور فون: 7352332

marfat.com

Marfat.com

اپنی بات

علمی دنیا میں جناب مسعود مفتی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کی کئی کتب شائع ہو کر عوام وخواص میں خراج ستائش حاصل کر چکی ہیں۔ ''سیرت رسول (ﷺ) کا انسائیکلو پیڈیا'' ان کی منہ بولتی صلاحیتوں کا زندہ ثبوت ہے۔ وہ کوئی اور کتاب نہ بھی لکھتے تو یہی کتاب ان کی دنیا و آخرت میں فلاح کے لیے کافی تھی۔ زیر نظر کتاب ''اسلامی ناموں کی ڈکشنری'' جناب مسعود مفتی کی تازہ کتاب ہے جسے انہوں نے کئی سالوں کی مسلسل محنت، لگن، تحقیق اور محبت سے مرتب کیا ہے۔

ماہرین نفسیات کے نزدیک نام شخصیت پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا نام اچھا تاثر اور برا نام برا تاثر چھوڑتا ہے۔ ہمارے ہاں معنی کے لحاظ سے اچھا نام رکھنے کا رجحان بہت کم ہے اور جاہلوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہایت مشکل نام رکھے جاتے ہیں جن کے معنی کا بھی اکثر علم نہیں ہوتا اور بعض اوقات شوق میں ایسے نام رکھ لیے جاتے ہیں جن کے معنی نہایت برے بلکہ موذی اور زہریلے جانوروں کے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں وقت کا تقاضا تھا کہ کوئی ایسی کتاب ہو جو اپنے موضوع پر مکمل اور جامع ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مفید اور کارآمد بھی ہو۔

ناموں کے موضوع پر جس سلیقہ سے یہ کتاب تیار کی گئی ہے، شاید اس سے بہتر کام پہلے کبھی نہ کیا گیا ہو۔ اب برملا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ سلیقہ، خوبصورتی اور مواد کے لحاظ سے ناموں پر یہ ایک مکمل کتاب بلکہ انسائیکلوپیڈیا ہے۔

میرے خیال میں اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے تاکہ پورا خاندان اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ جناب مسعود مفتی مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایسی خوبصورت اور جامع کتاب مرتب کی۔ امید ہے ان کی باقی کتابوں کی طرح اس کتاب کو بھی ہر حلقہ میں بے حد پذیرائی ملے گی۔

(گلفراز احمد)

ناشر

marfat.com

Marfat.com

انتساب!

اپنے مرحوم والدین

کے نام

جنہوں نے مجھے لفظ

محمد ﷺ لکھنا سکھایا

مسعود مفتی

marfat.com
Marfat.com

فہرست

حصہ اوّل

لڑکوں کے نام

1-	آ	سے شروع ہونے والا نام	11
2	الف	سے شروع ہونے والا نام	17
3	ب	سے شروع ہونے والا نام	44
4	پ	سے شروع ہونے والا نام	59
5	ت	سے شروع ہونے والا نام	65
6	ٹ	سے شروع ہونے والا نام	79
7	ث	سے شروع ہونے والا نام	80
8	ج	سے شروع ہونے والا نام	84
9	چ	سے شروع ہونے والا نام	93
10	ح	سے شروع ہونے والا نام	96
11	خ	سے شروع ہونے والا نام	111
12	د	سے شروع ہونے والا نام	122
13	ڈ	سے شروع ہونے والا نام	135
14	ذ	سے شروع ہونے والا نام	136
15	ر	سے شروع ہونے والا نام	141
16	ز	سے شروع ہونے والا نام	156
17	ژ	سے شروع ہونے والا نام	163
18	س	سے شروع ہونے والا نام	164

marfat.com

Marfat.com

19	ش	سے شروع ہونے والا نام	182
20	ص	سے شروع ہونے والا نام	196
21	ض	سے شروع ہونے والا نام	204
22	ط	سے شروع ہونے والا نام	208
23	ظ	سے شروع ہونے والا نام	216
24	ع	سے شروع ہونے والا نام	218
25	غ	سے شروع ہونے والا نام	241
26	ف	سے شروع ہونے والا نام	249
27	ق	سے شروع ہونے والا نام	262
28	ک	سے شروع ہونے والا نام	272
29	گ	سے شروع ہونے والا نام	282
30	ل	سے شروع ہونے والا نام	288
31	م	سے شروع ہونے والا نام	295
32	ن	سے شروع ہونے والا نام	332
33	و	سے شروع ہونے والا نام	348
34	ہ	سے شروع ہونے والا نام	355
35	ی	سے شروع ہونے والا نام	362

marfat.com

Marfat.com

فہرست

دوسرا حصہ

لڑکیوں کے نام

-1	آ	سے شروع ہونے والا نام	371
2	الف	سے شروع ہونے والا نام	378
3	ب	سے شروع ہونے والا نام	397
4	پ	سے شروع ہونے والا نام	410
5	ت	سے شروع ہونے والا نام	416
6	ٹ	سے شروع ہونے والا نام	430
7	ث	سے شروع ہونے والا نام	431
8	ج	سے شروع ہونے والا نام	435
9	چ	سے شروع ہونے والا نام	442
10	ح	سے شروع ہونے والا نام	445
11	خ	سے شروع ہونے والا نام	455
12	د	سے شروع ہونے والا نام	465
14	ڈ	سے شروع ہونے والا نام	473
15	ر	سے شروع ہونے والا نام	476
16	ز	سے شروع ہونے والا نام	494
17	ژ	سے شروع ہونے والا نام	503
18	س	سے شروع ہونے والا نام	504
19	ش	سے شروع ہونے والا نام	522
20	ص	سے شروع ہونے والا نام	539

marfat.com

Marfat.com

21	ض	سے شروع ہونے والا نام	549
22	ط	سے شروع ہونے والا نام	550
23	ظ	سے شروع ہونے والا نام	555
24	ع	سے شروع ہونے والا نام	557
25	غ	سے شروع ہونے والا نام	576
26	ف	سے شروع ہونے والا نام	583
27	ق	سے شروع ہونے والا نام	593
28	ک	سے شروع ہونے والا نام	603
29	گ	سے شروع ہونے والا نام	612
30	ل	سے شروع ہونے والا نام	619
31	م	سے شروع ہونے والا نام	626
32	ن	سے شروع ہونے والا نام	650
33	و	سے شروع ہونے والا نام	570
34	ہ	سے شروع ہونے والا نام	677
35	ی	سے شروع ہونے والا نام	681

marfat.com
Marfat.com

پہلا حصہ
لڑکوں کے نام

الف	اردو
ت	ترکی
ٹ	ٹیوٹانی
س	سنسکرت
ع	عربی
عبر	عبرانی
ف	فارسی
ک	کلٹی
لا	لاطینی
اطا	اطالوی
ر	روسی
ہ	ہندی
یو	یونانی

marfat.com
Marfat.com

آ

آب باز	Aabbaz	اف	پانی میں تیرنے والا' پیراک
آب نقرہ	Ab-e-nuqra	اف	پارہ' چاندی کا پانی' چاندی کا ملمع
آبتین	Abteen	اف	فریدوں کے باپ کا نام
آبنوش	Abnosh	اع	ایک درخت کا نام جسکی لکڑی سخت' وزنی اور سیاہ ہوتی ہے
آب تین	Abteen	ف	فارس کے ساتویں بادشاہ کا نام۔فریدوں کے باپ کا نام
آب ذر	Abdur	ف	موتی کی چمک۔آب وتاب۔جلا
آبدار	Abdar	ف	چمکیلا۔پانی جیسی چمک۔شفاف۔صاف۔نفیس
آبان	Aban	ع	فرشتے کا نام۔فارسی کا آٹھواں مہینہ جس میں آفتاب برج عقرب میں رہتا ہے
آباد	Abad	ف	پُر رونق۔خوش وخرم۔سرسبز وشاداب۔پھلا پھولا۔پُر مسرت
آبس	Abas	ع	خوش اور شادمان ہونا
آبص	Abis	ع	پُر مسرت ہونا۔خوش وخرم ہونا۔شاداں وفرحاں ہونا
آبگینہ	Abgina	اف	شیشہ' کانچ' آئینہ' الماس' انگوری شراب
آتک	Atak	ع	سیسہ
آتش	Atish	ف	آگ۔اردو کے ایک مشہور شاعر کا تخلص۔پورا نام خواجہ حیدر علی تھا۔
آتم	Atam	ع	دو چیزوں کو جمع کرنا
آثم	Asam	ع	گنہگار۔عاصی (حفیظ اللہ شیخ کا تخلص جو محمد شاہ دہلی کے زمانے میں مشہور شاعر تھا)
آثار	Asaar	[illegible]	[illegible]

marfat.com

Marfat.com

آثر	Asir	ع	مصمم ارادہ کرنا۔ بلند مرتبہ۔ بلند و بالا۔ اونچا آسمان
آجر	Ajir	ع	اُجرت دینے والا۔ کام پر لگانے والا
آچاریہ	Acharia	سندھی	استاذ معلم، گورا، برہمن، کسی فرقے کا بانی ایک خطاب جو لائق آدمیوں کو دیا جاتا ہے
آخون	Akhoon	ف	استاد۔ معلم۔ اتالیق۔ ٹیچر۔ پڑھانے والا
آدر	Adar		عزت۔ احترام۔ خاطر تواضع
آدرش	Adarsh	ہ، ا	آئینہ۔ اصلی نمونہ۔ اصول۔ سیرت۔ معیار
آدھین	Aadheen	ہ، ا	فرمانبردار۔ مطیع۔ عاجز
آدیش	Adesh	ہ، ا	حکم، ہدایت، ارشاد
آدینہ	Adina	ف	جمعہ کا دن
آدم	Adam	ع	آدمی۔ انسان۔ زمین کا آدمی۔ سب سے پہلا آدمی۔ حضرت آدم علیہ السلام جن کو ابوالبشر بھی کہا جاتا ہے
آذ	Azer	ع	کسی شے کو گھیرنا۔ آگ
آذار	Aazaa	اُف	چھٹا رومی مہینہ، چیت یا مارچ کا مہینہ
آذین	Azee ı	ف	سجاوٹ۔ آرائش۔ زیب و زینت
آرزم	Arzε.n	ع	لڑائی۔ جنگ
آرج	A. aj	ع	لیاقت۔ حق و باطل کو ملانا
آرندہ	Ar.ndah	ف	لانے والا
آرپن	Arpan	اُہ	صدقہ، نذر، قربانی، خیرات
آرن	Aran	عبر	پہاڑ
آرام جان	Aram Jaan	ف	دل پسند۔ پیارا۔ محبوب۔ دل کو بھانے والا
آرمیدہ	Armidah		[illegible] چین والا [illegible]

marfat.com

Marfat.com

آرب	Arib	ع	پختہ۔ مضبوط۔ ٹھوس
آرزم	Arizm	ف	لڑائی۔ جنگ
آرزو	Arzoo	ف	خواہش
آریز	Ariz	ع	سربراہ۔ لیڈر۔ رہنما۔ قوم کا سردار
آردشیر	Arid Sher	ف	شیر کے غصے والا۔ اسفندیار کے بیٹے بہمن کا لقب
آزبن	Azban	ف	آرائش
آزار	Azaar		بیماری۔ دکھ۔ تکلیف۔ رنج
آزر	Azar		حضرت ابراہیم کے باپ یا چچا کا نام جس نے پالا تھا اور جو مشہور بت تراش تھا
آزف	Azaf	ع	قریب ہونا
آستان	Astan	ف	دہلیز، دروازہ
آشام	Asham	ف	پینے والا
آفذ	Afiz	ع	جلدی کرنا
آفل	Afal	ع	غروب ہونے والا
آزاد	Azad	ف	بری۔ بے قید۔ فارغ۔ خود مختار۔ اردو کے مشہور ادیب مولانا محمد حسین کا لقب آزاد تھا
آزرم	Azrim	ف	حیا۔ شرم۔ صلح
آژمیر	Asmir	ف	متقی۔ پرہیزگار۔ سمجھدار۔ ہوشیار۔ چالاک
آسی	Asee-Asi	ع	حکیم۔ طبیب۔ معالج
آستا	Aasta	ا	آسرا
آسا	Asa	ف	بھروسہ۔ یقین۔ اعتماد
آس	Aas	ف	توقع۔ امید
آسودہ	Asooda	ف	[illegible]

marfat.com
Marfat.com

آشام	Asham	ف	معمور۔ پینے والا۔ اکڑ کر چلنے والا
آشفتہ	Ashufta	ف	عاشق۔ شیدائی۔ فریفتہ۔ حیران۔ مشہور شاعر سلطان محمود کا تخلص
آشبہ	Ashbah	ع	مشابہت رکھنے والا۔ ہو بہو۔ مانند۔ مثل
آشب	Ashib	ع	پھلدار درخت۔ ہرا بھرا درخت۔ گنجان درخت
آصف	Asif	ع	لائق۔ قابل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر جس کا نام آصف بن برخیاہ تھا
آصال	Asaal	ف	شام کا وقت۔ اصل۔ خالص
آغا	Agha	ت	مالک۔ حاکم۔ بڑا بھائی۔ آقا
آغر	Aghar	ت	نیک۔ شریف۔ معروف
آفتاب	Aftab	ف	سورج۔ دھوپ
آفذ	Afiz	ع	جلدی کرنا
آفندی	Afandi	ت	بزرگ۔ شریف النفس۔ محترم۔ نیک۔ معزز
آفروزہ	Afroza	ف	چراغ کی بتی
آفریدی	Afridi	ق	پٹھانوں کے ایک قبیلہ کا نام
آفاق	Afaq	ع	آسمان جیسی وسعت رکھنے والا تخیل یا شعر
آقاسی	Aqasi	ات	دیوان خانہ کا داروغہ
آقا	Aqa	ف	مالک۔ حاکم۔ ایک نام آقا بیدار بخت
آکا	Akka	ات	بڑا بھائی۔ کلمہ۔ خطاب۔ میاں وغیرہ کی جگہ
آکاس	Akas	اسندھی	آسمان۔ خلا۔ حدنگاہ
آلب	Alib	ع	جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا
آلف	Alf	ع	پیار کرنا۔ محبت کرنا۔ چاہت کرنا۔ انس کرنا

marfat.com
Marfat.com

آمین	Amin	ع	اے خدا ایسا ہی ہو خدا دعا قبول کرے ختم قرآن کی ایک تقریب
آمنہ	Amna	ع	حضور ﷺ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی۔ امن و آشتی کا پیغام
آمال	Amaal	ع	امیدیں
آمر	Amir	ع	حکم دینے والا
آمرزش	Amerzish	ف	بخشش
آمرزگار	Amerzgar	ف	بخشنے والا' معاف کرنے والا' مراد خداوند کریم
آمون	Amoon	ف	ترکستان کا ایک دریا
آموز	Amoz	ف	سیکھنے والا۔ سکھانے والا
آموں	Amon	ف	ترکستان کا ایک دریا
آموزگار	Amozgar	ف	استاد۔ اتالیق۔ سکھانے والا۔ معلم
آمن	Aman	ع	آسودہ۔ مطمئن۔ خاطر جمع رکھنے والا۔ پرسکون
آمل	Amal	ع	آس۔ امید۔ توقع
آن	Aan	ف	وضع۔ غرور۔ شان و شوکت
آنحضرت	Anhazrat	ع	آں سرور۔ وہ بزرگ۔ وہ سردار۔ حضور ﷺ کے لیے تعظیماً بولتے ہیں
آنجناب	Anjnab	ع	کلمہ تعظیم۔ جناب والا۔ عالی قدر
آندرے	Andray	ر	نڈر۔ بے باک
آنق	Aanq	ع	راضی ہونا۔ خوش ہونا
آویز	Awaiz	ف	چاہت۔ پیار۔ محبت۔ اُنس
آویژہ	Awazah	ف	پاکیزہ خالص
آوان	Awaan	ع	ساعت۔ لمحہ۔ وقت۔ گھڑی۔ حکم۔ احکام
آئیجان	Aijaan	ت	بمعنی چاند خاں

marfat.com
Marfat.com

آئیجان	Aijaan	ت	بمعنی چاند خاں
آئیدن	Aiden	ت	روشن
آئیدمیر	Aidmeer	ت	چمکتا فولاد
آئے تن	Aitan	ت	شام کا چاند
آئے نور	Ainoor	ت	چاند کا نور
آئیدون	Aidon	ت	مبارک دن۔ روشن دن
آئے کت	Aikat	ت	روشن چاند۔ چمکتا چاند۔ مبارک چاند
آیت	Ayat		(آیت اللہ)۔ علامت۔ نشان۔ قرآن مجید کا پورا جملہ

marfat.com
Marfat.com

الف

ابتسام	Ibtsam	ع	شگفتگی۔کھلا ہوا۔مسکراہٹ
ابرار	Abrar	ع	نیک لوگ۔بھلے لوگ۔اچھے لوگ۔متقی لوگ
ابریق	Abreeq	ع	چمکیلی تلوار۔چھاگل
ابرہہ	Abrah	ع	یمن کا حبشی گورنر جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خدا کے حکم سے ابابیلوں کے کنکر پھینکنے سے تباہ ہو گیا
ابثر	Absar	ع	بلند۔عالی۔آسمان
ابصر	Abser	ع	نظر۔نگاہ۔آنکھ۔علم
ابصار	Absar	ع	آنکھیں۔علم و حکمت۔ دانائی۔ مشہور براڈکاسٹر ابصار عبدالعلی
ابسالم	Absaalam	عبر	صلح جُو
ابساط	Ibsat	ع	کشادہ۔فراخ۔کھلا۔وسیع
ابشام	Absham	ع	ایک خوشبودار درخت
ابشر	Absher	ع	کسی کو خوشخبری پہنچانا
ابیض	Abeez	ع	اجلا۔سفید
ابلیس	Iblees	اُع	خدا کی رحمت سے مایوس' شیطان' خبیث پلید' شریر' سرکش' فسادی' جھگڑالو
آبلا	Ablaa		نازک۔کامی۔اکیلی عورت۔زن
ابطال	Abtaal		بطل کی جمع۔بہادر لوگ۔بڑے لوگ۔ہیرو
ابتار	Ibtar	ع	عنایت کرنا۔دینا۔عطا کرنا
ابراز	Abraz	ف	راز فاش ہونا۔ظاہر ہونا۔بھید کھلنا۔عیاں ہونا

marfat.com

Marfat.com

ابراہیم	Ibrahim	ع	مشہور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام
اباحت	Abahat	ع	جائز۔جواز۔اجازت۔ٹھیک۔درست
ابوذر	Abuzer	ع	حضور نبی کریم ﷺ کے مشہور صحابی حضرت ابوذر غفاریؓ
ابوحنیفہ	Abu Hanifa	ع	فقہ حنفی کے مشہور امام حضرت نعمان بن ثابتؒ کی کنیت
ابوہُریرہ	Abu Hareera	ع	مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہؓ
ابوالخیر	Abu-L-Khair	ع	بھلائی کا باپ۔ایران کا ایک مشہور شاعر
ابوالحسن	Abu-L-Hasan	ع	حسن کا باپ۔سیدنا حضرت علیؓ کی کنیت
ابسام	Absam	عبر	صلح پسند۔صلح جو
ابریشینہ	Abrashmina	ف	ریشم کی چیز
ابدال	Abdal	ع	بدل کی جمع۔اولیاء اللہ کا ایک درجہ
ابوالقاسم	Abu-al-qasim	ع	حضور ﷺ کی کنیت آپ ﷺ کے صاحبزادے قاسم کی وجہ سے
ابوبکر	Abu Bakar	ع	خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیقؓ
ابوطالب	Abu Talib	ع	حضور ﷺ کے چچا۔جنہوں نے حضور ﷺ کی پرورش کی۔ حضرت علیؓ کے والد محترم
ابولہب	Abu lahab	ع	حضور ﷺ کے چچا۔مگر اسلام کے بدترین دشمن کا نام۔ ہوس کا باپ
ابوتراب	Abu Tarab	ع	مٹی کا باپ۔سیدنا علیؓ کی یہ کنیت آپ کو نبی کریم ﷺ نے عطا فرمائی تھی
اَپُورپ	Apporap		عجیب وغریب۔انوکھا۔نادر
اتباع	Itbaa	ع	پیروی کرنا، تقلید، اطاعت، فرمانبرداری

marfat.com
Marfat.com

اتحاف	Ittehaf	ف	سوغات دینا۔ تحفہ دینا۔ ہدیہ دینا
اتصاف	Ittesaf	ف	تعریف کیا جانا' توصیف کرنا' صفت کرنا
انصاف	Insaf	ع	تعریف کیا جانا۔ توصیف کرنا۔ صفت کرنا
اتابیک	Atabeek	ف	اتالیق۔ بزرگ۔ استاد
اتفاق	Ittefaq	ع	سلوک۔ اتحاد۔ دوستی۔ موقع
اتہاس	Ittehas	ف	کہانی۔ حکایت۔ روایت۔ تاریخ
اتصال	Itsaal		چپکنا۔ پیوستگی۔ ملاپ۔ قرب۔ نزدیکی۔ تعاقب
اتالیق	Ataleeq	ف	استاد۔ معلم۔ پڑھانے والا
اتابک	Atabak	ت	استاد۔ محافظ۔ معلم
انمبر	Atamber	سندھی	ڈھیر۔ انبار۔
اُثمد	Usmad	ع	سرمے کا پتھر
اثمر	Asmar	ع	سرمے کا پتھر
اثیر	Aseer	ع	اونچی۔ بلند و بالا۔ عالی۔ آسمان۔ فلک
اثاقل	Asaqal	ع	دنیا کی طرف رغبت کرنا۔ دنیا کی طرف توجہ کرنا
اثنین	Asneen	ع	دو
اثنان	Asnan	ع	دو۔ دوسرا
اثیل	Aseel	ف	منفرد۔ ذاتی اونچے خاندان کا رکن
اجمر	Ajmar	ع	تیز چلنا
اُجیالا	Ujyala	ہ	روشنی۔ چمک
اجمال	Ajmal	ع	خوبصورت۔ حسین۔ خوب۔ مشہور۔ [illegible]
اجم	Ajam	ع	درخت۔ شجر۔ بن۔ جنگل
اجلال	Ajlal	ع	شان و شوکت۔ بلند مرتبہ۔ عظمت۔ [illegible] [illegible]

marfat.com

Marfat.com

اجواد	Ajwad	ف	عقلمند۔ دانا۔ دانشمند۔ سمجھدار۔ سخی
اَجلد	Ajald	ع	بزرگ لوگ۔ شان وشوکت والے۔ عظمت والے
اجنبی	Ajnabi	ع	پردیسی' غیر دیس کا مسافر' ناآشنا ناواقف' وہ شخص جس سے جان پہچان نہ ہو' نیا' انجان' جمع اجانب چھانٹنا' پسند کرنا' چننا
اجمال	Ajmal	ع	مختصر۔ اختصار۔ تھوڑا
اَحب	Ahab		جس سے بہت زیادہ محبت ہو۔ محبوب ترین۔ سب سے پیارا
احجاز	Ahjaz	ع	پتھر
اِحبدل	Ahbdil	ع	بزرگی
احتضار	Ahtzar	ع	حاضر ہونا۔ تازہ ہونا
اِحرار	Ehrar	ع	آزاد لوگ
احزن	Ahzan	ع	سخت زمین پر چلنا۔ غمگین کرنا
اِحماد	Ehmad	ع	تعریف کے قابل کرنے والا
احمریں	Ahmareen	ع	سرخ رنگ کا
اِحلاء	Ehlah	ع	شیریں کرنا
احور	Ahoor	ع' ص	خوبصورت۔ سیاہ آنکھوں والا۔ مشتری
احراد	Ahraad	ع	آزاد لوگ
احسف	Ahsaf	ع	کھجوریں ملانے والا
احفاظ	Ahfaaz	ع	محافظ لوگ
احد	Ahed	ع	ایک۔ یکتا۔ اکیلا۔ تنہا۔ یگانہ۔ یک۔ اللہ احد۔
احسان	Ehsan	ع	نیکی۔ بھلائی۔ اچھا سلوک۔ نیک برتاؤ
احتشام	Ehtisham	ع	بزرگی۔ شوکت' جاہ وجلال' ایک نام احتشام الحق
احترام	Ehtram	ع	عزت۔ قدرت ومنزلت۔ ایک نام احترام الحق تھانوی
احمر	Ahmer	ع	سرخ۔ لال

marfat.com
Marfat.com

احمرین	Ahmareen	ع	سرخ رنگ رکھنے والا سرخ رنگ کا
احمد	Ahmed	ع	تعریف کیا ہوا۔ حضور نبی کریم ﷺ کا اسم مبارک
احکم	Ahkem	ع	پختہ۔ مضبوط۔ پائیدار۔ بڑا حاکم۔ ٹھوس۔ اللہ تعالیٰ کی صفت
احشام	Ahtesham	ف	آنکھیں۔ دولت۔ مال
احسن	Ahsen	ع	نیک۔ اچھا۔ بہت بھلا۔ حسین۔ خوبصورت
احباب	Ahbab	ع	دوست۔ رفیق۔ ساتھی۔ جاننے والا
احبار	Ahbar	ع	دانا۔ سمجھدار۔ دانشمند۔ عقل مند
احزام	Ahzam	ع	پارٹیاں
احزم	Ahzem	ع	عقل مند۔ دانا۔ ہوشیار۔ سمجھدار۔ مصمم ارادہ والا
إحماد	Ihmad	ع	حفاظت رکھنا۔ محفوظ رکھنا۔ نگہبان ہونا
احیان	Ahyan	ا ع	حین کی جمع 'زمانے' اوقات
إحراز	Ihraz	ع	حفاظت کرنا' محفوظ رکھنا' نگہبان ہونا
اخلاص	Ikhlas	ع	چاہت۔ محبت۔ لالچ سے مبرا۔ دوستی۔ مخلص۔ خلوص کی جمع
اخراج	Akhraj	ف	خوش کرنا
اخوت	Akhuwat	ع	برادری
اخگر	Akhgar	ع	چنگاری
إخلاف	Ekhlaf	ع	سعادت مند لڑکے
اخوان	Akhwan	ع	برادران۔ بھائی
اخبر	Akhber	ع	خبر دینے والا۔ تجربہ کرنا۔ اطلاع کرنے والا۔ آزمانا
اختر	Akhter	ف	قسمت۔ نصیب۔ ستارہ۔ شگون۔ مبارک
اختیار	Akhtiar	ف	پسند کرنا۔ انتخاب کرنا۔ حاکمیت۔ چننا
اخیار	Akhyar	ع	نیک۔ متقی۔ پرہیزگار۔ خیر کی جمع
اخلاق	Akhlaq	ع	کردار۔ بول۔ کلام۔ خوش خوئی۔ خلق کی جمع

marfat.com

Marfat.com

اخرم	Akhram	ع	عقل مند۔ دانا۔ ہوشیار۔ دور بین۔ سیانا
اخضر	Akhzir	ع	سبز۔ ہرا۔ گرین
اخمس	Akhmas	ف	دلیر۔ نڈر۔ جری۔ بہادر
اخفش	Akhfash	ع	ابوالحسن نحوی کا لقب جو کہ علم نحو میں ماہر تھے۔
اخونزادہ	Akhwanzada	ف	استاد کا بیٹا
اخلا	Akhla	ع	دوست۔ رفیق۔ ساتھی۔ خلیل
ادھم	Adham	ف	سیاہ گھوڑا۔ بلخ کے حکمران اور مشہور ولی ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام
ادریس	Adrees	ع	تعلیم دینے والے۔ سکھانے والے۔ ایک مشہور نبی حضرت ادریس علیہ السلام
ادیب	Adeeb	ع	لکھاری۔ لکھنے والا۔ مشہور لکھاری میرزا ادیب
ادیم	Adaim	ع	لال رنگت والا خوشبودار چمڑا۔ زمین کی سطح
ادیان	Adyan	ع	مذاہب۔ دین کی جمع
اذعان	Ezan	ع	فرمانبرداری۔ اطاعت۔ یقین۔ اعتماد
اذاعت	Izaat	ف	مشہور کرنا۔ عام کرنا۔ پھیلانا۔ نمایاں کرنا
اذہان	Izhan	ع	عقل۔ سمجھ۔ دانش۔ سوجھ بوجھ
اذفر	Azfer	ع	بزرگ۔ مقبول لوگ۔ برگزیدہ لوگ۔ نیک لوگ
اذین	Azain	ف	زیبائش۔ آراستگی۔ زینت
آذرنگ	Azrang	ف	روشن۔ منور۔ نورانی۔ چمکدار۔ پرنور
اذکی	Azki	ع	دانشمند۔ عقل مند۔ سمجھدار۔ ذی فہم۔ دانا
اذہاب	Azhab	ع	سنہرا۔ سونا۔ گولڈن۔ ذھب کی جمع
اذیال	Azyal	ع	دامن

marfat.com
Marfat.com

ارقم	Arqam	ع	لکھاری۔ لکھنے والا۔ تحریر کرنے والا۔ حضور نبی کریم ﷺ کے پیارے صحابی حضرت (ارقم مخزومیؓ) کا نام
ارمان	Arman	ع	آرزو۔ تمنا۔ خواہش
ارادت	Eradat	ع	ارادہ کرنا۔ مرید بننا
اردعان	Ardaan	ت	تیر باز
اردین	Ardeen	ع	امتحان۔ تجربہ
ارزاق	Arzaq	ع	بارش
ارسطو	Aratoo	ف	سکندر اعظم کے وزیر کا نام جو یونان کا مشہور حکیم تھا۔ عقلمند۔ دانا
ارشق	Arshaq	ف	قدآور۔ صاحب عزت
ارفی	Arfee	ع	کسی سے پناہ لینا
ارغوان	Arghwan	ف	سرخ اور نارنجی رنگ کا۔ سرخ رنگ کا ایک پھول
ارقام	Irqaam	ع	لکھنا۔ تحریر کرنا۔ رقم
ارکان	Irkaan	ت	بڑے عہدے والا
ارم	Iram	ع	وہ جنت جسے شداد نے بنایا
ارفع	Arfah	ع	اونچا۔ اعلیٰ۔ بلند مرتبہ۔ عالی مرتبہ۔ بالا
ارشد	Arshed	ع	نیک۔ ہدایت یافتہ۔ نہایت بھلا۔ مشہور ادیب ارشد القادری
ارحام	Arham	ع	رحم کرنے والا۔ نرمی کرنے والا۔ رحم کی جمع
ارتضیٰ	Irtiza	ع	پسندیدہ ہونا۔ ایک نام ارتضیٰ حسن اشرفی
ارتضاء	Artzah	ع	پسند کرنا۔ منتخب کرنا۔ چننا
ارتفی	Artafi	ع	پسندیدہ ہونا
ارسل	Arsel	ع	روانہ کرنا۔ بھیجنا۔ ارسال کرنا

marfat.com

Marfat.com

ارشاد	Arshad	ع	حکم۔ ہدایت
اروز	Aroze	ع	قوی ہونا۔ طاقتور ہونا۔ مضبوط ہونا
ارسلان	Arsalan	ف	شیر۔ بندہ۔ ایک مشہور بادشاہ کا نام ارسلان
ارمغان	Armghan	ف	تحفہ۔ سوغات۔ ہدیہ
اروب	Aroob	ف	بیچ میں آنے والا۔ درمیان میں آنے والا
ارجل	Arjal	ع	وہ گھوڑا جس کا ایک پاؤں سفید اور تین دوسرے رنگ کے ہوں
ارداز	Ardaz	ع	قوی ہونا۔ استوار
اردین	Ardin	ع	امتحان۔ تجربہ
ارسال	Arsaal	ع	بھیجنا۔ روانگی
ارمی	Urmy	ع	جمع۔ رہنا
ارفی	Arfy	ع	کسی سے پناہ لینا
ارقام	Arqaam	ع	لکھنا۔ تحریر کرنا۔ رقم
ارزاق	Arzaaq	ع	بارش
ارجمند	Arjmand	ف	قدر و منزلت والا۔ صاحب رتبہ۔ عزت و مرتبہ والا
ارژنگ	Arzhang	ف	شیر۔ توران کا ایک مشہور پہلوان
اردشیر	Ardsher	ف	شیر کے غصے والا۔ زبردست غصیلا۔ جلالی طبیعت والا۔ فارس کا پہلا ساسانی بادشاہ
اردم	Irdam	ت	نیک کردار۔ حسن سیرت
اریل	Ireel	ت	دلیر۔ جری۔ بہادر۔ نڈر
ارید	Urid	ع	خواہش کرنا۔ چاہت کرنا۔ تمنا کرنا
ارکن	Irken	ت	بے قید۔ فارغ۔ آزاد
اریس	Arees	ع	کسان۔ زمیندار
اریب	Areeb	ع	دانا۔ عقل مند۔ دانشمند۔ ذی شعور۔ سمجھدار

marfat.com

Marfat.com

ارصی	Arsee	ع	مضبوطی سے رہنا۔ثابت قدم رہنا
اردل	Ardil	ت	بہادر۔دلیر۔جری۔نڈر
ارتاخ	Artakh	ع	خوش ہونا۔پرمسرت ہونا۔چست ہونا
ارباب	Arbab	ع	پالنے والا۔مالک۔نگہبان
ارتاش	Artash	ع	خوشحال ہونا۔آسودہ حال ہونا
ارمضان	Armzaan		تحفہ۔سوغات۔نذرانہ
ارحم	Arham	ع	بہت رحم کرنے والا
اریس	Arees	ف	کسان
ارکان	Arkan	ت	مرتبے والا
اریکہ	Arikah	ف	سجا ہوا تخت تخت
اریل	Areel	ت	دلیر
ازبک	Uzbak	ت	سردار۔رئیس۔سربراہ۔خودمختار۔ترکوں کا ایک قبیلہ
ازرف	Izraf	ع	آگے بڑھنا۔جلدی کرنا
ازمار	Azmaar	ع	غصے سے سرخ ہونا
ازدم	Izdam	ع	تکبر سے سر اونچا کرنا
ازرف	Izraf	ع	آگے بڑھنا۔جلدی کرنا
ازل	Azal	ع	ہمیشہ۔تیز رفتار
ازلی	Azli	ا ف	ہمیشہ سے۔شروع سے۔ابدت
ازہران	Izhran	ع	سورج و چاند
ازہاد	Izhad	ف	زہد اختیار کرنا۔خواہش کرنا۔چاہت کرنا۔رغبت کرنا
ازاحت	Izahat	ع	کام کو پورا کرنا۔کام کو مکمل کرنا
ازدھار	Izadhar	ع	مرتبہ۔ترقی۔رتبہ۔آگے بڑھنا
ازہر	Azher	ع	چمکیلا۔روشن۔منور۔نورانی

marfat.com

Marfat.com

ازہار	Izhar	ف	شگوفے۔کلیاں
ازحف	Izhaf	ع	انتہائی مقصد تک پہنچنا
ازدھر	Izdher	ع	چمکیلا۔منور۔روشن ہونا
ازانت	Izanet	ع	آرائش کرنا' زیبائش کرنا' سجانا' آراستہ کرنا
ازداد	Izdad	ع	تابعدار۔فرمانبردار۔مطیع
اِسحاق	Ishaq	عبر	حق پر ثابت قدم۔ ایک نبی کا اسم مبارک جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے
ازعم	Izum	ع	تابعدار' فرمانبردار' مطیع
ازرق	Izraq	ع	آسمانی' نیلا' نیلگوں
اژدر	Asdar	ف	اژدھا۔اجگر
اژیر	Isseer	ف	تندرست' توانا' آمادہ' راضی
اسوہ	Uswah	ع	نمونہ' مثل
اسم جلالی	Ism-e-Jalali	ع	اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس میں شان جلالی کا اظہار ہو۔ جیسے قہار و جبار
اُسامہ	Usama	ع	اپنائیت کا سلوک کرنے والا۔ حضور نبی کریم ﷺ کے صحابی حضرت (اُسامہ بن زیدؓ) کا نام
اسناد	Asnad	ف	بھروسہ
اسلام	Islam	ع	فرمانبرداری کرنا۔اطاعت کرنا۔تابعداری کرنا۔جھکنا
اسد	Asad	ع	شیر۔سیدنا علیؓ کا لقب اسداللہ
اسلم	Aslam	ع	پاکیزہ۔محفوظ۔صاف۔سلامت
اسحار	Ashar	ف	سویرا۔فجر۔صبح
اسہار	Ishaar	ف	جاگنا۔بیدار کرنا۔جگانا۔بیدار ہونا

marfat.com
Marfat.com

اسماعیل	Ismail	عبر	مسکراہٹ۔ مسرت۔ خوشی۔ تبسم۔ دلیر۔ بہادر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت (اسماعیل علیہ السلام) کا نام
اسعار	Asaar	ف	قیمت کرنا۔ مول کرنا۔ بھاؤ کرنا
اسغار	Asghar	ف	روشن ہونا
اسعاد	Asad	ف	بھاؤ کرنا
اسفار	Isfar	ف	روشن ہونا۔ چمکدار۔ منور ہونا
اسلان	Aslaan	ت	تیر
اسمار	Asmaar	ف	رات کے افسانے
اسحر	Asher	ع	سویرا ہونا۔ صبح ہونا۔ اجالا ہونا
اسلوب	Asloob	ع	انداز۔ طریقہ۔ ڈھنگ۔ ڈھب۔ طرز
اسرار	Asrar	ع	بھید۔ راز۔ چھپا ہوا۔ ایک نام ڈاکٹر اسرار احمد
اسفندیار	Asfand Yar	ع	حق قدرت۔ فارس کے بادشاہ کا مشہور سپہ سالار جس کو رستم نے قتل کر دیا تھا
اسعد	Asad	ع	مبارک۔ نیک بخت۔ خوش نصیب۔ مددگار ایک صحابی کا نام
اسیر	Aseer	ف	قیدی۔ غلام
اسید	Asayed	ع	شیر رکھنے والا۔ حضور نبی کریم ﷺ کے پیارے صحابی حضرت (عتابؓ) کے والد کا نام
اسمر	Asmer	ف	گندمی رنگت والا۔ گندم گوں
اسجل	Asjal	ع	صاحب برکت ہونا۔ صاحب خیر کرنا
اسعاف	Asaaf	ف	ضرورت پوری کرنا۔ حاجت پوری کرنا
اسجاد	Asjad	ف	فجر
اسراد	Asrad	ف	راز
اسرافیل	Israfeel	ف	سور پھونکنے والا

marfat.com
Marfat.com

اسرائیل	Israeel	ف	حضرت یعقوب
اسطر	Aster	ف	میزان۔ترازو
اسکندر	Sikander	یو	مشہور یونانی بادشاہ
اسخی	Askhi	ع	سخی۔فیاض۔بہت زیادہ سخاوت کرنے والا
اسوار	Aswar	ف	سوار
اسہل	Ashel	ع	نہایت آسان
اسہاب	Ashaab	ف	زیادہ باتیں کرنا۔جنگل میں سفر کرنا
اسیف	Asaif	ف	تابعدار۔فرمانبردار۔حکم ماننے والا
اسہام	Ishaam	ع	تیروں کے ذریعے قرعہ نکالنا
استحسان	Istahsan	ع	اچھا سمجھنا
اسود	Aswed	ع	سیاہ۔کالا
اشتال	Ishtaal	ع	بلند ہونا۔کسی سے تعرض کرنا
اشبال	Ashbaal	ع	شیر کے بچے۔مہربانی کرنا
اشر	Ashar	ع	بہت شریر
اشہب	Ashhab	ع	شعلہ۔آگ۔سیاہ گھوڑا
اشعاف	Ashaaf	ع	محبت کی شیفتگی
اشرف	Ashref	ع	بزرگ۔شریف۔نیک۔مشہور ادیب آغا اشرف
اشعر	Asher	ع	شاعر۔عقل مند۔زیرک۔دانا۔سمجھدار۔دانشمند
اشفاق	Ishfaq	ع	شفیق۔مہربان۔کرم کرنے والا۔شفقت کرنے والا۔اردو کے مشہور ادیب اشفاق احمد
اشراف	Ashraf	ع	شرافت والا۔اعلیٰ خاندان۔ایک نام اشراف الانوار
اشہاد	Ashhad	ع	شاہد۔گواہ
اشبل	Ashbel	ع	کسی پر شفقت کرنا۔کسی پر مہربانی کرنا۔کسی پر عنایت کرنا

marfat.com

Marfat.com

اشناد	Ashnad	ف	پانی میں تیرنے والا۔ تیراک۔
اشباح	Ashbah	ف	بدن، جسم، قالب
اشہل	Ashhel	ع	منور۔ روشن۔ چمکدار۔ پُر نور
اشناس	Ishnas	ع	شناخت کرنے والا۔ پہچاننے والا۔ خلیفہ معتصم باللہ کا ایک بہادر غلام۔ اشناس جو رومیوں کے خلاف اس بے جگری سے لڑا کہ خلیفہ نے خوش ہو کر اسے فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔
اشتر	Ashter	ع	سیدنا علیؑ کے لشکر کے ایک سالار کا نام
اشبر	Ashber	ع	فوقیت دینا۔ فضیلت دینا
اشتیاق	Ishtiaq	ع	آرزو۔ خواہش۔ شوق۔ تمنا۔ لگن
اشکن	Ashken	ت	تندرست۔ صحت مند۔ ہشاش بشاش
اشہر	Asher	ع	نامی گرامی۔ بہت زیادہ شہرت والا۔ مشہور و معروف
اشجع	Ashja	ع	نہایت دلیر۔ جری۔ بڑا بہادر۔ نڈر۔ شجاع
اشراق	Ashraaq		سورج کا طلوع ہونا۔ سورج نکلنے کا وقت۔ وہ نماز جو سورج نکلنے کے وقت پڑھی جاتی ہے
اشدق	Ashdeq	ع	فراخ دہن (کھلے منہ والا)
اصفاح	Asfah	ف	بات رد کرنا
اصغار	Asnghar	ف	غریب
اصلکان	Asalkan	ت	نیک خون۔ شریف خون
اصالت	Asaalat	ع	اصل پن۔ شرافت۔ بزرگی
اصرار	Israr	أ ع	ضد کرنا۔ کسی نامناسب کام کے لئے کمر بستہ ہونا
اصبر	Asbar	ع	صبر دلانا
اصحف	Ashaf	ع	صحیفوں کو جمع کرنا
اصدار	Asdaar	ف	بات صادر کرنا

marfat.com
Marfat.com

اصعد	Asad	ع	مکے کو جانا
اصفاح	Asfaah	ع	بات رد کرنا
اصفاد	Asfaad	ف	بندھن۔ بخشش
اصفیاء	Asfiah	ع	برگزیدہ لوگ۔ چنے ہوئے لوگ۔ پاک باطن لوگ۔ صفی کی جمع
اصطب	Astab	ع	پانی گرنا
اصنام	Asnaam	ف	صنم کی جمع۔ دوست
اصابت	Asabet	ف	ٹھیک کہنا۔ درست کرنا۔ صحیح کرنا۔ مضبوطی۔ ثابت قدمی
اصباح	Asbah	ع	سویرا۔ صبح۔ فجر۔ اجالا۔ شفق
اصلاح	Islah	ع	درستگی۔ تصیح۔ ہاکی کے مشہور پاکستانی کھلاڑی اصلاح الدین
اصمعہ	Ismah	ع	فوری سننے والا۔ جلدی سننے والا۔ تیز تلوار۔ تیز شمشیر، حبشہ کے ایک حکمران کا نام
اصبح	Isbah	ع	حق اجاگر کرنا۔ حق ظاہر کرنا۔ حق کہنا
اصغر	Asghar	ع	چھوٹا، کمسن
اصمد	Asmed	ع	مدد کرنا۔ سہارا دینا
اصحا	Asha	ع	تندرست۔ صحت مند۔ صحیح کی جمع
اصطبار	Astbar	ع	صبر کرنا۔ برداشت کرنا
اصطفاء	Astfah	ع	منتخب کرنا۔ چن لینا۔ پسند کر لینا۔ برگزیدہ۔ بزرگ
اصفی	Asfi	ع	روشن۔ منور۔ بہت صاف۔ چمکدار
اصفر	Asfer	ف	زرد رنگ۔ پیلا رنگ۔ دینار
اضاف	Izaaf	ع	دوڑنا۔ جلدی کرنا
اضیاف	Aziaf	ع	مہمان۔ ضیف کی جمع
اضمار	Izmar	ع	چھپانا۔ پوشیدہ کرنا
اطراز	Itraaz	ف	نقش ونگار بنانا

marfat.com
Marfat.com

اطغان	Itghan	ع	اطمینان بخش
اطہر	Ather	ع	پاکیزہ۔ پاک۔ صاف۔ بہت پاک
اطفان	Itfan	ع	تسلی بخش۔ اطمینان بخش
اطارت	Atarat	ع	اونچا اڑنا۔ بلندی پر اڑنا
اطیب	Itayyab	ع	پاکیزہ۔ بہت اچھا۔ بہت زیادہ پاک۔ خوشبودار
اطراب	Itterab	ف	خوشی و مسرت کرنا
اظہر	Azher	ع	چمکیلا۔ روشن۔ منور۔ صاف۔ بہت واضح
اظہار	Izhar	ع	واضح کرنا۔ ظاہر کرنا۔ آشکارہ کرنا
اظلال	Azlal	ع	سائے۔ ظل کی جمع
اظفر	Azfar	ع	فتح مند۔ کامیاب و کامران۔ خوشبودار
اظفار	Izfar	ع	اظفر کی جمع۔ خوشبودار اشیاء۔ کامیابیاں و کامرانیاں
اعراس	Araas	ف	رضامندی۔ آمادگی۔ خوشی۔ شادمانی۔ مسرت
اعطاف	Ataaf	ع	کرم نوازیاں۔ مہربانیاں۔ عنایات۔ شفقتیں
اعتماد	Aitmad	ع	یقین رکھنا۔ اعتبار۔ بھروسہ۔ ایک نام اعتمادالدولہ
اعتباد	Etbaad	ع	کسی کو اپنا بندہ بنانا
اعتدال	Etdaal	ع	ایک سا ہونا۔ برابر۔ میانہ روی۔ یکسانیت
اعتصار	Atsaar	ع	پناہ لینا
اعتماد	Atmaad	ع	زیارت کرنا
اعتنار	Atnaar	ع	یکسو ہونا۔ دور ہونا
اعصار	Esaar	ع	بگولہ۔ گرم ہوا
اعضاف	Ezaaf	ع	پرہیزگار
اعظام	Azaam	ع	عظمت کرنا۔ بزرگ ماننا
اعلام	Alaam	ع	خبر دینا۔ آگاہ کرنا

marfat.com
Marfat.com

اعوان	Awan	ع	حمایت کرنے والے مددگار بہت سے حامی معاون
اعجاز	Ijaz	ع	معجزہ' کرامت
اعزاز	Aizaz	ع	مرتبہ' انعام' عزت' مقام
اعظم	Azam	ع	عالی مرتبت' بہت بڑا' عظیم' بزرگ
اعین	Ain	ع	بڑی آنکھ والا
اعمار	Amaar	ع	عرصہ' مدت' زندگی' سن' عمر کی جمع
اعلیٰ	Ala	ع	بلند مرتبہ' بہت اونچا' بلند و بالا
اعذب	Azeb	ع	بہت میٹھا' شیریں
اعتصام	Aitsam	ع	مضبوطی سے تھامنا' مضبوط پکڑنا
اعتعار	Ataar	ع	پناہ لینا
اعتذار	Atzaar	ع	عذر کرنا
اعفاف	Afaaf	ع	پرہیزگار
اعتبار	Aitbar	ع	یقین' بھروسہ' اعتماد' ایک نام حافظ اعتبار احمد خان
اعتزاز	Aitzaz	ع	خوبی' عزیز ہونا' ایک نام اعتزاز احسن
افحام	Afjaam	ع	کسی کو دلیلوں سے قائل کرنا
افخام	Afkhaam	ع	تعظیم کرنا
افروز	Afroze	ف' ص	روشن کرنے والا
افشار	Afshaar	ع	نچوڑنے والا
افشاں	Afshan	ع	سونے چاندی کا برادہ۔ جو چیز چھڑکی جائے
افلاطون	Aflaatoon	ع	یونان کا مشہور حکیم۔ نہایت چوڑے سینے والا مخفف
افغم	Afgham	ع	خوشبو سے بسانا
افراسیاب	Afrasiab	ف	توران کا ایک بادشاہ
افراح	Ifra	ف	خوش کرنا' راضی کرنا

marfat.com
Marfat.com

افراض	Afraz	ف	بلند ہونا' اونچا ہونا
افسر	Afser	ف	حکم کرنے والا' حاکم' عہدہ دار' سردار' تاج
افشاء	Afsha	ف	عبارت
افتخار	Iftikaar	ع	فخر کی جمع' فخر کرنا' مرتبہ' عزت
افاضل	Afazel	ع	افضل کی جمع' بزرگ' علم والا' جاننے والا' عالم فاضل
افصح	Afseh	ع	خوش بیان' شیریں کلام' فصیح
افضل	Afzal	ع	بہترین' اعلیٰ' مبرا' ارفع
افہام	Ifham	ع	عقل' دانش' سمجھ' شعور
افقر	Afqar	ع	فقر کو دوست رکھنے والا' درویش' غریب
افلاح	Iflah	ع	کامیاب و کامران ہونا' نیکی کرنا' اچھائی کرنا
افضال	Afzaal	ع	مہربانیاں' عنایات' بخششیں' فضل کی جمع
افگن	Afgan	ف	پچھاڑنے والا' گرانے والا' ہرانے والا' مارنے والا
افشین	Afsheen	ف	سنہری' خلیفہ مامون الرشید کی فوج کا ایک سپہ سالار
افراہیم	Ifrahim	عبر	پھلدار' ہرا بھرا' نتیجہ خیز
افراز	Ifraz	ف	اونچائی' بلندی' بالا
اقبال	Iqbal	ع	کامیابی' خوش نصیبی' طالع' قسمت' مقدر' اعتراف' اقرار' پاکستان کے قومی رہنما اور شاعر علامہ محمد اقبال
اقمر	Aqmer	ع	بہت سفید' چاند کی مانند' دودھیا' نہایت روشن
اقتداء	Iqtdaa	ع	پیروی کرنا۔ تدبیر والا۔ پیرو ہونا۔ نقش قدم پر چلنا
اقتدار	Iqtidar	ع	حکومت' طاقت' اختیار
اقراء	Iqra	ع	پڑھ
اقلیم	Aqleem	ف	کرہ ارض کا ایک حصہ۔ سلطنت۔ ولایت
اقسط	Aqsat	ف	بڑا عادل

marfat.com
Marfat.com

اقرب	Aqrab	ع	قریب ہونا' نزدیک ہونا' پاس ہونا' قربت
اقدار	Aqdar	ع	قدریں' قدر کی جمع
اقرف	Iqraf	ع	بہت زیادہ لال' بہت سرخ' لعل
اقسط	Iqsat	ف	منصف' جج' عادل' انصاف کرنے والا
اقویٰ	Iqwa	ع	طاقتور' زبردست' بہت قوی
اقطاب	Iqtab	ع	سردار' سربراہ' مرکز' قطب کی جمع
اقرار	Iqrar	ع	تسلیم کرنا' ماننا' حامی بھرنا' ہاں کرنا
اقدم	Iqdam	ع	بہت آگے' سب سے آگے
اقدس	Aqdes	ع	بزرگ' پاکیزہ' بہت پاک' حرمت والا۔ قدس کی جمع
اقارب	Iqareb	ع	عزیز' رشتہ دار
اقران	Iqran	ع	ستاروں کا ملاپ
اقامت	Iqamat	اُع	قائم ہونا۔ قرار۔ سکون۔ ٹھہراؤ
اقلیم	Aqleem	ف	سلطنت
اکمان	Akmaan	ع	کمان سنبھالنا
اکناف	Aknaaf	ع	مدد دینا
اکگن	Akgan	ت	روشن دن (اک۔ گن)
اکناف	Aknaaf	ع	مدد دینا
اکتساب	Iktisab	ع	محنت سے کمانا' حاصل کرنا
اکتاز	Aktaaz	ع	کوزے سے پانی لینا
اکمل	Akmel	ع	کامل' مکمل' بالکل' پورا' ماہر' مہارت رکھنے والا
اکبر	Akber	ع	بہت بڑا۔ یعنی ہر چیز سے بڑا۔ اللہ اکبر
اکرام	Ikram	ع	عنایت کرنا' مہربانی کرنا' انعام کرنا' کرم کرنا' بخشش کرنا

marfat.com
Marfat.com

اکرم	Akrem	ع	بہت کرم کرنے والا' بہت عنایت کرنے والا' بہت کریم' بہت مہربانی کرنے والا
اکارم	Ikarem	ف	کرم کرنے والے' مہربانی کرنے والے' عنایت کرنے والے
اکابر	Ikaber	ع	بہت بڑا' اکبر کی جمع
اکتم	Iktem	ع	خفیہ' چھپا ہوا' پوشیدہ
اکمال	Ikmaal	ع	تکمیل کرنا' کامل کرنا
اکنان	Iknan	ع	پردہ
اکبیر	Akbir	ع	اکٹھا کرنے والا' جمع کرنے والا' بڑا کرنے والا' شریف
الٰہی	Elaahy		اللہ سے منسوب۔ میرا خدا۔ میرے اللہ
البیلا	Albela	اُہ	جوان رعنا' بانکا ترچھا' چھیلا پن
الحان	Al-han	اُع	اچھی آواز سے گانا یا پڑھنا' لے سر بفتح اول
الحق	Alhaque	اُع	فی الحقیقت۔ واقع۔ بے شک۔ درست۔ بجا
الغیاث	Al-ghiyas	ع	فریاد۔ فریاد ہے۔ دہائی ہے۔ کوئی بچاؤ۔
الہادی	Alhadi	ع	راہ دکھانے والا
التفات	Altefat	ع	قائل ہونا
الاسلام	Al-islam	ع	خدا کی اطاعت کرنا
العبد	Al-Abad	اُف	بندہ۔ فدوی۔ ناچیز (عام طور پر درخواست کے آخر میں لکھتے ہیں)
الباش	Albaash	ع	رئیس۔ سردار
التمش	Altamash	ت	آگے کی فوج۔ ہراول دستہ۔ ہندوستان کے سلاطین اسلام میں دوسرا بادشاہ۔ پورا نام شمس الدین التمش تھا۔
الدین	Aldeen	ع	دین۔ اکثر ناموں کا حصہ
الرحمان	Al-Rahman	ار	نہایت مہربان۔ اکثر ناموں کا حصہ۔ اللہ کا صفاتی نام

marfat.com
Marfat.com

الصاق	Ilsaaq	ع	ملانا۔چسپاں کرنا
المانی	Al-Mani	ع	جرمنی سے منسوب جرمن باشندہ
الیاس	Ilyas	عب	اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی اسم مبارک جو حضرت خضر علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے۔
التام	Iltam	ع	[illegible]ست ہونا' ٹھیک ہونا' صحیح ہونا
التمش	Altimash	ت	ترکی [illegible] اول دستہ' آگے کی فوج' خاندان غلاماں کا مشہور [illegible] الہند شمس الدین التمش
الپ	Alap	ت	بہادر دلیر' ندر' جری' شجاع
البادر	Albaadir	ع	ظاہر کرنے والا
البان	Albaan	ع	ایک قسم کا درخت
الصادق	Alsadiq	ع	ملانا۔چسپاں کرنا
الفارون	Al-Faroon	ت	بہت۔بافراط۔باکثرت سے
الفت	Ulfat	ف	محبت' پیار' چاہت' دوستی' رفاقت' توجہ' انس
الفتح	Al-Fatah	ع	پریشان۔مفلس۔قلاش۔مفت خورہ
اُلکو	Ulku	ت	بے نظیر' بے مثال
اُلکر	Ulker	ت	مثالی' منفرد' یگانہ
التماس	Iltmas	ع	گزارش' عرض
الحمرا	Al-Hamra	ع	غرناطہ (اسپین) میں مسلمانوں کا خوبصورت سرخ پتھر کا محل
الحذر	Alhezer	ع	پناہ' امان' حفاظت' ڈر' خوف
الطاف	Altaf	ع	مہربانیاں' عنایات' کرم نوازیاں' لطف کی جمع
الطف	Altef	ع	پاک صاف' نہایت پاکیزہ' نازک' بہت لطیف
اُلغ	Alagh	ت	بڑا' بزرگ
المعی	Almaee	ع	معاملہ فہم' نہایت زیرک' عالم' فاضل' بہت عقلمند' دانشمند

marfat.com
Marfat.com

الماس	Almas	ع	شفاف ہیرا
الواز	Alwaz	ف	روشنی نور
البان	Alban	عبر	دودھیا' سفید
امان	Amaan	ع	پناہ' حفاظت' مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد باقی باللہ رحمتہ اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت مولانا امان اللہ نقشبندی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ
امتر	Imtar	ع	گزرنا
اُمنگ	Umang	ف	آرزو۔ توقع۔ شوق
امبر	Ambar	ہ	چادر۔ آسمان۔ بادل
امتیاز	Imtiaz	ع	پرکھنا' فرق کرنا' تمیز کرنا' اردو کے مشہور ادیب امتیاز علی تاج' مشہور پاکستانی کرکٹر امتیاز احمد
امانت	Amanat	ع	کسی کی سپردکی ہوئی شے' تحویل
امداد	Imdad	ع	مدد کی جمع' مدد کرنا' دستگیری کرنا' اعانت کرنا
امین	Ameen	ع	امانت دار' حضور نبی کریم ﷺ کا ایک لقب مبارک
امام	Imam	ع	راہنما' پیشوا' راستہ دکھانے والا' ہادی' ایک نام' مشیر' پیش امام
امعان	Imaan	ع	دوربین' گہری نگاہ' تیز نظر' غور و فکر
امید	Umeed	ف	آس' توقع
امثال	Imsaal	ع	فرمانبرداری' تابعداری' اطاعت گزاری' ہم شکل
اماجد	Imajad	ع	بزرگ' بڑے' امجد کی جمع
امتنان	Imtinan	ع	احسان کرنا' احسان رکھنا
امی	Umi	ع	ان پڑھ' رسول کریم ﷺ کا لقب
امیر	Ameer	ع	دولت مند۔ حاکم۔ سردار۔ مالدار
امر	Amer	ع	فعل۔ فرمان۔ حکم

marfat.com

Marfat.com

اُمناء	Amnah	ع	امانتدار امین کی جمع
امیم	Ameem	ع	رہنما' پیشوا' ہدایت کرنے والا' امامت کرنے والا
اِمرار	Imrar	ف	پکا وعدہ کرنا' مصمم ارادہ کرنا' پکا عہد کرنا
امجد	Amjad	ع	شریف' نیک' بزرگ' مشہور شاعر امجد اسلام امجد
اِمصار	Imsaar	ع	بہت سے شہر
انابت	Anabat	ع	توبہ۔ عاجزی۔ انکساری۔ اللہ کی طرف مائل ہونا
اناطول	Anatool	یونانی	مشرق کا رہنے والا۔ مغرب کے ایک مشہور مصنف کا نام
انام	Anaam	ا'ع	خلقت۔ مخلوق۔ دنیا۔ پیدا کی ہوئی چیز
انتصر	Intasar	ع	لوگوں کا تعداد میں زیادہ ہونا
انتصاف	Intasaaf	ع	انصاف پانا
انتر	Antar	ع	لوگوں کا تعداد میں زیادہ
انتسام	Intsaam	ف	خوشبودار ہونا
انتصار	Intsaar	ع	مدد پانا۔ فتح
انجمن	Anjuman	ا'ف	محفل' الف پر زبر ج پر پیش' مجلس کمیٹی
انجب	Anjab	ع	بڑا شریف
انجیل	Anjeel	ع	مژدہ۔ خوشخبری۔ مقدس کتاب
انسب	Ansab	ع	مناسب ترین
انشد	Anshad	ع	پتہ لگانا۔ پوچھنا
انشراح	Inshraah	ع	خوشی۔ مسرت۔ سکون
انزال	Anzaal	ع	نازل ہوا۔ نزول ہونا
انضار	Inzaar	ع	خالص سونا۔ ہر خالص شے
انضب	Anzab	ع	کمان کی تانیت
انضر	Anzar	ع	تروتازہ ہونا

marfat.com
Marfat.com

انیل	Aneel	ہ	ناتجربہ کار۔ معصوم
اَنوپ	Anop		بے مثالی۔ لاثانی۔ بے نظیر۔ یکتا
انوشہ	Anosha	ف	دولہا
انباط	Anbat	ف	راحت
اَنجم	Anjam	ع	ستارے، نجم کی جمع
انتظار	Intizar	ع	راہ دیکھنا، اردو کے مشہور ادیب انتظار حسین
انتخاب	Intkhab	ع	چننا، منتخب کرنا، پسند کرنا، کرکٹ کے مشہور پاکستانی کھلاڑی انتخاب عالم
انشاد	Anshaad	ع	شعر پڑھنا
انظار	Anzaar	ع	تحفہ۔ صلہ
انظر	Anzer	ع	نگاہ رکھنے والا، دھیان رکھنے والا، دوربین، نظر رکھنے والا، ایک نام انظر احمد
انیس	Anees	ع	اُنس رکھنے والا، محبت رکھنے والا، ہمدرد، غمگسار، مشہور مرثیہ گو شاعر میر ببر علی انیس
انیق	Aneeq	ع	قیمتی، نادر، نایاب، خوش آئند، خوب، ایک نام انیق ناجی
انشراح	Inshrah	ع	خوشی، مسرت، شادمانی
اَنصر	Ansar		مدد کرنے والا۔ حمایت کرنے والا۔ ہمدرد
انور	Anwer	ع	منور، بہت واضح، روشن، صاف، زیادہ چمکدار، ایک نام انور علی
انوار	Anwaar	ع	روشن کرنے والا، منور کرنے والا، چمکانے والا، ایک نام انوار احمد
انتاش	Intash	ع	دور رہنا، فاصلے پر رہنا، پرے رہنا
انشال	Inshal	ع	بلند مرتبہ، بہت اونچا، بلند و بالا
انجاح	Injah	ع	کامیاب ہونا، ضرورت، حاجت، مقصد، مطلب، خواہش پوری ہونا

marfat.com

Marfat.com

انعام	Inam	ع	صلہ' کرم ہونا' عنایت ہونا' ایک نام انعام الحق
ان شاء اللہ	Insha Allah	ع	اللہ نے چاہا۔ ایک نام ان شاء اللہ خاں انشاء
انظام	Inzam	ف	آرائش کرنا' سجاوٹ کرنا' آراستہ کرنا' مرتب کرنا' ترتیب دینا
انیم	Aneem	ف	خلقت' مخلوقات
انشاء	Insha	ف	عبارت' تحریر' مضمون' مشہور شاعر ابن انشاء
انکسار	Inksaar	ف	عاجزی' عجز' خاکساری
انجار	Injar	ف	مطلب پورا ہونا' ضرورت پوری ہونا' مقصد پورا ہونا
انبساط	Inbsaat	ف	راحت' شادمانی' خوشی' کشادگی' خوش ہونا
انباز	Inbaz	ف	ساتھی' شریک' شامل
انتظام	Intzam	ع	کام مکمل ہونا' بندوبست کرنا
انتساب	Intsaab	ع	لگاؤ' منسوب ہونا' منسلک ہونا
انجاز	Injaz	ع	وفا کرنا' نبھانا' پورا کرنا
انجل	Anjal	ع	بڑی بڑی آنکھ والا' کھلی آنکھ والا
انس	Anas	ع	آواز سننا' سماعت کرنا' حضور نبی کریم ﷺ کے پیارے صحابی سیدنا انس بن مالکؓ جن کو آپ ﷺ نے ابوحمزہ کی کنیت مرحمت فرمائی تھی۔
انسب	Ansab	ع	بہت مناسب' ٹھیک
انصار	Ansar	ع	مدد کرنے والے' مددگار' ناصر کی جمع' مدینہ میں بسنے والے صحابہ کرام انصار۔
اناہید	Anaheed	ف	زہرہ ستارہ' ناہید
انضمام	Inzimam	ع	متصل ہونا' مل جانا' مشہور پاکستانی کرکٹر انضمام الحق

marfat.com

Marfat.com

اوزگن	Oazgun	ت	بے نظیر۔ یکتا
اوکان	Oakaan	ت	تیرانداز
اونگن	Oangun	ت	فارغ البالی
اوان	Awan	ف	وقت۔ لحہ
اویس	Uwais	ع	بزرگ' عطا کردہ' حضرت اویس قرنیؓ
اوج	Awj	ع	اونچائی' بلندی' شان' مرتبہ' عروج
اوصاف	Awsaf	ع	وصف' تعریف' صفات
اوراد	Adrad	ع	دلیر' بہادر' جری' نڈر' شیر' شجاع
اورنگ	Aureng	ف	خوشی' شادمانی' تخت شاہی' راحت
اورنگزیب	Aureng zeb	ف	جسے تخت شاہی موزوں ہو' مغلیہ خاندان کے چھٹے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر
اونمور	Onemor	ت	نیک شریف
اوزان	Awzan	ت	منتخب' چنا ہوا
اوغور	Awghor	ت	شریف' نیک' مشہور
اوکتے	Awkte	ت	بہادر' دلیر' شجاع' نڈر' جری
اوزگر	Auzgar	ت	آزاد' خودمختار
اونر	Auner	ت	وقار' مرتبہ' عزت' رتبہ
اوّاب	Awab	ع	اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا
اوثق	Ausaq	ع	مستحکم' پختہ' مضبوط' ٹھوس
اوس	Aus	ع	عوض' بدلہ' عطا' عنایت' عرب کے ایک قبیلہ کا نام
اہتزاز	Ehtzaz		۰۰ا کا چلنا۔ پھولوں کا کھلنا۔ جھومنا۔ ہلنا۔ خوشی۔ مسرت۔ مد۔ انبساط۔ ستارہ [illegible] وقت چمکنا
احلال	Ahlal	[illegible]	[illegible]

marfat.com

Marfat.com

ایوب	Ayub	عبر	ایک نبی کا نام
اِیمان	Emaan		مسلمانوں کے نزدیک ایک خدا پر یقین لانا اور حضرت محمد ﷺ کی نبوت کا اقرار کرنا۔ دین۔ مذہب۔ اعتقاد
اَیاس	Ayaas		ایک صحابی کا نام
ایان	Ayaan	عبر	خدا کا تحفہ
ایمہ	Imah	اُت	معانی' جاگیر' وہ زمین یا جاگیر جو علماء فقہا کو بادشاہ کی طرف سے بطور انعام دی جاتی ہے۔
ایانا	Iyana	ا' (قدیم)	مورکھ' بے وقوف' سلطان قطب الدین کا لاحقہ جس کا مزار انار کلی لاہور میں ہے
ایاد	Ayaad	ع	ہر وہ شے جس سے کوئی چیز قوت پکڑے
ایتاخ	Aitaakh	ف	عباسی خلافت کے عہد کا ایک سپہ سالار جو اپنی بہادری اور صلاحیتوں کی بناء پر باورچی سے سپہ سالار بنا
ایجاد	Ejad	ع	اختراع
ایرا	Aira	ار	شطرنج کا ایک مہرہ جو بادشاہ کو شکست سے بچاتا ہے
ایرکن	Airkn	ت	صبح۔ سویرا
ایگن	Aingan	ت	وسیع۔ وسعت
ایشم	Aisham	ت	میرا ساتھی۔ میرا دوست
ایلارم	Alaram	ف	برق۔ بجلی
ایمن	Aiman	ع	مبارک۔ بے خوف۔ محفوظ
اِیوان	Ewaan	ر	نوجوان۔ جنگ جو
ایسین	Aiseen	ت	تحریک۔ فیضان
ایضون	Aizone	ع	وہ چیز جو پہلے مذکور ہو چکی ہے
ایکم	Aiham	ع	آپس میں محبت کرنا

marfat.com
Marfat.com

اشم	Aisam	ع	عاصی۔ گنہگار
ایثاق	Eisaq	ف	پکڑنا
ایاز	Ayaz	ع	سلطان محمود غزنوی کے ایک غلام کا نام جن کا مزار لاہور میں ہے
ایالت	Iyalat	ا' ع	سرداری' پاسبانی
ایقان	Aiqan	ع	اعتبار کرنا' یقین ہونا' یقین کرنا
ایزاد	Aizad	ع	زیادتی' اضافہ' بدعت
ایثار	Aisar	ع	قربانی' ترجیح دینا
ایضون	Aizon	ع	وہ چیز جو پہلے مذکور ہو چکی ہے
ایراث	Eraas	ع	ترکہ پہنچانا
ایراد	Airad	ع	آمدنی' مال کا آنا' دولت پہنچانا
ایواز	Aiwaz	ف	آرائش' سجاوٹ' آراستگی
ایجاب	Aijab	ف	اقرار کرنا' قبول کرنا
ایرج	Airej	ف	فریدون کے ایک بیٹے کا نام
ایلاف	Ailaf	ف	محبت کرنا' پیار کرنا
ایبک	Aibak	ت	قاصد' غلام' مکمل' چاند' پیغام رساں' ہندوستان کا مشہور بادشاہ قطب الدین ایبک جس کا مزار انارکلی بازار لاہور میں واقع ہے۔
ایرکین	Airkeen	ت	خودمختار' آزاد
ایمل	Aimel	ت	خواہش' آرزو' تمنا' ایک نام ایمل کانسی
ایقاظ	Aiqaz	ع	بیدار کرنا' جگانا
ایلیا	Ailiya	عبر	صدیق' سچا' راست گو' رفع' اونچا' اعلیٰ

marfat.com

Marfat.com

ب

بابا	Baba	ف	بڑا
باباکوہی	BabaCohi	ف	ایک بزرگ درویش شاعر کا نام جن کا عارفانہ کلام موجود ہے
بابیزان	Bahizan	ف	ضامن، پنکھا
باحفصان	Bahifsan	ع	معلم، استاد ۔
باباخمس	Baba Khmas	ف	ایک مسخرے کا نام
باب الشماء	Bab-ul-Shama	ع	آسمان کا دروازہ، کہکشاں، آسمان، درہ
باب القیوم	Bab-ul-Qayum	ع	قوم کا سردار
باخ	Bakh	ف	راستہ، راہ، طریق، باٹ
باخس	Bakhis	ع	کسی کا حق دینے میں کمی کرنے والا
باخویش	Bakhawesh	ف	پانی میں غوطہ لگانا، اپنے آپ پر مشغول ہونا، تنہائی، خلوت
باقر	Baqr	ع	شیر، بہت بڑا عالم، امام زین العابدینؒ کے صاحبزادے اور پانچویں امام محمد باقرؒ
باقیر	Baqeer	ع	عالم، شخص
باقل	Baqal	ع	کنجڑا، سبزی فروش، وہ شخص جس کی داڑھی نکل رہی ہو ۔
باجل	Bajal	ف	عزت دار آدمی
باجپئی	Bajpai	اہ	برہمنوں کی ایک ذات
باجن	Bajen	اد	ڈھول تاشے وغیرہ

marfat.com
Marfat.com

باختر	Bakhtar	اف	مشرق' مغرب (عموماً مشرق ہی کے معنی میں مستعمل ہے) ایک علاقہ جو کوہ ہندوکش اور دریا کے درمیان واقع ہے
بارک اللہ	Barkallah	ع	اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے' ایک عالم کا نام مولانا بارک اللہ لکھوی
بارد	Barad	ع	مال غنیمت
بارز	Baraz	ع	آشکار' ظاہر' غالب ہونا' فوقیت۔
بازغ	Bazagh	ع	چمکتا ہوا' روشن' طلوع ہونے والا۔
بازغہ	Bazgha	ف' ع	قوم عاد ایک حسینہ کا نام' چمکتی ہوئی
بازکشا	Bazkusha	ف	قوت ممیزہ انسانی' انسان کی اس قوت کا نام جس سے وہ تمیز کرتا ہے
بازف	Bazif	ع	ناز کرنا' مان کرنا' فخر کرنا
بازگو	Bazgo	ف	بیان کرنے والا' پھر کہنے والا
باسلاح	Baslah	ع	مسلح' ہتھیار بند' باہتھیار
باس	Bass	اف	خوشبو' مہک' علامت' نشانی' بدبو
باسان	Basan	ت	جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ دینے والا
باسک	Basik	اُہ	وہ سانپ جس پر ہندو زمین کو قائم خیال کرتے ہیں سانپوں کا بادشاہ شیش ناگ
باسل	Basel	ع	دلیر' بہادر' نڈر
باسلہ	Basela	ع	بہادر' شجاع' دلیر
باسم	Basm	ع	مسکرانے والا' تبسم کرنے والا' ہنسنے والا' ہنس مکھ
باطش	Batish	ف	سختی کرنے والا
باطش	Batash	ع	حملہ کرنے والا
باطیہ	Batiah	ع	جام' پیالہ

marfat.com
Marfat.com

باطنیہ	Bateniya	اع	اہل تشیع کے فرقے کا نام جس کا لیڈر حسن بن صباح تھا۔ اس کے اعتقاد میں ہر شرعی امر کے ایک ظاہری معنی ہوتے تھے دوسرے باطنی' یہ لوگ اپنے مخالفین کو فریب سے قتل کر دیتے تھے ان کو حشیشین بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بھنگ پیا کرتے تھے۔
بازش	Bazash	ف	سختی کرنے والا' سخت گیر
بافندہ	Bafinda	اف	بننے والا' کپڑا بننے والا' جولاہا
باقی	Baqi	ع	لافانی' زندہ جاوید' ہمیشہ رہنے والا' بچا ہوا' ایک مشہور مصری کا نام عالم محمد بن فواد عبدالباقی
بابو	Babu	اہ	مالک' حکمران
بابی	Babi	اع	ایک مذہبی فرقہ جس کے بانی سید علی محمد باب تھے۔ بابی فرقے کا پیروکار' بابی فرقے سے متعلق
بابر	Baber	ت	شیر' مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کے والد کا نام جو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے پہلے بادشاہ تھے۔ پورا نام ظہیر الدین بابر
بابل	Babal	اہ	باپ' پتا' پدر' والد' وہ گیت جو لڑکی کی رخصتی کے وقت گاتے ہیں
باپو	Bapoo	اہ	باپ' پتا' والد' باپ کے برابر کا کوئی آدمی' بزرگ' بڑی عمر کا شخص
باستی	Basti	ف	عاجزی' نیازمندی' فروتنی
باسط	Basit	ع	وسعت دینے والا' فراخی دینے والا' کھولنے والا مصر کے ایک مشہور قاری کا نام عبدالباسط
بابک	Babak	ف	آئین' قانون' ایک بادشاہ جو اردشیر کا ماموں تھا۔
باتر	Batir	ع	شمشیر' تلوار
باصر	Basar	ع	بینائی والا' دیکھنے والا' نظر والا' نگاہ والا' آنکھوں والا

marfat.com

Marfat.com

باسق	Basiq	ع	سفید بادل' صاف شفاف' اجلا
بادپا	Badpa	ف	ہوا کے پاؤں والا' تیز رفتار گھوڑا' تیز رفتار نام جو یوسف کی ہدایت سے معرفت کے درجہ کو پہنچی
باداش	Badash	ف	پاداش' نیکی کا بدلہ' جزا' مکافات
بادہ	Badah	ا'ف	شراب' مے' خمر
بادسیر	Badiseer	ف	تیز گھوڑا' معزز شخص
بادِر	Badir	ف	ڈرنے والا۔ چالاک
بادران	Badran	ع	پنکھا' ایک فرشتے کا نام
بادشاہ	Badshah	ف	شاہ۔ والیٔ سلطنت
بادیہ	Badiha	ا'ع	صحرا' بیابان' جنگل' دشت
بارح	Bareh	ع	جگہ سے ہٹانا
باری	Bari	ع	تخلیق کرنے والا' پیدا کرنے والا' خالق' ایک نام عبدالباری
بارمان	Barman	ف	ایک تورانی پہلوان کا نام
بار	Bar	ع	نیک
باز	Baaz	ف	شاہین' ایک شکاری پرندہ
بازک	Bazik	ف	باشہ' باز کی قسم کا ایک چھوٹا شکاری پرندہ جو چڑیوں وغیرہ کا شکار کرتا ہے۔
بازیاب	Bazyab	ف	پھر پانے والا' دوبارہ حاصل کرنے والا
باذل	Bazil	ع	عطا کرنے والا' دینے والا' سخی
باذق	Bazaq	ع	انگور
باذان	Bazan	ع	صحابی رسولؐ کا نام
باعد	baad	ع	فاصلے پر ہونے والے' دور ہونے والا
بارز	Bariz	ع	عیاں ہونا' آشکار' غالب ہونا' ظاہر ہونا

marfat.com

Marfat.com

باعث	Baies	ع	اٹھانے والا
بارق	Bariq	ع	روشن' چمکدار' تاباں' منور۔ برق کی جمع
بائیرام	Bairam	ت	عید
بایزید	Bayazeed	ف	مشہور ولی اللہ سید الطائفہ حضرت بایزید بسطامی
باشا	Basha	ف	تاج دار
باشد	Bashid	ف	ہو' ہوا کرے' کچھ بھی ہو' پروا نہیں
باشہ	Bashah	اُف	ایک شکاری پرندے کا نام
باشق	Bashaq	ع	تیز رفتار پرندہ
باشلق	Bashalq	ت	سردار' امیر
باشی	Bashi	ت	سردار' افسر' سربراہ' امیر
باہُو	Bahoo	ع	عصا' چھڑی' مشہور ولی اللہ حضرت سلطان باہُو جن کا مزار شورکوٹ جھنگ میں ہے۔
باسعود	Basaood	ع	بابرکت' برکت والا' سعادت والا' مبارک' نعمت والا
باسل	Basil	ع	بہادر' دلیر' جری' نڈر' شجاع
بانگی	Bangi	ا	بانگ دینے والا' اذان دینے والا موذن
بانش	Banash	ف	سختی کرنے والا
بالد	Balid	ع	تلوار سے جنگ لڑنا
بالم	Balam	ع	ہنس مکھ
بالمرہ	Balmrah	ف	بالکل' ہمیشہ' ایک ہی دفعہ
بالک	Balak	اُہ	بچہ' بالا' کم عمر' نادان
بالکا	Balka	اُہ	جوگی کا چیلا' مرید' شاگرد' بچہ
باو	Bauo	اُہ	شہزادہ' بالک' بچہ' انگریزی پڑھا لکھا
بتیاز	Batyaaz	ف	محنت مشقت

marfat.com
Marfat.com

بتیر	Bateer	ع	زیادہ، کافی، بہت
بٹوہی	Butohi	او	راہ گیر، مسافر
بجل	Bajal	ع	بس کافی ہے
بحار	Bihar	اع	سمندر
بحتری	Bahtary	ع	عرب کے ایک شاعر کا نام
بحر	Behr	ع	بڑا سمندر
بخاری	Bukhari	ف	شہر بخارا سے منسوب، بخارا کا باشندہ، احادیث نبویہ کی ایک مشہور کتاب جو اپنے مولف بخاری کے نام سے موسوم ہے
بخت	Bakhat	ع	قسمت، نصیب، اقبال، ایک نام سکندر بخت
بخت رسا	Bakhtresa	ف	اقبال مندی، خوش نصیبی
بخت یار	Bakhtyar	ف	خوش نصیب، نصیبے والا، اقبال مند
بخش	Bakhsh	ف	عطا کرنے والا، تقسیم کرنے والا، دینے والا، ایک نام بخش الٰہی
بخشی	Bakhshy	ف	حساب رکھنے والا
بختیار	Bukhtiar	ف	خوش نصیب، خوش۔ قسمت والا۔ مقدر والا۔ مشہور ولی اللہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی
بختاور	Bukhtawar	ف	صاحب۔ نصیب۔ خوش قسمت۔ مقدر والا۔ اقبال مند
بخور	Bukhoor	اع	وہ چیزیں جن کے جلانے سے خوشبو نکلتی ہے، عود، لوبان وغیرہ
بدیل	Badeel	ع	حکیم خاقانی کا نام جو چھٹی صدی ہجری میں پیدا ہوا تھا۔
بدخشی	Bad Khashi	ف	بدخشانی، شہر بدخشاں سے منسوب
بدیع	Badee	ع	موجد، ایجاد کرنے والا، بنانے والا، نئی بات، نرالا، نادر، انوکھا، ایک نام بدیع الزمان
بدر	Badr	ع	مکمل چاند، چودھویں کا چاند۔ جنگ بدر

marfat.com
Marfat.com

بدران	Badran	ع	چودھویں کا چاند
بدرقہ	Badraqa	ع	آسرا' سہارا' رہبر' رہنما' قیادت کرنے والا
بدو	Badoo	ا	بدوی' عرب کے خانہ بدوش لوگ
بدھ	Budh	ا'ہ	عقلمند آدمی' مرد دانا' سیارہ عطارد چہارشنبہ' خداشناس
بدھو	Budhou	ا'ہ	نادان' بیوقوف' کم عقل
بدین	Badeen	ع	موٹا' تناور
بدیسی	Badasi	ہ	غیرملکی' پردیسی' مسافر' اجنبی
بدیہی	Badehi	ع	وہ بات جس میں حاجت کی ضرورت نہ ہو۔ ظاہر روشن
بذرفہ	Bazarfa	ف	پیشوا
بذل	Bazel	ف	سخاوت' عطیہ' بخشش' انعام
بر	Bar	ع	نیکی کرنے والا
برتی	Barti	ع	جوان
برتاش	Burtash	ف	ایک مشہور پہلوان کا نام
برتاس	Bartass	ف	ایک پہلوان کا نام' ترکستان کی ایک ولایت کا نام جہاں کی پوستین نہایت اعلیٰ ہوتی ہیں۔
براہین	Buraheen	ع	دلائل' نشانیاں
براہام	Buraham	ف	ایک نہایت بخیل یہودی کا نام جو بہرام گور کے زمانہ میں ہوا ہے۔
براجمان	Bera jman	ہ	روشنی' عظیم المرتبہ' درباری' صدر مجلس
براؤ	Burao	ا'ہ	احتیاط' حفاظت
برجد	Barjad	ع	اونی چادر
برجبیں	Barjabeen	ع	چھوٹا ستارہ
[illegible]	Berjees	ع	چھوٹے ستارے' مشتری سیارہ' ایک نام برجیس۔ طاہر

marfat.com
Marfat.com

برحی	Barhi	ع	کلمہ تحسین' شکریہ کا لفظ
بردبار	Burdbar	ف	سہنے والا۔ حلیم' متحمل
براعت	Baraat	ا' ع	روشنی' وضاحت' فضیلت' ہنرمند
برار	Barar	ف	پھل لانے والا' لے جانے والا
برخی	Barkhi	ع	شکریے کا لفظ
برزم	Barzam	ف	ادا' ناز' نخرہ' کرشمہ
برکت	Barkat	ع	فضل' اضافہ' زیادتی' نعمت ملنا' مشہور بزرگ صوفی برکت علی
برکات	Barkaat	ع	نعمتیں' بہت سا فضل' بہت سی برکتیں۔ برکت کی جمع
براق	Buraq	ا' ع	وہ بہشتی خچر جس پر محمد عربی سوار ہو کر معراج پر تشریف لے گئے تھے
برقش	Barqash	ع	ایک خوش الحان پرندہ
برہان	Burhan	ع	نشانی' دلیل' حجت' مثال' ایک نام برہان الدین
برہون	Barhoon	ف	آرائش' زینت
برناک	Burnak	ف	جوان' گھبرو' مہندی' عمدہ
برنی	Burney	ع	جوان
برومند	Bromand	ف	پھل لانے والا' فائدہ حاصل کرنے والا
بروگی	Brogi	ا' ہ	فراق زدہ مرد' مہجور
بریشم	Barysham	ا' ف	ابریشم' ریشم
برید	Bureed	ع	قاصد' ایلچی' پیغام رساں
بریدفلک	Breedfalak	ف	چاند' برج زحل
بریق	Bureeq	ع	روشن' منور' تاباں' چمکیلا
برقیارق	Burqiarq	ت	روشن' منور' چمکیلا
بزرجمہر	Bazrjmhar	ف	عقل مند۔ فارس کے بادشاہ نوشیرواں کے وزیر اعظم کا نام۔

marfat.com

Marfat.com

بزوغ	Bazogh	ع	روشن' طلوع
بزرگ امید	Buzargumeed	ف	ایک حکیم کا نام جو نوشیرواں کے پوتے خسرو پرویز کا اتالیق تھا
بزرگ مہر	Buzarg Mehar	ف	نوشیرواں بادشاہ کے وزیر کا نام
بزمی	Bazmi	ف	بزم سے تعلق رکھنے والا۔ محفل سے تعلق رکھنے والا۔
بزم آرا	Bazam Ara	ف	مجلس آراستہ کرنے والا' صاحب مجلس
بزم افروز	Bazam Afroze	ف	مجلس کو رونق بخشنے والا
بزور	Bazore	اُف	زور سے' طاقت سے' جبراً حکماً
بزین	Bazeen	ف	چلنے والی ہوا
بزبان	Bazban	ف	رشک' عند
بسالت	Basalat	ع	بہادری' دلیری' جرأت' شجاعت
بسام	Bisam	ع	بہت تبسم والا' بہت مسکرانے والا' خوش شکل' ہنس مکھ
بستان	Bustan	ف	چمن' گلشن' باغ
بستان افروز	Bustan Afrooze	ف	چمن کی رونق میں اضافہ کرنے والا رونق چمن
بستانی	Bustani	ف	بستان سے منسوب
بسم اللہ	Bismillah	ع	اللہ تعالیٰ کے نام سے۔
بسملہ	Bismillah	ع	بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا مخفف
بسمہ	Basmah	ف	وسمہ سونے چاندی کے وہ نقوش جو کپڑے پر نکالے جاتے ہیں۔

marfat.com
Marfat.com

بسیم	Baseem	ع	تبسم کرنے والا' ہنسنے والا' مسکرانے والا
بسیط	Baseet	ف	کشادہ' کھلا' فراخ' وسیع
بساک	Basak	ف	پھولوں کا تاج جو دولہا کے سر پر رکھتا ہے
بسان	Basan	ف	مانند' مثل' برنگ' بصورت' ویسا ہی
بساط	Bisat	ف	ہمت' حوصلہ' طاقت' وسیع
بشاش	Bishash	ف	خوش شکل' خوش طبع' ہنس مکھ
بشب	Bishib	ا	بڑا پادری' دین عیسوی کا مجتہد
بشر	Basher	ع	انسان' خوشخبری' مشہور ولی اللہ حضرت شیخ بشر حافی جن کا مزار بغداد شریف میں ہے
بشاء	Bisha	ف	خوبصورتی' خوشخبری' مژدہ' نچھاور' قربان' پابند
بشار	Bishar	ف	پابند' قربان' نثار' خوشخبری' خوبصورتی
بشارت	Bisharat	ع	خوشخبری' الہام' مژدہ
بشمول	Bashmole	ف	شامل کر کے' ساتھ' منسلک
بشیر	Bashir	ع	خوشی کی اطلاع دینے والا' خوشخبری دینے والا' خوبصورت حضور نبی کریم ﷺ کا ایک اسم مبارک
بصاص	Busas	ع	روشن آنکھوں والا' چمکیلی آنکھوں والا
بصیر	Baseer	ع	دیکھنے والا' بینا' دانا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
بصیرت	Baseerat	ع	سوجھ بوجھ' دانائی' دل کی روشنی
بصر	Basar	ع	دانا' بینا
بصراحت	Busrahat	ف	کھل کھلا' وضاحت سے
بصیغہ	Basighah	ع	سلسلہ میں' مد میں' ضمن میں
بضاعت	Bazaat	ع	پونجی' سرمایہ' دولت
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

marfat.com

Marfat.com

بطالت	Batalat	ع	بہادری، بے خوفی
بطال	Battal	ع،ا	بہت جھوٹا شخص، بہت مکار آدمی بہت نکھا آدمی
بعابعہ	Biabia	ع	بے سرمایہ لوگ، درویش
بعیر	Baeer	ع	اونٹ
بعل	B-al	ع	صاحب، آقا، خاوند، ایک بت کا نام جسے حضرت الیاسؑ کی قوم پوجتی تھی
بعینہ	Baeenah	ع	ہوبہو، ویسا ہی، جوں کا توں، بالکل وہی (تلفظ بعین ہی)
بغازی	Baghazi	ف	مزدوری، اجرت
بغدادی	Bughdadi	ف	بغداد کا باسی، بغداد کی کوئی شے
بفضلہ	Bafazllah	ا،ع	بفضلہ تعالیٰ، خدا بزرگ کے فضل و کرم سے (تلفظ بفضل ہی)
بکر	Bakr	ع	سامنے کی طرف بڑھنا، آگے بڑھنا
بکیت	Bakeet	ف	بانکا
بقار	Baqqar	ع	گانے والا، مغنی
بقائی	Baqai	ع	قائم رہنے والا۔ باقی رہنے والا۔ مشہور بزرگ حضرت شیخ بقائی
بقراط	Buqrat	ف	ایک مشہور زمانہ یونانی حکیم کا نام
بلاس	Balas	ا،ہ	خوشی، عیش و عشرت، انبساط
بلاول	Bilawal	ع	جیتا ہوا ہونا۔ فتح مند ہونا۔ اسلام کے مؤذن اول صحابی رسول سیدنا بلال حبشیؓ
بلال	Bilaal	ہ	گانے کا ایک سر، ایک ولی اللہ حضرت شاہ بلاول قادریؒ جن کا مزار حضرت مادھولال حسینؒ کے مقبرہ کے پاس باغبانپورہ لاہور میں ہے۔
بلبن	Balban	ع	خرنے کا ساگ، نیز غیاث الدین کا لقب جو ہندوستان کے خاندان غلامان کا نہایت بااختیار بادشاہ گزرا ہے

marfat.com
Marfat.com

بلنت	Bulnat	ت	اونچا' بلند' ارفع واعلیٰ
بلتہ	Baltah	ع	تری' تازگی' جوانی
بلوان	Balwan		طاقتور' دلیر' شجاعت' شجاع' بہادر' زورآور
بورئین	Borian	ت	تیز کاٹنے والا
بوزکرت	Bozekarat	ت	متبرک' سفید بھیڑیا
بوٹا	Boota		چھوٹا درخت' جھاڑی' پھولوں کا چھوٹا درخت
بلوچ	Billoch	ف	بلوچستان کا رہنے والا' ایک قوم
بلخش	Balkhash	ع	زمرد کی مانند ایک جوہر
بلک	Balk	ف	نئی چیز' تحفہ جو دوست دوستوں کو دیتے ہیں
بلکاتہ	Balkahtah	ف	بہت آرزو رکھنے والا۔ وہ شخص جو بے حد آرزو رکھتا ہو۔
بلمہ	Balmah	ف	لمبی داڑھی والا' گھنی داڑھی
بلیناس	Balanass	ف	ایک یونانی حکیم کا نام جو سکندر اعظم کا انیس و جلیس تھا
بلیغ	Baleegh	ع	مکمل' کامل' پورا' فصیح بہترین
بمبا	Bamba	اُع	بہادری' بے خوفی' دلیری' شجاعت
بنصر	Banser	ع	ہاتھ کی چھوٹی کے ساتھ والی انگلی
بُندال	Bandal	ع	ایک قسم کا پھل
بندہ	Banda	ف	اطاعت گزار' غلام' انسان' خاکسار' مطیع' خادم
بندار	Bandar	ف	مالدار' صاحب ثروت' سرمایہ دار
بندھو	Bandhu	اُس	رشتہ دار' بھائی بند' برادری' دوست
بندہ نواز	Bandanawaz	ف	مالک' مختار' حاکم' غلام کو عزت دینے والا
بندیلا	Bundala	اُہ	ہندوؤں کی ایک قوم
بنیامین	Binyamin	ع	اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔

marfat.com

Marfat.com

بہروز	Behrose	ف	مبارک' ایک نام بہروز سبزواری
بہادر	Bahadur	ف	دلیر' جری' نڈر' شجاع
بہرام	Behram	ف	مریخ سیارہ' یاقوت' ساسانی خاندان کے چوتھے بادشاہ کا نام
بہاء	Beha	ع	رونق' چمک' زیبائی' روشنی' ملتان کے مشہور ولی اللہ حضرت بہاءالدین زکریا ملتانیؒ
بہاءالدین	Bahauddeen	ع	دین کی روشنی۔ دین کی رونق۔ ملتان کے مشہور فیاض ولی کا نام' ان کا پورا نام بہاالدین زکریا تھا۔
بہرہ ور	Behrawer	ف	خوش قسمت' مقدر والا' کامیاب' قسمت والا
بہزاد	Behzad	ف	نیک ذات' نیک اصل' ایک شاعر بہزاد لکھنوی
بہلول	Behlole	ع	ہنس مکھ' خنداں رو' پیشوائے قوم' خلیفہ ہارون الرشید کے عہد کے مشہور ولی اللہ حضرت بہلول داناؒ۔
بہین	Beheen	ف	بہترین' اعلیٰ' ارفع
بہجت	Behijt	ف	سجیلا' معشوق' بانکا
بہرہ مند	Behramend	ف	خوش نصیب' قسمت والا' مقدر والا' خوش قسمت
بہیہ	Bahya	ع	روشن چمکدار' زیبا' عمدہ
بہکل	Bahkal	ف	جوان مرد' پرگوشت' نازک اندام
بہرگی	Bahergi	ف	دولت' مال' امیر' سرمایہ دار
بہمن	Behmen	ف	چالاک' ہوشیار' ذہین' باشعور' بہت سیانا
بہنام	Behnam	ف	نیک نام' اچھا نام
بہراض	Behraz	ف	سرخ یاقوت
بھرت	Bhart	س	رام چندر جی کے چھوٹے بھائی کا نام
بھرم	Bharam	ہ	ساکھ' اعتبار' دھوکہ' ناموری' راز
بوتراب	Butorab	ع	صحابی کا لقب

marfat.com
Marfat.com

بوتم	Butam	ت	بچہ شیر خوار ب پر پیش ت پر زبر۔
بوبکر	Bubakr	ع	صحابی کا نام
بوستان	Bostan	ف	بہت سے پھول باغ' گلستان۔ شیخ سعدی کی کتاب بوستان
بوعلی	Buali	ع	مشہور ولی اللہ حضرت بوعلی قلندر' اور مشہور حکیم بوعلی سینا
بوطالب	Butalib	ع	ابوطالب حضرت محمد ﷺ کے چچا کی کنیت جو حضرت علیؓ کے والد تھے۔
بوعمر	Buomer	ع	علم قرات کے ایک امام کا نام
بولہب	Bulahab	ع	ابولہب حضرت محمد ﷺ کے چچا کی کنیت۔ لہب معنی شعلہ چونکہ ان کا چہرہ نہایت روشن سرخ اور انگارہ کی مانند دہکتا تھا۔ اس لئے انہیں ابولہب کہتے تھے۔
بید	Baid	اہ	وید' طبیب
بیدار بخت	BedarBukht	ف	مقدر والا' خوش قسمت' جاگی ہوئی قسمت والا
بیدل	Baidil	ف	عاشق' دیوانہ' شیفتہ' ناامید
بیطار	Baitar	اع	سلوتری' جانوروں کا ڈاکٹر
بیگ	Baig	ت	سردار' امیر' سربراہ' ملک' شہزادہ
بیراگی	Bairagi	اہ	تارک الدنیا' جوگی
بیرم	Bairem	ف	جشن' بہت زیادہ خوشی' عید' پرمسرت موقع' شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے اتالیق کا نام
بیضا	Baiza	ع	سفید' روشن' منور' پر نور
بیاز	Biaz	ت	سفید' تلوار کی چمک
بیان	Biyan	ع	ظاہر کرنا' تفصیل سے بتانا' [illegible]
بیروز	Bairoze	ت	ایک سبز پتھر
[illegible]	Bairan	ا	بھائی برادر

marfat.com
Marfat.com

بیدل	Bedal	ف	دیوانہ' ناامید عاشق
بیدار	Baidar	ف	ہوشیار' جاگتا ہوا
بینا	Bina	ع	خوبصورت' خوشخبری دینے والا
بیناز	Binaaz	ت	کھڑکی' دریچہ
بیرق	Bairaq	ف	پرچم' پھریرا' چھوٹا جھنڈا' چھوٹا نیزہ' علم

marfat.com
Marfat.com

پ

پاافتا	Pa-ufta	ف	بے کس' بے سہارا' عاجز
پابست	Pa-bast	ف	مستحکم' مضبوط' گرفتار
پابوس	Pa-boss	ف	قدم چومنے والا' پاؤں پڑنے والا قدم بوس' جھکنے والا' خوشامدی
پاپا	Papa	ا' انگریزی	باپ' پدر' والد' ابا' بابا' پوپ عیسائیوں کا بڑا پادری
پادامی	Padami	ا' ف	شکاری جو چڑیوں کو جال سے پکڑتا ہے
پادری	Padree	ا' پ	عیسائی مذہب کا پیشوا' سقف' عیسائی مذہب کی تلقین کرنے والا
پادشہ	Padasha	ا' ف	بادشاہ' سلطان' جمع پادشایان
پادشاہ نیمروز	Padshah-i-Neemrose	ف	ملک سیستان کا بادشاہ مبارک آدمی حضرت اور حضورؐ سے کنایہ ہے
پاشا	Pasha	ف' ت	حاکم' سردار' سربراہ' امیر' ترکی کے رہنما مصطفیٰ کمال پاشا
پارس	Paras	ف	اکسیر' ایک پتھر کا نام
پارسی	Parsi	ا' ف	ایک قوم جس کا بانی زردشت یا زرتشت ہوا' گبر' آتش پرست آگ کا پجاری' مجوسی' فارس کا باشندہ' فارس کی بنی ہوئی چیز' فارسی زبان۔
پارکھی	Parkhi	ہ	پرکھنے والا' جوہر شناس
پارنج	Paranj	ف	انعام' صلہ' قاصد' شاعر اور مطرب کا انعام
پاروتی	Parwati	ا' س	پہاڑ کی بیٹی' درگا' شیو جی کی بیوی کا نام' حضرت آدمؑ کی اہلیہ حضرت حوا

marfat.com
Marfat.com

پاڑھا	Parha	اُ ہ	چیتل' ایک قسم کا ہرن
پاک دامن	Pakdaman	اُ ف	پارسا' معصوم' گناہوں سے پاک
پاک زادہ	Pakzada	ف	دھوبی' کپڑے دھونے والا
پاکوب	Pacob	ف	ناچنے والا' رقاص
پانتھ	Panth	اُ س	مسافر' سیاح' سورج
پانڈا	Panda	اُ س	برہمن' مندر کا پجاری' عالم' فاضل
پانڈو	Pandoo	اُ س	راجہ پانڈو کی اولاد' پانچ بھائی
پاوار	Pawar	ف	برقرار' ہمیشہ' باقی' تیز رو گھوڑا
پایان	Payan	ف	سرا' کنارہ' اخیر' انتہا
پارا	Para	اُ ہ	سیماب' ایک رقیق دھات جو سفید اور بھاری ہوتی ہے۔ بے قرار' بے چین
پارہ	Parah	اُ ف	ٹکڑا' حصہ' جزو' پتھر کی چھوٹی سی دیوار
پارینا	Pareenah	ف	پرانا
پالار	Palar	ف	بڑا درخت' بڑا ستون
پالو	Palu	اُ ہ	گھر کا پالا ہوا جانور' وحشی کے خلاف
پالیز	Palize	اُ ف	سبزہ زار' فالیز
پالیہ	Paliya	ف	کھجور کا درخت' فوجی قواعد
پامان	Paman	ف	تحویل' حفاظت' پناہ
پامرد	Pamard	ف	ثابت قدم' مستقل مزاج' باہمت' مددگار' معاون
پاسخ	Pasukh	ف	جواب
پارسا	Parsa	ف	تیسرا برج' تورس
پاسا	Pasa	اُ س	قرعہ' مکعب' پہلو' اعلیٰ درجے کا ہونا

marfat.com
Marfat.com

پاسبان	Pasban	ف	رکھوالا' محافظ' نگہبان' دھیان رکھنے والا
پاستان	Passtan	اُف	پرانا' قدیم' گزرا ہوا
پاغر	Paghar	ف	وہ ستون جو چھت کو سنبھالنے کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے۔
پاگاہ	Pagah	اُ(قدیم)	فوج' لشکر
پائندہ	Payenda	ف	مضبوط' قائم' جما ہوا' ٹھہرنے والا
پائیز	Paeez	ف	موسمِ خزاں
پائیل	Paill	اُ(قدیم)	ایسا بچہ جو پاؤں کے بل پیدا ہو
پایک	Payak	اُف	پیک' پیام بر' ایلچی' سفیر' پیروکار' چٹھی رساں' پیادہ' پیدل
پپیہا	Papeeha	اُہ	زرد رنگ کا ایک خوش آواز پرندہ
پٹولی	Patoli	اُہ	پٹوا' ہار یا زیور میں ریشم کا ڈورا ڈالنے والا
پٹھوال	Pathwal	اُہ	ساتھی' رفیق' مددگار
پجار	Pajaar	ف	پہاڑ' کوہ
پچیت	Pacheet	اُہ	پہلوان' ہنر مند
پختون	Pakhtoon	اُپ	پٹھان قوم' پشتو بولنے والے
پدرام	Pidram	ف	خوش و خرم آراستہ' ہمیشہ خوبگاہ
پدم	Padam	اُس	گول چکر دار نشان جو آدمی کی انگلیوں پر ہوتا ہے' نیلوفر' کنول' ہاتھی کی کھال کے نشان' علم ہندسہ میں سو نیل کا ایک پدم ہوتا ہے۔
پدوی	Padvi	اُہ	سڑک' راہ' مقام' خطاب
پدید	Padeed	ف	عیاں' آشکارا' نمایاں' ظاہر
پذیر	Pazeer	ف	قبول کرنے والا' ماننے والا' تسلیم کرنے والا' مان
پذیرہ	Pazeera	ف	استقبال' مقبول' مشہور
پرآور	Parawar	ف	تیز پرواز' تیز اڑنے والا' تیز رفتار

marfat.com
Marfat.com

پربت	Parbat	اُ ہ	پہاڑ' کوہ' جبل
پرباس	Parbass	اُ ہ	سفر' سیاحت
پُردل	Purdil	ف	دلیر' بہادر' نڈر' جری' شجاع
پردھان	Pardhan	اُ ہ	رہنما' صدر' مکھیا
پرطاس	Purtass	ف	طاقتور' ایک پہلوان کا نام
پرالک	Pralak	ف	جوہردار فولاد' جوہردار تلوار
پران	Paran	اُ ف	دم' سانس' روح' جان' معشوق
پَران	Perran	ف	اڑنے والا' اڑتا ہوا
پراہام	Paraham	ف	ایک یہودی کا نام جو بہرام گور کے زمانہ میں تھا' فارسی کا ایک پرانا شاعر تیرانداز
پردل	Pardil	ف	بہادر' شجاع' جوانمرد' سخی
پرکاش	Parkash	اُ س	ظاہر' فاش' مشہور' شان و شوکت
پرم	Parram	اُ س	افضل ترین ذات' اول' پہلا' مکمل ذات' معشوق' محبت
پرنون	Parnoon	ہ	نرم ملائم ریشمی کپڑا
پرنمود	Purnamud	ف	ظاہری نمائش والا
پَرنیاں	Pernian	ف	ایک طرح کا پھولدار ریشمی کپڑا
پرواز	Parwaz	ف	اڑنا' اڑان
پرواش	Parwash	ف	بے پرواہ' غافل' بے خبر
پرواک	Parwalk	ف	نگہبان' محافظ' چوکیدار
پروان	Parwan	اُ ہ	کامیاب' مکمل' پورا' بالغ' بادبان کا ڈنڈا
پرویز	Perwaze	ف	قائم' خوش نصیب
پرتاب	Partab		طفیل' بدولت' اقبال' عنایت' مہربانی' فیض' جمال' روشنی' نور' جلال' حوصلہ' شان و شوکت

marfat.com
Marfat.com

پُرتاب	Purtab	ف	مضبوط قوی طاقتور صحت مند
پرحذر	Purhazar		محتاط چوکس دور اندیش
پیربخش	Peerbakhash	اُ ف	پیر کی دعا سے پیدا ہونے والا پیر کا عطا کردہ
پرتابی	Partabi	ف	تیرانداز
پرتو	Partu	ف	روشنی کرن شعاع عکس صدمہ آسیب
پریتم	Pareetam	اُ ہ	پتیم معشوق دلبر خاوند
پری وش	Pariwash	ف	پری شمائل نہایت خوبصورت
پُژمان	Puzman	ف	خواہش تمنا آرزو چاہت
پژواک	Puzwak	ف	آہنگ گونج صدا
پَژمان	Pazman	ف	آزردہ غمگین
پُژمان	Puzman	ف	آرزو خواہش
پشمینہ	Pashmina	اُ ف	اونی کپڑا اونی کپڑے کی ایک عمدہ قسم
پشین	Pasheen	ف	کیقباد کے بیٹے کا نام
پکھراج	Pakhraj	ف	زرد رنگ کا قیمتی پتھر
پگوئے	Pagoa	ف	آتش پرستوں کا عالم دانا حکیم
پندار	Pindar	ف	غور و فکر خیال آرزو
پہچان	Pehchan	ف	وعدہ
پھول	Phool		گل شرارہ نقش و نگار کسی پتلی چیز کو جما کر سکھائے ہوئے ورق صف ہلکا سبک خوبصورت ساگ کے سوکھے ہوئے پتے جسم پر سفید داغ
پیارا	Piyara	ف	پیار والا محبت والا الفت والا
پیام	Piam	ف	پیغام سندیسہ

marfat.com
Marfat.com

پیراں دتہ	Peeran Ditta	ف	پیر کی دُعا سے ملنے والا' پیر کا عطا کیا ہوا۔
پیراندق	Pairandqa	ف	
پیروز	Pairose	ف	مبارک' فتح مند' کامیاب
پیرزادہ	Peerzada	ف	پیر کا بیٹا
پیمان	Paiman	ف	وعدہ' وفا

marfat.com
Marfat.com

ت

تابش	Tabesh	ف	چمک، گرمی، حرارت، ایک نام تابش الوری
تابیدہ	Tabeedah	ف	پیچیدہ، بل کھایا ہوا، تاباں روشن، جمع تابیدگان
تاثم	Tasum	ع	گناہ سے تائب ہونا، گناہ سے علیحدہ ہونا
تاثیر	Taseer	ع	اثر
تاحین حیات	Taheen-i-hyayat	ع، ف	زندگی بھر، جب تک زندہ ہے
تاخی	Takhi	ع	دو جماعتوں کا آپس میں برادری قائم کرنا
تاذن	Tazen	ع	آگاہ کرنا، حکم کا تہدید کے ساتھ منادی کرنا، قسم کھانا
تاسیس	Tasees	ع	بنیاد، جڑ
تانتا	Tanta	ا، ہ	قطار، سلسلہ، مجمع، گروہ، نسل، خاندان، اولاد
تان سین	Tansen	ہ، ا	(مجازاً) بہت بڑا گویا، عہد اکبری کا نامور موسیقار
تافتہ	Taftah	ا، ف	ایک قسم کا چمکیلا ریشمی کپڑا، استبراق، ایک خاص رنگ کا گھوڑا یا کبوتر، روشن، منور، گرم، بل دیا ہوا، بٹا ہوا
تافق	Tafaq	ع	افق سے آنا
تاناشاہ	Tanashah	ا	دکن کا نہایت نازک مزاج بادشاہ ابوالحسن تاناشاہ
تائج	Taej	ع	تاجدار
تائق	Taiq	ف	شوقین، شوق رکھنے والا، اشتیاق رکھنے والا
تابدار	Tabdar	ف	روشن، چمکیلا، چمکنے والا، منور
تامر	Tamar	ع	کھجوریں کھانے والا
تامیر	Tameer	ع	حاکم بنانا، تیز کرنا، داغ دینا، مسلط کردینا، بہت کردینا

marfat.com
Marfat.com

تاب	Taab	ف	چمک دمک' رونق' روشن' حوصلہ' طاقت' برداشت
تابید	Tabaid	ف	ہمیشگی کرنا' ابد تک پہنچانا
تانیر	Tanir	ت	طلوع سحر' نور کڑکا
تانیس	Tanees	ف	پیار' محبت' الفت' عبادت' اطاعت
تارخ	Tarukh	ع	حلق
تارض	Tarez	ع	مضبوطی سے قائم رہنا' جم کر رہنا
تارم	Taram	ف	بلند مکان
تاڑ	Tar	اُہ	کھجور کی قسم کا ایک درخت' جس سے تاڑی نکالتے ہیں۔ فرساست سمجھ
تاڑا	Tarra	اُ (قدیم)	طاقت ور' زور' شدت' غمزدہ' نخرہ
تازش	Tazish	ف	دوڑ' تاخت' حملہ
تاشب	Tashab		ایک دوسرے سے مل جانا
تاشِف	Tashif	ع	مہربان' غمگسار' ہمدرد' شفیق
تاشقین	Tashqeen	ع	ہمدرد لوگ
تارز	Tariz	ع	طاقتور' مضبوط' قوی' توانا' سخت
تاہب	Tahib	ف	مستعدی' چوکس' چوکنا' آمادگی' مان جانا
تاشف	Tashif	ع	ہمدرد' مہربان
تاشفین	Tashfeen	ع	ہمدرد لوگ' مہربان لوگ' غم خوار لوگ' غمگسار لوگ' مشہور جرنیل یوسف بن تاشفین
تالم	Talam	ع	دردمند ہونا' دکھ پانا
تالق	Talaq	ف	شوق رکھنے والا
تاویل	Taveel	ع	شرح' بیان' عذر
تادین	Tadeen	ف	اطلاع ہونا

marfat.com

Marfat.com

تائب	Taib	ع	توبہ کرنے والا' گناہ نہ کرنے کا عہد کرنے والا مشہور نعت گو شاعر حفیظ تائب
تاباں	Taban	ف	روشن' منور' چمکیلا' درخشاں
تابین	Tabeen	ف	عیاں' آشکارہ' ظاہر' سپاہی' پیرو
تاثیل	Taseel	ف	طاقت' قوت' مضبوط
تاج	Taaj	ع	شاہی ٹوپی
تاجدار	Tajdar	ف	بادشاہ
تاجور	Tajwar	ف	تاج والا
تاجیل	Tajil	ف	معیاد' مہلت' مدت' وقت مقرر کرنا
تبحر	Tabhar	ہ	بہت مالدار ہونا' ذی علم ہونا
تبذیر	Tabzeer	ع	فضول خرچی' بھید ظاہر کرنا
تبعر	Tabar	ع	وسیع علم کا مالک ہونا' بہت زیادہ علم کا مالک
تبصیر	Tebsir	ف	منور کرنا' روشن کرنا
تبرج	Tabbraj	ع	بناؤ سنگھار کرنا' آرائش کرنا
تبرع	Tabbra	ع	بخشنا' دینا' کسی کو ذاتی منفعت کی امید کے بغیر دینا
تبرید	Tabrid	ع	خنک کرنا' ٹھنڈا کرنا
تبیین	Tabyin	ع	آشکارہ' ظاہر' عیاں' اظہار' توضیح' شرح' تفسیر' تشریح
تبریک	Tabrik	ع	مبارک پیش کرنا' مبارکباد دینا' برکت
تجبیل	Tajbil	ع	عزت و بزرگی کرنا
تباین	Tabaeen	ع	فرق' ناموافقت' اختلاف' نامطابقت
تبار	Tabbar	اُف	خاندان' ذات' نسل' لوگ
تبارک	Tabarak	ع	برکت والا
تباشیر	Tabasheer	ف	ایک دوا' صبح کاذب کی روشنی

marfat.com

Marfat.com

تبسم	Tabassam	ع	مسکراہٹ' مسکرانا
تبشیر	Tabshir	ع	خوشی کی خبر سنانا' خوشخبری دینا
تبسط	Tabsut	ع	کھلا ہونا' کشادہ ہونا' پھیلنا
تبیان	Tabyan	ع	واضح کرنا' ظاہر کرنا' عیاں کرنا' روشن کرنا
تپاں	Tapan	ف	گرم' جلتا ہوا' تڑپنے والا
تتمیر	Tatmir	ف	فائدہ پانا' نفع پانا' میوہ چننا' پھل چننا
تتمیم	Tatmeem	ع	پورا کرنا' کامل
تثمیر	Tasmir	ف	صحت مند ہونا' خوشحال ہونا
تثویب	Tasweeb	ع	نماز کے لئے بلانا
تجدد	Tajadud	اُع	نیا ہونا' جدت' نیا پن' اختراع
تجبر	Tajbur	ع	خوشحال اور دولتمند ہونا' مریض کا بحال اور تندرست ہو جانا
تجمل	Tajammal	ع	شان وشوکت' زینت' آرائش' زیبائش
تجمیل	Tajmil	ع	آراستہ کرنا' سجانا' زیبائش کرنا' آرائش کرنا
تجاذب	Tajazab	ف	جذب کرنا
تجذیم	Tajzeem	ع	عاجز ہونا
تجار	Tujar	اُع	تاجر کی جمع' سوداگر
تجاسر	Tajasar	ع	دلیر' جرأت' شجاعت' بہادری' جسارت
تجاذب	Tajazub	ف	باہم جذب کرنا' باہم ملانا' آپس میں ملانا
تجوید	Tajveed	ع	ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا' درست طریقے سے قرآن پڑھنا
تحدید	Tahdeed	ع	حد بندی' ارادہ' تعرین' کسی چیز کو تیز کرنا
تحبیر	Tahbir	ع	زینت دینا' سنوارنا
تحرج	Tahrraj	ع	گناہ سے توبہ کرنا اور پرہیز رکھنا' تنگی سے نکل جانا آزاد ہو جانا
تحرر	Taharrar	ع	آزاد ہو جانا

marfat.com
Marfat.com

تحرس	Taharrus	ع	پرہیز کرنا' اپنی حفاظت کرنا
تحری	Tahry	ع	قصد کرنا' صحیح رائے تلاش کرنا
تحسین	Tehsin	ع	تعریف کرنا' ستائش کرنا' سراہنا' توصیف کرنا
تحشم	Tahasham	ع	جاہ وحشم' شان وشوکت
تحصین	Taseen	ع	مستحکم کرنا' قلعہ بند کرنا
تحفیظ	Tehfiz	ف	حافظ کی جمع۔ حفاظت کرنا
تحمید	Tehmid	ع	صفت بیان کرنا' توصیف کرنا' تعریف کرنا' حمد کرنا
تحمل	Tahmul	ع	برداشت' بردباری' سہار نرمی
تحذیق	Tehziq	ع	عقلمندی کا دعویٰ کرنا' سمجھدار ہونے کا دعویٰ کرنا
تحذیر	Tehzir	ع	خبردار ہونا' ہوشیار ہونا' چوکنا ہونا
تحیت	Tehit	ع	سلام' دعا' سلام کرنا' مبارکباد
تحبیر	Tahbeer	ع	زینت دینا' سنوارنا' دوات میں روشنائی ڈالنا
تحکیم	Tehkim	ع	طاقت' قوت' حکم
تحمس	Tehmes	ع	دین میں مضبوط ہونا
تحاب	Tehab	ف	باہم محبت کرنا' آپس میں محبت کرنا
تحابب	Tahabub	ع	اک دوسرے کو دوست بنانا
تحامی	Tahami	ع	خود کو دوسرے سے بچانا' احتیاط رکھنا
تحائف	Tahaef	ع	تحفہ کی جمع' سوغاتیں' نذرانے
تحلیم	Tehlim	ع	نرم طبع ہونا' انکساری' بردباری' حلیم ہونا
تحذیق	Tahzeek	ع	عقلمندی کا دعویٰ کرنا
تخلیق	Takhliq	ع	پیدا کرنا' بنانا' پیدائش
تخلق	Tekhluq	ع	خوش اخلاق ہونا' خلیق ہونا' خوگر ہونا
تخلیص	Tekhlis	ع	رہا کرنا' چھوڑ دینا' خلاصہ نکالنا' خالص بنانا

marfat.com

Marfat.com

تخلید	Tekhlid	ع	ہمیشہ رکھنا' ہمیشگی
تدبیر	Tadbir	ع	رائے' تجویز' بندوبست' غور و فکر' انتظام
تدہین	Tadheen	ع	روغن ملنا
تدین	Tedin	ف	دیانتداری' ایمانداری' پرہیزگاری
تذلل	Tazzalal	ع	عاجزی کرنا' فروتن کرنا
تذکیر	Tazdeer	ع	نصیحت کرنا
تذہیب	Tezhib	ع	ملمع سازی' سونے کا ملمع کرنا
ترادف	Tradaf	ع	ایک دوسرے کی مدد کرنا
ترازی	Tarazee	ع	حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک
ترفان	Turfaan	ع	ترجمان
تراس	Tarras	ع	ڈھال بنانے والا
ترنم	Tarannum	ع' ا	گانا' گنگنانا' الاپنا
ترقب	Teraqqab	ع	توقع' انتظار' آس' امید
ترقش	Tarqush	ع	(کلام کا) رنگین ہونا' مزین ہونا
ترقم	Tarqam	ع	تحریر کرنا
تراب	Terab	ع	خاک' مٹی' زمین' حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابوتراب
تراضی	Terazi	ع	باہم رضامند ہونا' آپس میں راضی ہونا
ترشح	Tarshah	ع	ظاہر' بوندا باندی
ترہان	Turhaan	ت	بہادر آدمی
ترصد	Tersud	ع	امید' آس' توقع
ترزق	Tarzaq	ع	دینا' پیش کرنا
ترفق	Terfaq	ع	نرمی' مہربانی کرنا' کرم کرنا

marfat.com

Marfat.com

ترقیم	Terqeem	ع	تحریر' لکھنا' رقم کرنا
ترفید	Terfid	ع	سردار ماننا' سربراہ بنانا' بزرگ بنانا
تریاق	Taryaq	اُف	تریاق یعنی زہر کا اثر ضائع کرنے والی دوا' زہرہ مہرہ
تزمیر	Tazmeer	ف	بانسری بجانا
تزئین	Tazaeen	ع	مزین ہونا' آراستہ ہونا' زیبا ہونا
تذکیر	Tazker	ع	نصیحت کرنا' یاد دلانا
تزاہر	Tazahir	ع	روشن ہونا' درخشاں' منور ہونا' چمکنا
تزئق	Taziq	ع	خوب سنورنا
تزلق	Tazlaq	ع	اپنے آپ کو تیار کرنا' اچھی طرح سنورنا
تزائم	Tazaim	ع	ایک دوسرے کی مدد کرنا
تسبیل	Tasbeel	ع	راہ خدا میں وقف کر دینا
تسکین	Taskin	ع	سکون' آرام' اطمینان' راحت
تسوید	Tasweed	ف	لکھنا' قلمبند کرنا' تحریر کرنا
تسمیت	Tasmeet	ع	نیک دعا کرنا' اچھی دعا کرنا
تسطیر	Tasteer	ع	مشہور کرنا' شہرت دینا
تسمیر	Tasmeer	ع	میخ گاڑنا
تسمین	Tasmin	ع	توانا کرنا' موٹا کرنا' فربہ کرنا
تسنیم	Tasneem	ع	جنت کی ایک نہر کا نام
تسلیم	Tasleem	ع	آداب کرنا' سلامت رکھنا' سلام کرنا' گردن جھکانا' ماننا' سونپنا
تسدید	Tasdeed	ع	مضبوطی' درستی' مضبوط کرنا
تسہیل	Tasheel	ع	آسانی' سہل کرنا' آسان کرنا
تستیر	Tastir	ع	پردہ ڈالنا' چھپانا' پوشیدہ کرنا' مخفی کرنا
تسمیم	Tasmeem	ع	مضبوط' ٹھوس

marfat.com

Marfat.com

تسمیع	Tasmee	ف	سنوارنا' سنانا
تشہیر	Tashhir	ع	شہرت دینا' مشہور کرنا' عام کرنا
تشریف	Tashrif	ف	شرف دینا' احترام دینا' عزت دینا
تشبیط	Tashbeet	ع	مشغول ہونا
تشبیہ	Tashbih	ع	مشابہت' نظیر' مثل' مماثلت
تشاہد	Teshahid	ع	حاضر ہونا' گواہی دینا
تشفیع	Teshfih	ع	سفارش کرنا' شفاعت کرنا
تشمیر	Teshmir	ع	چوکس ہونا' مستعد ہونا
تثویب	Tashveeb	ع	نماز کے لئے بلانا
تصویر	Tesweer	ف	صورت' مورت' شبیہ
تصمید	Tasmeed	ع	خالص کرنا' مضبوط کرنا
تصمیم	Tesmim	ع	پکا کرنا' مضبوط کرنا' خالص کرنا
تصعید	Taseed	ع	بلند ہونا' اونچا ہونا' بالا ہونا
تصور	Tasawwer	ف	خیال' سوچ
تصغیر	Tasgheer	ع	چھوٹا ہونا
تصدق	Tasaddaq	ع	قربانی دینا۔ نچھاور ہونا۔ صدقہ دینا
تصدیق	Tasdiq	ع	درست۔ سچ بتانا۔ حقیقت کہنا۔ اثبات۔ صحت
تصدیر	Tasdir	ع	آغاز کرنا' شروع کرنا
تصویب	Tasweeb	ع	سچ کہنا' ٹھیک رکھنا' درست رکھنا
تضریم	Tazreem	ف	بھڑکنا' غصہ ہونا
تضوع	Tazway	ع	بو پھیلنا' مہکنا
تطر	Tatar	ع	خوشبودار ہونا' عطر ملنا' عورت کا اپنے ماں باپ کے گھر رہنا اور نکاح نہ کرنا

marfat.com

Marfat.com

تطویل	Tatweel	ع	فراخی‘ وسعت‘ کشادگی
تطہیر	Tethir	ع	صاف کرنا‘ منزہ کرنا‘ پاک کرنا
تظافر	Tazafar	ف	مدد کرنے والا
تظافہ	Tazafah	ف	حاجت روائی کرنا
تظاہر	Tezahir	ع	ایک دوسرے کی مدد کرنا
تعاوی	Taavi	ع	جمع ہونا‘ اکٹھا ہونا
تعاظم	Taazim	ع	کسی سے بڑا ہونا
تعاہد	Taahid	ع	غم خواری اور خبر گیری کرنا‘ حفاظت کرنا نیا عہد باندھنا
تعبد	Tabud	ع	اللہ کی پرستش کرنا‘ کسی کو اپنا غلام بنا لینا عبادت میں تکلف کرنا‘ عبادت میں غلو کرنا اونٹ کا سرکشی کرنا‘
تعدیل	Tadeel	ع	درست کرنا‘ برابر ہونا
تعظیم	Tazeem	ع	تکریم‘ عزت‘ ادب‘ بزرگی‘ احترام
تعمیر	Tamir	ع	مکمل کرنا‘ بنانا‘ قائم کرنا
تعمیم	Tameem	ع	عام کرنا‘ قائم کرنا
تعظم	Tazim	ع	بڑائی‘ بزرگی‘ عظمت
تعمق	Tamaq	ع	ضد کرنا‘ سوچنا
تعزیر	Taazeer	ع	سیاست‘ تنبیہ کرنا
تغریر	Taghreer	ع	چڑیوں کا چہچہانا
تغرید	Taghreed	ع	یگانہ کرنا‘ اکیلا کرنا
تعمق	Tamaq	ع	گہرا کرنا‘ سوچنا
تعمیق	Tameeq	ع	نتیجہ سوچنا‘ انجام سوچنا‘ غور و فکر کرنا
تفسیر	Tafseer	ع	شرح‘ تشریح‘ توضیح‘ بیان ۶
تفضیل	Tafzeel	ع	فضیلت دینا‘ ترجیح دینا‘ فوقیت دینا

marfat.com
Marfat.com

تفضل	Tafassal	ع	فضیلت، بزرگی، بڑائی
تفیذ	Tafeez	ع	ناز، انداز، نخرہ، ادا
تفہیم	Tafhim	ع	عقل میں لانا، سمجھانا، ادراک، سمجھ، شعور
تفرید	Tafreed	ف	یگانہ کرنا، اکیلا کرنا
تفرس	Tafarrus	ع	دانائی، سمجھداری، عقلمندی
تفوق	Tafawaq	ع	ترجیح، افضیلت، فوقیت
تقویم	Taqweem	ع	ٹھیک کرنا، صحیح کرنا، درست کرنا، قائم کرنا
تقدس	Taqaddas	ع	پارسائی، پاک، پاکیزگی
تقبل	Taqabbal	ع	قبول کرنا، منظور کرنا
تقی	Taqi	ع	پاکیزہ، پرہیزگار، نویں امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مزار بغداد شریف میں ہے
تقدم	Taqaddam	ع	آگے بڑھا ہوا، پیش قدمی
تعلیم	Takeem	ع	کلام کرنا
تکلیم	Taqlim	ع	کلام کرنا، بات کرنا، گفتگو کرنا
تکریم	Takreem	ع	عزت
تکمیل	Takmil	ع	کامل کرنا، پورا کرنا، مکمل کرنا
تکفیل	Takfil	ع.	ضمانت دینا، کفالت کرنا، ضامن بننا
تکش	Taksh	ت	ترکی کے ایک بادشاہ کا نام
تکواس	Takwaas	ع	اضطراب، بے قراری
تکوین	Takveen	ع	ناپید کو عدم سے وجود میں لانا
تگین	Tagin	ف	سلطان محمود غزنوی کے والد کا نام سبکتگین
تلال	Tulal	ع	گرم ٹیلے
تلام	Tilam	ع	اطاعت کرنے والا، فرمانبرداری کرنے والا، خدمت کرنے والا

marfat.com
Marfat.com

تلثیم	Talseem	ع	عقیدت
تلمیذ	Talmiz	ع	شاگرد' حاجت' ضرورت' طالب
تلقین	Talqeen	ع	تعلیم دینا' سمجھانا' ہدایت دینا' ریڈیو پاکستان کا ایک مشہور کردار تلقین شاہ جسے مشہور ادیب اشفاق احمد ادا کرتے تھے۔
تلواس	Tilwass	ع	اضطراب' بے قراری
تلوین	Talveen	ع	رنگ برنگ کرنا
تلئین	Talean	ع	نرم کرنا' نرمی
تلیمان	Taliman	ف	ایک ایرانی نام
تمثال	Tamsaal	ع	تصویر' نقش ونگار' مجسمہ
تمثیل	Tamseel	ع	مشابہت
تمنا	Tamanna	ع	خواہش
تمہید	Tamheed	ع	عنوان
تمہیل	Tamheel	ع	مہلت دینا
تمہیم	Tamheem	ع	مضبوط
تمیط	Tameet	ع	مشغول ہونا
تمیمہ	Tamima	ع	ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک
تمدیح	Tamdih	ع	بہت توصیف کرنا' بہت مدح کرنا' بہت ستائش کرنا' بہت تعریف کرنا
تمجید	Tamjeed	ع	فضیلت' بڑائی' بزرگی
تموجین	Tamojain	ت	آہن پارا' چنگیز خان کا اصل نام
تمویل	Tamweel	ع	دولت مند کرنا' مالدار کرنا
تمریش	Tamreesh	ع	تھوڑی بارش

marfat.com

Marfat.com

تمرین	Tamreen	ع	مشق، حلیم بنانا، نرم بنانا
تمیز	Tamiz	ع	امتیاز، فرق، پرکھ، شعور، سمجھ، پہچان، مغربی پاکستان اسمبلی کے سابقہ اسپیکر مولوی تمیزالدین
تمیم	Tamim	ع	توانا، مضبوط، لمبے قد والا، مشہور صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تمدین	Tamdin	ع	خوشحال ہونا، آسودہ حال ہونا، اچھے حال میں ہونا
تمکین	Tamkin	ع	زور، ہمت، طاقت، مرتبہ، رتبہ
تمکنت	Tamkanat	ع	اثر، دبدبہ، رعب، قدرت
تماظر	Tamazir	ع	عیاں ہونے والے، ظاہر ہونے والے، آشکارا ہونے والے
تمدید	Tamdid	ع	اضافہ کرنا، بڑھانا، دراز کرنا
تنظیر	Tanteer	ع	مثال لانا، نظیر بنانا
تنویر	Tanwir	ف	روشنی، چمک، نور، مشہور پاکستانی شاعر تنویر کاظمی
تنصیف	Tanseef	ع	آدھا کرنا، نصف کرنا
تنظیر	Tanzir	ع	مثل بنانا، مثال لانا، نظیر بنانا
تنعیم	Taneem	ع	نازونعمت میں پالنا
تنغیم	Tangheem	ع	نازونعمت میں پالنا، تازہ روئی
تنفیذ	Tanfiz	ف	فرمان جاری کرنا، حکم جاری کرنا
تنفیر	Tanzeer	ف	ڈورانا
تنفیر	Tanfir	ع	پیار و محبت سے پالنا، نازونعم سے پالنا، تازہ روئی
تنظیم	Tanzim	ع	بندوبست کرنا، نظم و نسق کرنا، انتظام کرنا، ایک نام تنظیم حسن
تنزیل	Tanzil	ع	نازل کرنا، نزول کرنا، اتارنا، ایک نام تنزیل الرحمٰن
تنشیط	Tanshit	ع	خوش کرنا، باغ باغ ہونا
تنویل	Tanweel	ع	دینا، عنایت کرنا، عطا کرنا

marfat.com

Marfat.com

توشیخ	Toshikh	ع	سجاوٹ کرنا' آرائش کرنا' سنوارنا' زیبائش کرنا
توفیل	Toufeel	ع	زیادہ کرنا' اضافہ کرنا' بڑھانا
توسل	Tawassal	ع	ذریعہ' سبب' وسیلہ
تواجد	Tawajad	ع	وجد' بےخودی
توثیق	Tauseeq	ع	پکا کرنا' سخت کرنا' مصمم کرنا' مضبوط کرنا
تواب	Tawaab	ع	توبہ قبول کرنے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام' مشہور عالم دین مولانا عبدالتواب صدیقی
توخی	Tukhee	ع	ڈھونڈنا' ارادہ کرنا' نیت کرنا' قصد کرنا' تلاش کرنا
توکل	Tawakkal	ع	یقین کامل' بھروسہ' تکیہ کرنا' اعتماد' مان کرنا' ایک نام توکل اللہ
توصیف	Tauseef	ع	صفت بیان کرنا' وصف بیان کرنا' اچھائی بیان کرنا' خوبی بیان کرنا' تعریف کرنا
توفیر	Taufeer	ع	زیادتی' اضافہ' فراوانی
توقد	Tawaqad	ع	منور' روشن' پُرنور' تیز طبع
توفیق	Taufeeq	ع	طاقت' ہمت' حوصلہ
توحید	Tauheed	ع	وحدانیت' ایک ماننا' واحد ماننا' ایک سمجھنا
توسیم	Tauseem	ف	موجود ہونا' نکل آنا' عیاں ہونا' حاضر ہونا
توسید	Tauseed	ع	کسی کے لئے تکیہ رکھنا' کسی کے لئے بھروسہ رکھنا
توضیح	Tauzih	ع	روشنی' چمک' نور
توقیر	Tauqeer	ع	تعظیم' عزت' ادب' احترام' وقعت' تکریم
توکیل	Taukeel	ع	سونپنا' ذمے لگانا' وکیل و مختار بنانا
تویسم	Twaisam	ف	حاضر ہونا
تہشیم	Tahsheem	ع	عزت افزائی کرنا

marfat.com
Marfat.com

تہور	Tahoor	ع	جرأت، بہادری، مردانگی، دلیری، شجاعت، مشہور پاکستانی شکاری تہور علی خان
تہام	Tiham	ع	مضبوط، نڈر، دلیر، جری، بہادر، شجاع
تہامی	Tihami	ع	حضور نبی کریم ﷺ کا لقب مبارک، مکہ مکرمہ کو اتہام بھی کہتے ہیں
تہمین	Tahmeen	ع	الزام
تہمورس	Tehmoores	ف	ایک ایرانی نام
تہذیب	Tehzib	ع	شائستگی، آراستگی، انسانیت، صفائی، درست کرنا، ایک نام تہذیب الحسن
تیمار	Timar	ف	دکھ بانٹنے والا، غم خوار، غمگسار
تیمور	Taimour	ت	فولاد، مشہور فاتح بادشاہ تیمور لنگ
تیسیر	Taiseer	ن	آسان فہم، اطمینان، سکون، سہل
تیمن	Tayamman	ع	تبرک، برکت حاصل کرنا

marfat.com
Marfat.com

ٹ

ٹائبر	Taibar	ا،ہ	بڑا خاندان' کنبے' چھوٹا سا گھر' چھوٹی جھیل' چھوکرا' کم عمر لڑکا
ٹلوا	Talwa	ا،ہ	ٹال کا مالک یا چوکیدار
ٹوبری	Tobree	ا	پھولوں کا گملا' ایک قسم کی آتش بازی
ٹھاکر	Thakur	ا،ہ	دیوتا' پرماتما' مالک' آقا' امیر' راجپوت' زمیندار' ہندوؤں کے جنگ جو فرقے راجپوت کا فرد' نائی' حجام' عزت واحترام کا لفظ جیسے حضرت' جناب' صاحب' مسٹر وغیرہ' دولت مند مالدار'
ٹھار	Thar	ا،ہ	برف' پالا' ارادہ' قصد' جگہ' ٹھکانا
ٹاپو	Tapu	ا،ہ	جزیرہ' خشکی کا قطعہ جو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہو
ٹلم	Tallam	ا	فضول' مہمل' بے کار
ٹمکی	Timki	ا	ایک چھوٹا سا نقارہ' ڈھنڈورا

marfat.com
Marfat.com

ث

ثابت	Sabet	ع	مضبوط، قائم، مکمل، پورا، مستقل، سچا، یقین، اعتماد، بھروسہ، برقرار، مشہور صحابی رسول حضرت خزیمہ بن ثابتؓ
ثائر	Sair	ع	قصاص لینے والا، بدلہ لینے والا
ثافی	Safi	ع	دوسرا
ثاقب	Saqib	ع	مضبوط
ثاقل	Saqil	ع	بھاری، وزنی
ثامل	Samil	ع	تلوار جو مدت سے صیقل نہ ہوئی ہو
ثامن	Samin	ع۔ف	آٹھواں، ہشتم
ثانی	Sani	ع	دوسرا، دوم، ہمسر، مقابل، ہم پلہ
ثانی اثنین	Sani Atnan	ع	مانند، مثل، نظیر
ثانیہ	Saniyah	ع	پل، سیکنڈ، دقیقہ
ثادق	Sadiq	ع	ابر باراں، بادل، گھٹا، بارش والا بادل
ثاوی	Savi	ع	مقیم، عرصہ تک قیام کرنے والا
ثائب	Saib	ع	درخشاں، چمک والا، چمکیلا، روشن، منور
ثالب	Salib	ع	ملامت کرنے والا، نکتہ چین
ثالث	Salis	ع	فیصلہ کرنے والا، پنچ، تیسرا، بیچ میں پڑنے والا
ثالوثہ	Salus	ع	تثلیث (باپ بیٹا روح القدس)
ثامر	Samir	ف	پھل دار درخت
ثبات	Sabat	ع	پائیداری، پختگی، مضبوطی، قرار

marfat.com
Marfat.com

ثباتہ	Sabatah	ع	بہادر ہونا' دلاور ہونا' پختہ رائے ہونا
ثبار	Sabaar	ع	تندہی' استقلال' مصروفیت
ثبہات	Sabhat	ع	مضبوط
ثبوت	Saboot	ا' ع	دلیل' سچائی' شہادت' گواہی' دوام' قیام' مضبوطی' پائیداری
ثجاج	Sajjaj	ع	بہنے والا' بہانے والا
ثخین	Sakheen	ع	موٹا' پائیدار
ثخین السلاح	Sahkheen-ul-Salah	ع	ہتھیار بند آدمی
ثدم	Sadam	ع	توتلا' ہکلا' جس کی زبان میں لکنت ہو' احمق آدمی' موٹا آدمی
ثرا	Sira	ع	مال و دولت' مالدار ہونا' تونگر ہونا
ثروت	Sarwet	ع	دولت' مال و زر
ثریٰ	Soraa	ع	زمین کے نیچے کی مٹی' گیلی مٹی
ثریا	Surriya	ع	جھمکا' وہ سات ستارے جو پاس پاس رہتے ہیں' پروین' سات سہیلوں کا جھمکا
ثریا جاہ	Surriya jah	ع	بلند پایہ' عالی مرتبہ
ثعبان	Saban	ع	اژدھا
ثقت	Saqat	ع	استواری' مضبوطی
ثقف	Saqaf	ع	دانا اور ماہر ہونا' چست ہونا
ثقفی	Saqfi	ع	منسوب بہ قبیلہ ثقیف' قبیلہ ثقیف کا آدمی عمدہ اور نفیس چیزیں' بھاری گروہ یعنی جن اور انسان
ثقافہ	Saqafah	ع	دانا ہونا' استوار ہونا چست ہونا
ثقلان	Saqlan	ع	عمدہ اور نفیس چیزیں' بھاری گروہ یعنی جن اور انسان
ثقلین	Saqlain	ع	دونوں جہان' دو گروہ' مخلوق یعنی انسان اور جن

marfat.com
Marfat.com

ثقابت	Saqabat	ع	روشن' چمکیلا' منور' شوخ' سُرخ
ثقافت	Saqafat	ع	تہذیب' کلچر
ثقال	Saqal	ع	بھاری بھاری سرین والا' آہستہ چلنے والا
ثقیف	Saqeef	ع	چست' چالاک' دانا' تیز' طرار' عقلمند
ثقات	Saqat	ع	معتبر لوگ' معزز لوگ' ثقہ کی جمع' قابل اعتبار لوگ
ثلاج	Sulaj	ع	برف بیچنے والا
ثلوج	Saloj	ع	ٹھنڈک
ثمن	Samn	ع	قیمت' دام' قدر
ثمال	Samal	ع	کارگزار انسان' فریادرس
ثمامہ	Samamah	ع	ایک صحابیؓ رسول
ثمور	Samur	ع	پھلدار ہونا
ثمین	Samin	ع۔ف	بیش قیمت' گراں بہا' قیمتی
ثمد	Samd	ع	تھوڑا پانی
ثمار	Simar	ع	پھل کی جمع
ثمر	Samr	ع	پھل' نتیجہ' انجام
ثمرہ	Samrah	ع	حاصل' فائدہ' بدلا' عوض
ثمروز	Samrose	ع' ف	پھلدار' باروَر' ثمردار
ثمیر	Sameer	ف	میوہ دار' پھل دار
ثمین	Sameen	ع	قیمتی
ثناء	Sana	ع	تعریف
ثناءاللہ	Sanaullah	ع	اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا' ایک مشہور عالم مولانا ثناءاللہ پانی پتی
ثوبان	Soban	ع	واپس آنا' پلٹ آنا' لوٹنا' صحابی رسول ﷺ حضرت ثوبانؓ

marfat.com
Marfat.com

ثور	Sore	ع	جوش میں آنا' اٹھنا' گرد اور دھوئیں کا نکلنا' خون کا ظاہر ہونا' جی متلانا' حملہ کرنا
ثور	Sore	ع' ا	آسمان کا دوسرا برج جو گائے کی شکل کا ہے۔ بیل' مکہ معظمہ کے ایک پہاڑ کا نام
ثوران	Souran	ع	خون کی گردش
ثوری	Sauri	ع	قبیلہ ثور سے تعلق رکھنے والا' مشہور ولی اللہ حضرت سفیان ثوریؒ
ثوابت	Sawabet	ع	حرکت نہ کرنے والے ستارے
ثواقب	Sawaqab	ع	درخشاں' چمکدار' روشن' منور' تاباں
ثوب	Zhob	ع	لباس' پوشاک
ثومان	Souman	ع	واپس آنا
ثوی	Sovi	ع	مہمان' مہمان سرائے
ثیاب	Zhayab	ع	پوشاک' لباس' کپڑا
ثید	Said	ع	ٹھنڈی اور مرطوب جگہ
ثیر	Seer	ع	ٹھنڈی اور مرطوب کرنا
ثین	Seen	ع	دریا سے موتی نکالنے والا

marfat.com
Marfat.com

ج

جابان	Jaban	ع	کمزور دل والا' نرم دل' حضرت عمرؓ کے وقت میں ایران کے سپہ سالار کا نام۔
جابر	Jabar	ع	زبردست' جبر کرنے والا' مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہؓ
جاثلیق	Jaasleeq	ع	کیتھولک' ایک عیسائی فرقہ
جاثی	Jasi	ع	زانو پر بیٹھنے والا' پاؤں کی انگلیوں پر کھڑا ہونے والا
جاجم	Jajam	ت	چھپا ہوا یا بیل بوٹے دار کپڑا' چھاپے کا فرش
جاحظ	Jahaz	ع	جس کی آنکھیں بڑی اور باہر نکلی ہوئی ہوں
جاکی	Jaki	انگریزی	پیشہ ور' چابک سوار' گھڑ دوڑ میں گھوڑے پر سوار ہونے والا
جاگو	Jagu	ہ	شب بیدار' ہوشیار' بیدار مغز
جالب	Jalab	ع	اپنی طرف کھینچ لینے والا' مشہور شاعر حبیب جالب
جالوت	Jalut	ع	عمالقہ کے ایک بادشاہ کا نام جو حضرت داؤدؑ کے ہاتھوں سے مارا گیا
جالینوس	Jalinoos	ی	ایک معروف یونانی طبیب
جان	Jaan	ف	طاقت' زندگی' روح' ایک نام جان محمد
جانب	Janib	ع	اپنی طرف کھینچنے والا
جان بخش	Janbakhash	ف	تازگی دینے والا یا والی' جس سے جان سی پڑ جائے
جانشین	Janasheen	ا	قائم مقام' نائب سلطنت' گدی نشین' ولی عہد
جانف	Janif	ع	راہ حق سے اعراض کرنے والا
جانی	Jani	ف	عزیز' پیارا' معشوق' محبت کا لفظ
جاں بر	Janbar	ف	محفوظ' زندہ' سلامت' صحیح سلامت

marfat.com
Marfat.com

جاں ستاں	Jan stan	ف	جاں لینے والا
جاوداں	Jaudan	ف	ہمیشہ' دائم' سدا
جاول	Jawal	ع	جنگجو' لڑنے والا
جاوید	Javaid.	ف	دائمی' ہمیشہ کے لیے' قائم رہنے والا
جاسر	Jasar	ع	آگے بڑھنے والا' بہادر' دلیر' نڈر' جری' شجاع
جاعل	Jaal	ع	پیدا کرنے والا' بنانے والا' تخلیق کرنے والا
جایا	jaya	ہ'ا	بیٹا' فرزند' پسر' لڑکا' ولد' پوت خلف' ابن
جایان	Jayan	ف	نرم دل' کمزور دل
جام	Jaam	ف	پیالہ' آسمان' فلک
جامع	Jameh	ع	جمع کرنا' حاوی' اکٹھا کرنا
جامد	Jamad	ع	ٹھوس' جما ہوا' مضبوط' سخت
جالس	Jalas	ع	بٹھانے والا' بیٹھنے والا
جاہ	Jah	ف	رتبہ' جلال' حشمت' مرتبہ' عزت' ایک نام آصف جاہ
جامی	Jami	ع	جام سے تعلق رکھنے والا' مشہور بزرگ اور مصنف مولانا عبدالرحمٰن جامی
جارح	Jareh	ع	نشتر لگانے والا
جاز	Jaaz	انگریزی	ایک طرح کا نغمہ اور ناچ
جازم	Jazam	ع	مضبوط ارادہ کرنے والا' پکا ارادہ کرنے والا
جازی	Jazee	ع	بدلہ دینے والا' کفایت کرنے والا
جازیہ	Jaziyah	ع	عرض' بدلہ' پاداش
جاسم	Jasam	ع	تنومند' مضبوط' گراںڈیل' توانا' طاقتور
جائر	Jaer	ع	حق سے پھرنے والا' ظالم
جائش	Jaish	ع	اعلیٰ' عمدہ' نفیس

marfat.com
Marfat.com

جازع	Jazeh	ع	مصمم ارادہ کرنے والا' مضبوط ارادہ کرنے والا
جاذل	Jazal	ع	سیدھا کھڑا ہونے والا' خوش وخرم
جاذب	Jazab	ع	پرکشش' جذب کرنے والا
جاد	Jad	ع	سنجیدہ' محنتی
جادل	Jadil	ع	جنگ کرنے والا
جباب	Jabbab	ع	جبہ بنانے والا یا بیچنے والا
جبان	Jaban	ع	کمزوردل والا
جبال	Jabaal	ع	جبل کی جمع پہاڑ
جبران	Jabran	ع	معاوضہ' عوض' تلافی' موازنہ' تاوان' لبنان کے مشہور فلسفی مصنف خلیل جبران
جبرائیل	Jibraiel	ع	فرشتہ کا نام
جبار	Jabbar	ع	ٹوٹے کو جوڑنے والا' جبر کرنے والا' اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ سے ایک نام
جبروت	Jabroot	ع	بزرگی وعظمت' جاہ وجلال
جبریل	Jabriel	ع	اس مشہور جلیل القدر فرشتے کا اسم مبارک جو اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کے مابین وسیلے کا کام دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتے تھے آپ کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے
جبل	Jabal	ع' ا	پہاڑ' کوہ' جمع جبال
جبیس	Jabees	ع	ریچھ کا بچہ
جبین	Jabeen	ع	ریچھ کا بچہ
جبیر	Jabeer	ع	جابر' زبردست
جبیرہ	Jabeerah	ع	کنگن' آمادہ ہونا
جپسی	gypsy	انگریزی' ا	خانہ بدوش

marfat.com
Marfat.com

جثہ	Jassa	ا ع	ڈیل' تن' قالب' جسم' پنڈا کایا' کاٹھی' ڈھانچہ' لاش' جسامت
ججمان	Jajman	ا ہ	برہمنوں یا نائیوں کی آسامی جس کا وہ پشتوں سے کام کرتے آرہے ہوں' مخدوم' آقا' مربی
جحظ	Jehz	ع	ایک عربی ادیب کا لقب
جحفل	Jahfal	ع	بڑا لشکر' طاقتور' بڑے مرتبہ کا آدمی
جحوظ	Jahwaz	ع	بڑی یا ابھری ہوئی آنکھوں والا ہونا
جحیش	Jaheesh	ع	کنارہ' ناحیہ
جدت	Jiddat	ع	نیا پن' تازگی (جد۔دت)
جدیر	Jadeer	ع	لائق' سزاوار' احاطہ
جدار	Jaddar	ع	دیوار
جدیر	Jadeer	ع	لائق' قابل' سزاوار' احاطہ
جدار	Jidar	ع	دیوار' فصیل
جذیر	Jazeer	ع	مناسب' لائق' موزوں
جزیل	Jazeel	ف	پائیدار' مضبوط' بہت
جرجبیں	Jarjabeen	ع	ایک پیغمبر کا نام
جروان	Jarwan	ع	خوگر' عادی
جرار	Jarrar	ع	دلیر' بہادر' شجاع' جری' کھینچنے والا
جرنم	Jarnam	ف	جسامت والا
جرہ	Jarrah	ات	شجاع' بہادر
جری	Jarry	ط	بہادر' جرات مند
جریم	Jareem	ف	موٹا' بڑے تن والا' بڑی جسامت والا
جرید	Jareed	ف	پیغام رساں' پیامبر' نامہ بر' قاصد
جرید	Jareed	ع	پتوں سے صاف کی ہوئی ٹہنی

marfat.com
Marfat.com

جرأت	Jurrat	ع	دلیری' شجاعت' بہادری
جریس	Jarees	ع	سفر کی تیاری کرنے والا
جزا	Jaza	ع	بدلہ
جزاکت	Jazakat	ع	بزرگی' بڑائی' خوبی' پائیداری' مضبوطی
جذلان	Jazlan	ف	خوش وخرم' شاداں وفرحاں' پُر مسرت
جذول	Jazool	ع	پرمسرت' خوش رہنے والا' شادمان
جزاک اللہ	Jazakallah	ع	اللہ تجھے جزا دے' اللہ تجھے اجر دے
جسور	Jaswer	ع	دلیری' بہادر' جرأت مند' جری' نڈر
جسیم	Jaseem	ع	بڑی جسامت والا' گرانڈیل' موٹے جسم والا
جسام	Jusaam	ع	فربہ' موٹا' بڑی جسامت والا
جساس	Jusaas	ع	بڑی جستجو کرنے والا' بڑا تجسس کرنے والا
جصاص	Jasaas	ع	عمارت کی آرائش کرنے والا' فقہ حنفی کے ایک مشہور فقیہ کا لقب
جعالہ	Jeala	ع	صلہ' کسی کام کے کرنے کا انعام
جعفر	Jaffer	ع	ندی' نالہ' مشہور صحابی حضرت جعفر طیارؓ۔
			جن کے ساتھ مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تھی یہ حضور نبی کریم ﷺ کے چچازاد بھائی بھی تھے۔
جعفری	Jafferi	ف	زرد رنگ کا پھول' گیندا
جفیر	Jafeer	ع	چمڑے کا تیردان' ترکش
جقالہ	Jaqallah	ع	فوج' گلہ' پرندوں کا جھنڈ
جگر	Jigr	ف	طاقت' کلیجہ' زور' اختیار' آس' امید' قوت' بھارت کے مشہور شاعر جگر مراد آبادی

marfat.com
Marfat.com

جلال	Jalal	ع	عظمت' بڑائی' بزرگی' مشہور ولی اللہ مولانا جلال الدین رومی جن کا مزار قونیہ میں ہے
جلالت	Jalalat	ع	بزرگی' رعب و دبدبہ' غصہ' بڑائی' شان و شوکت
جلاوت	Jalawat	ع	چستی' دلیری
جلنار	Jalnar	ع	گلنار کا معرب' انار کا پھول
جلوریز	Jaloraz	ف	تین سرپٹ' جلدی' تیزی چستی
جلوز	Jalwaz	ع	چلغوزہ' فربہ آدمی
جلمد	Jalmad	ف	مضبوط' طاقتور' سخت' ٹھوس
جلادت	Jaladat	ع	دلیری' چستی' تیزی' پھرتی
جلدل	Jaldil	ع	بزرگی
جلیل	Jalil	ع	اعلیٰ' بزرگ' بڑا' معزز' مشہور نیوز کاسٹر اور کمنٹیٹر حسن جلیل
جلیس	Jalis	ف	دوست' رفیق' ساتھی' حبیب' ہم نشین' مشہور اداکار ابراہیم جلیس
جلیۂ	Jaliah	ع	ژالہ' اوس' برف
جلاءدین	Jaladin	ع	دین کی چمک' دین کی رونق
جلالی	Jalali	ع	جلال والا' رعب و دبدبہ والا' شان و شوکت والا' غصے والا
جلید	Jalid	ع	اولہ' برف' ژالہ
جمخ	Jamakh	ع	مغرور و متکبر ہونا
جمیل	Jamil	ع	حسین' سوہنا' خوبصورت' شکیل
جمل	Jamal	ع	اونٹ' اکٹھا کرنا' جمع کرنا
جموع	Jammuh	ع	سرکش گھوڑا' تیز رو گھوڑا' وہ شخص جو نفسانی خواہش سے باز نہ آسکے
جموس	Jumus	ع	گاڑھا ہونا' ٹھوس ہونا

marfat.com
Marfat.com

جمعہ	Jummah	ع	مجمع، گروہ، اتحاد
جمشید	Jamshed	ف	فارس کے ایک بادشاہ کا نام۔ فارس پر اس کی حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آٹھ سو سال پہلے قائم تھی
جُمل	Juml	ع	خوبصورت، حسین، جمیل، سوہنا، شکیل
جماش	Jamash	ف	دلیر، نڈر، شجاع، جری، شوخ، بہادر
جماعت	Jumaat		حسن، جوبن، روپ، خوبصورتی، نرمی، رحمت
جماعت	Jumaat		پارٹی، گروہ، جتھہ، ٹولی، سوسائٹی
جُمل	Jumal	ع	اونٹ
جُمل	Jumal	ع	خوبصورت، حسین
جمال	Jamal	ف	خوبصورتی، حسن، مصر کے ایک سابقہ حکمران جمال عبدالناصر
جمان	Jaman	ع	موتی، چاندی کی گھنڈیاں
جمانی	Jamani	ف	ساقی، شراب پلانے والا
جناب	Janab	ع	حضور، حضرت
جناح	Jinnah	ع	بازو اور ہاتھ، بغل، جانب، پناہ، حمایت، کنارہ، روزن، کھڑکی، گروہ
جنان	Janan	ع	دل، قلب، جنت، بہشت
جنب	janab	ع	پہلو، کنارہ، حکم (اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کی)
جنبہ	Janbah	ع، ا	حمایت، طرف داری، پناہ، طرف، پہلو
جندل	Jandal	ع	بڑا پتھر، وزنی پتھر
جندی	Jandi	ع	سپاہی، فوج کا آدمی
جنیا	Janiya	ہ، ا	جانِ من، اے میری جان

marfat.com
Marfat.com

جنید	Junaid	ع	نیک، عبادت گزار، پرہیز گار، مشہور ولی اللہ حضرت جنید بغدادیؒ جو حضرت سری سقطیؒ کے بھانجے تھے۔
جنیس	Janees	ع	ہم جنس
جولان	Jolan	ع، ا	دوڑنا، گھوڑا دوڑنا، حرکت گردش
جوہر	Joher	ع	حاصل، ست، خلاصہ، خوبی، لعل، ایک قیمتی پتھر۔
			تحریک پاکستان کے مشہور رہنما مولانا محمد علی جوہر
جواد	Jawad	ع	دینے والا، تقسیم کرنے والا، داتا، عطا کرنے والا، بانٹنے والا، سخی
جواز	Jawaz	ع	وجہ، شرح، وضاحت
جودت	Jodet	ع	ذہانت، ذکاوت، تیزی، خوبی
جودی	Jodi	ع	ایک پہاڑ کا نام، موصل کے کنارے جس پر حضرت نوحؑ کی کشتی ٹھہری تھی
جوہری	Johri	ار	موتی پرکھنے والا، موتی شناس، جوہر شناس
جواں بخت	Jawan Bakht	ف	خوش قسمت، اقبال مند، اچھی قسمت والا، خوش نصیب
جواہر	Jawaher	ع	جوہر کی جمع، قیمتی پتھر
جوئندہ	Joindah	ف	تلاش کرنے والا، ڈھونڈنے والا
جوشوا	Joshua	عبر	خلاصی دلانے والا، نجات دلانے والا
جوشن	Joshan	ف، ا	جنگی لباس، زرہ بکتر، آفتوں سے حفاظت کی دعا
جہانگیر	Jahangir	ف	دنیا کو فتح کرنے والا، جہان کو فتح کرنے والا، ہندوستان کا چوتھا مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر جس کا مقبرہ لاہور میں ہے
جہبند	Jahoband	ع	عقلمند آدمی بات کو پرکھنے والا
جہول	Jahool	ع	بڑا نادان

marfat.com
Marfat.com

جہید	Jaheed	ف	بلند آواز والا شخص' اونچی آواز والا آدمی
جہیر	Jahair	ف	بلند آواز والا آدمی
جہیہ	Jhia	ف	اونچی آواز والا
جہانزیب	Jahanzeb	ف	دنیا کی سجاوٹ کرنے والا' دنیا کی زیبائش کرنے والا
جہاندار	Jahandar	ف	دنیا کو رکھنے والا' دنیا کو سنبھالنے والا
جہانیاں	Jahanian	ف	مخلوق' مشہور ولی اللہ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشتؒ
جہان	Jahan	ف	عالم' دنیا' ایک نام جہان خان
جہاد	Jihad	ع	اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا
جہیندہ	Jahindah	ع	سمجھدار شخص' دانشمند انسان' عقلمند آدمی
جہاں بان	Jahanban	ف	دنیا کی حفاظت کرنے والا' دنیا کی نگرانی کرنے والا
جیاد	Jiyad	ع	خالص' ملاوٹ سے پاک
جیال	Jial	ع	گفتار
جیسم	Jaseem	ع	گرانڈیل' بڑی جسامت والا
جیش	Jaish	ع	لشکر' سپاہ
جید	Jayyad	ع	اعلیٰ' بزرگ' خوب' عمدہ' کھرا
جی دار	Gee Dar	ا	دلیر' بہادر' منچلا
جیلان	Jeelan	ف	ایک شہر کا نام' گیلان
جیو	Jeo	ع	دل' قلب

marfat.com
Marfat.com

چ

چان	Chan	ت	عزیز' محبوب' پیارا
چان	Chan	ت	روشنی' چانن' اُجالا
چانن	Chanan	پ	اجالا' روشنی' نور
چانن دین	Chanandin	پ۔ع	دین کا اجالا' دین کا نور' دین کی روشنی
چاند	Chand	ار	قمر' ماہتاب
چاند خان	Chand Khan	ار۔ت	چاند کا رئیس
چاندوا	Chandwa	اُہ	سائبان' شامیانہ
چاش	Chash	ف	مٹھاس' شیریں' میٹھا
چاش گل	Chash Gull	ف	شیریں پھول' میٹھا پھول
چاوش	Chawash	ف	گروہ' قافلے' لشکر کا نقیب
چراغ	Chiragh	ف	شمع' دیا' مشہور ادیب چراغ حسن حسرت
چراغا	Chiragha	ا	نذرانہ' پیسہ
چراغاں	Chiraghan	ا	بہت روشنی بہت سے چراغوں کا اکٹھا چلنا
چراغدین	Chiraghdin	ف۔ع	دین کی شمع' دین کا چراغ' دین کا دیا
چرخاب	Charkhab	ف	گرداب' چکر بھنور
چرن بردار	Charanberdar	اُہ	امیروں کی جوتیاں اٹھانے والا' نیازمند' عقیدت مند
چرمی	Charmi	ف	چمڑے کا بنا ہوا

marfat.com
Marfat.com

چغتائی	Chughtaee	ف'ت	جو چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کی نسل سے ہیں وہ چغتائی کہلاتے ہیں۔
چمارے	Chamaray	ا	آئینہ
چمالی	Chamali	اُف	ساقی' شراب پلانے والا
چمپا	Champa	ہ'ا	سفید پھول
چمن	Chaman	ف	گلستان' باغ
چمن آرا	Chamanara	ف	باغبان' مالی
چمن گل	Chaman Gul	ف	باغ کا پھول
چندا	Chanda	ہ'ا	چاند جیسا
چنداں	Chandan	ف	اس قدر' اتنی' ایسی
چندوا	Chandwa	اُہ	ایک قسم کا شامیانہ
چندل	Chandal	ف	صندل
چندر	Chandar	ا	چاند' مہتاب
چنگیز خان	Changez Khan	ت	سردار۔ بڑا رئیس۔ بڑا امیر۔ تاریخ انسانیت میں ایک مشہور نام چنگیز خان جو تاتاری تھا۔
چشتی	Chishti	ف	چشت کا رہنے والا
چشیدہ	Chashidah	ف	تجربہ کار' ماہر
چمبر لین	Chambarlane	اُانگریزی	بادشاہ یا امیر کے امور خانہ داری کا منتظم
چوبا	Choba	اُہ	چار ویدوں کا عالم' برہمن' برہمنوں کی ایک قوم جو بہت زیادہ کھانے میں مشہور ہے۔
چوبان	Choban	اُف	چرواہا' گڈریا' پاسبان
چوپڑا	Chopra	اُہ	مربع جگہ جو کوٹھے کے چند زینوں کے بعد بنا دیتے ہیں۔ مربع کنواں یا باؤلی

marfat.com
Marfat.com

چوپہل	Chopahal	اُ ہ	چار پہلو کا
چوتھیا	Chothia	اُ ہ	نمبردار' زمیندار' چوتھے روز کا بخار
چوج	Choge	ہ' ا	عجوبہ' انوکھا' نفاست' نزاکت حسن وخوبصورتی' وصف گن' تیز فہمی' شرارت' چالاکی' آرزو
چودھری	Choudhari	اُ ہ	سرغنہ' نمبردار' مقدم گاؤں کا سردار' میر محلّہ' زمینداری کا خطاب
چوراسیا	Chorasia	اُ ہ	برہمنوں کی ایک قوم
چوڑیا	Chorya	ا	ایک قسم کا دھاری دار کپڑا
چوگلا	Chogla	اُ ہ	چار پنکھڑی کا پھول
چوماس	Chomass	ا	برسات کے چار مہینے' برسات
چوہان	Chohan	اُ ہ	سورج بنسی راجپوتوں کی ایک گوت
چہرہ کشا	Chehrakusha	ف	مصور' تصویر کشی کرنے والا
چہیر	Chaheer	اُ ہ	لال کی قسم کا ایک چھوٹا سا پرندہ
چہیل	Chaheel	ہ	گیلا' غدار
چیتا	Chitah	اُ ہ	خیال' فہم' سمجھ' حافظہ
چیدہ خان	Chidakhan	ف۔ت	منتخب رئیس' چنا ہوا رئیس

marfat.com
Marfat.com

ح

حابس	Habiss	ع	روکنے والا
حابل	Habil	ع	جال پھیلانے والا' جادوگر شکاری
حاتم	Hatim	ع	سخی' بہادر' دلیر' عرب کے ایک مشہور سردار کا نام جو اپنی سخاوت اور بہادری کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ عربوں کے قبیلہ بنی طے سے تعلق رکھتا تھا۔ مشہور صحابی حضرت عدی بن حاتمؓ کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا۔
حامد	Hamid	ع	تعریف کرنے والا' حمد کرنے والا' صفت بیان کرنے والا
حامض	Hamiz	ع	کھٹا
حامل وحی	Hamil-e-Wahi	ا ع	وحی پہنچانے والا' حضرت جبریل علیہ السلام
حانذ	Hanid	ع	تابع و مددگار
حانط	Hanit	ع	گیہوں والا' یہ لفظ احمر کی تاکید کے لئے بھی آتا ہے جیسے احمر حانط بہت سرخ
حادث	Hadis	ع	فانی' بالکل نئی چیز جو پہلے ظہور نہ ہوئی ہو
حاوی	Hadi	ع	احاطہ کرنے والا' ماہر' اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام
خاقان	Hakaan	ت	بادشاہ
حاکم	Hakim	ع	حکومت کرنے والا' رئیس' سردار' امیر
حاذشا	Hazsha	ع	منافہ ہونے والا
حاذق	Haziq	ع	دانا' عقلمند' ماہر' کامل' تجربہ کار' یکتا
حازب	Hazib	ع	گروہ یا پارٹی بنانے والا
حازم	Hazam	ع	ذہین' دانا' ہوشیار' سمجھدار' دوراندیش' تیز معاملہ فہم۔

marfat.com
Marfat.com

حازی	Hazi	ع	قیافہ شناس' اندازہ لگانے والا
حائر	Haiir	ف	گرداب' چکر بھنور
حادر	Hadar	ع	بڑا' خوبصورت۔
حاذر	Hazar	ع	چوکس' ہمہ وقت تیار' مستعد
حاجب	Hajab	ع	دربان' رکھوالا' پہریدار
حاجت	Hajat	ع	دلیل' بحث
حاجت برار	Hajatbrar	ع'ف	ضرورت پوری کرنے والا' کنایۃً خدا
حاجت روا	Hajatrawa	ع'ف	ضرورت پوری کرنے والا' کنایۃً خدا
حاجز	Hajaz	ع	حائل ہونے والا' روکنے والا' سامنا کرنے والا' تلوار کی دھار
حافد	Hafad	ع	مددگار' اطاعت گزار' تابع
حامی	Hami	ع	حمایتی' طرفدار
حار	Harr	ع	حرارت رکھنے والا' گرم
حارث	Haras	ع	کسان' کاشتکار' شیر' مشہور صحابی حضرت حارث بن نعمانؓ
حارج	Harij	ع	روکنے والا' مزاحمت کرنے والا
حارہ	Harrah	ع	گرم
حارونی	Harooni	ا	سرکش' شریر' نافرمان
حاور	Hawer	ع	تعریف کرنے والا
حاوی	Hawi	ع	احاطہ کرنے والا' ماہر' مہارت رکھنے والا' غالب' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
حامض	Hamiz	ع	ترش' کھٹا
حازِم	Hazim	ع	ذہین' معاملہ فہم' ہوشیار' دوراندیش' تیز' سمجھدار' باشعور
حالم	Halim	ع	خیالوں کی دنیا میں رہنے والا' خواب دیکھنے والا

marfat.com

Marfat.com

حالی	Hali	ع	حال کا، وقتی، اک بہت بڑے نقاد کا تخلص
حاشیہ	Hashia	ا،ع	کنارہ، گوٹ، کتاب یا ورق کے چاروں طرف خالی حصہ
حاشم	Hasham	ع	مسعد، غضب ناک، ببر انگجختہ
حاشد	Hashid	ع	تیار، چوکس، مستعد
حاشہ	Hashah	ع	مستعد، تیار
حاشیر	Hasheer	ع	رسول اللہ ﷺ کا ایک نام، جمع کرنے والا
حافظ	Hafiz	ع	حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا
حافظ العین	Hafiz-ul-Ain	ع	بیدار آدمی، جس پر نیند غلبہ نہ کرے
حائد	Haid	ع	پرے ہونا، ایک طرف ہونا، علیحدہ ہونا، الگ ہونا
حائل	Haeel	ع	روکنے والا، بیچ میں آنے والا، پردہ، آڑ
حارس	Haras	ع	نگہبان، دربان، پاسبان، پہریدار، رکھوالا
حاشر	Hashir	ع	جمع کرنے والا، نقیب، حضور نبی کریم ﷺ کا صفاتی اسم مبارک
حامر	Hamir	ع	گدھے والا
حامز	Hamiz	ع	خوش طبع، بہت زیادہ سمجھدار، فہم وفراست والا
حاتم اصم	Hatim Asm	ع	ایک مشہور ولی اللہ کا نام
حاج	Haaj	ع	حج کرنے والا
حارج	Harij	ع	روکنے والا، مزاحم ہونے والا، خرچ کرنے والا، حائل ہونے والا
حافی	Hafi	ع	ننگے پاؤں والا، مشہور ولی اللہ حضرت بشر حافی
حام	Haam	ع	حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام

marfat.com
Marfat.com

حاطب	Hatib	ع	لکڑیاں اکٹھی کرنے والا' فربہ' موٹا' حضور نبی کریم ﷺ کے پیارے صحابی حضرت حاطب بن بلتعہؓ جو غزوہ بدر میں بھی شریک تھے۔
حاسب	Hasib	ع	حسب داں
حاسم	Hasem	ع	پے در پے' متواتر' مسلسل
حاسن	Hasen	ع	حسن' حسان' نیک مرد
حاسن	Hasan	ع	چاند
ہاشم	Hasham	ع	ہمہ وقت چوکس و تیار' مستعد' غصیلا
حامت	Hamat	ت	میٹھا' شیریں
حاصب	Hasib	ع	اولے برسانے والا بادل
حاصل	Hasil	ا' ع	آمدنی' پیداوار' نتیجہ' خلاصہ' فائدہ
حاضر	Hazir	ع	موجود' تیار' سامنے
حبال	Habbal	ع	رسی بنانے والا
حبشی	Habshi	ا' ع	سانولے رنگ کا' حبش کا باشندہ' کالا کلوٹا
حبذا	Habza	ع	کلمہ تحسین' واہ' مرحبا' شاباش
حبیب	Habib	ع	رفیق' ساتھی' دوست' پیارا' مشہور شاعر حبیب جالب
حبیب خدا	Habib-e-khuda	ا' ع	خدا کا پیارا' رسول خدا محمد مصطفیٰ ﷺ
حبنا	Habna	ع	پھرنا' باز رکھنا
حباب	Habib	ع	رفاقت' پیار' محبت' دوستی' ساتھ
حبل المتین	Hablalma-teen	ع	مضبوط وسیلہ' مضبوط ذریعہ
حتم	Hatm	ع	ارادہ' نیت' فیصلہ' پختگی' عزم صمیم
حتار	Hattar	ع	عقاب' شاہین

marfat.com
Marfat.com

حتاردین	Hattardin	ع	دین کا شاہین' دین کا عقاب
حجاج	Hajjaj	ع	حج کرنے والے' بہت سے حج کرنے والا' بہت حجت کرنے والا' مشہور حکمران حجاج بن یوسف جس نے سب سے پہلے قرآن پاک کے حروف پر اعراب لگوائے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ محمد بن قاسم کا چچا تھا۔
حجت	Hujjat	ع	دلیل' بحث
حجتہ	Hujjajah	ع	نشانی' دلیل' بحث' تمحیص
حجر	Hijar	ا' ع	سنگ' پتھر
حجران	Hajran	ع	سونا' چاندی
حجضہ	Hajza	ع	دلیل
حجاب	Hijab	ع	حیا' لحاظ' پردہ' لاج
حجی	Hajii	ع	سمجھ' عقل' شعور' فہم' دانش
حجار	Hajjar	ع	معمار' سنگتراش
حجاز	Hijaz	ع	مکہ' مدینہ' طائف وغیرہ پر مشتمل علاقہ' حد فاصل
حجازی	Hijazi	ع	حجاز کی طرف منسوب' ایک نام مسکین حجازی
حدی	Haddy	ع	عرب شتربانوں کا خوبصورت نغمہ
حدیر	Hadir	ع	خوبصورت' حسین' بڑا شکیل
حدب	Hadab	ا' ع	ٹیلا' اونچی زمین' کبڑاپن
حدبر	Hadbar	ع	خوبصورت
حدت	Hiddat	ع	تلوار کی تیزی' گرمی' جوش' زور
حدثان	Hidsan	ع	ابتداء' آغاز' شروع
حدثان	Hidsan	ع	نوجوان لڑکے' گھبرو جوان
حِداق	Hidaq	ع	حکمت والا' دانش مند' دانا' عقلمند' سمجھدار

marfat.com

Marfat.com

حداثت	Hidasat	ع	آغاز، نوجوانی، نیاپن
حدائق	Hidaiq	ع	گلستان، چمن، باغات
حدّاد	Haddad	ع	ایک مشہور قطب کا نام حفص حداد جو نیشاپور کے رہنے والے تھے
حداد	Hidad	ع	آہن گر، قید کرنے والا
حدید	Hadid	ع	لوہا، آہن
حدیفہ	Hazaifa	ع	ایک صحابی کا نام
حدیقہ	Hadeeqah	اُع	باغ، کھجوروں کا باغ
حذر	Hazar	اُع	بچاؤ، پرہیز، احتیاط
حذف	Hazaf	اُع	نکال دینا، ختم کر دینا
حذق	Hizq	ع	مہارت، دانائی، عقلمندی، تجربہ کاری
حذیفہ	Hizaifa	ع	اسرار کو جاننے والا، حضور نبی کریم ﷺ کے ایک پیارے صحابی کا اسم مبارک
حذافت	Hizafat	ع	دانائی، عقلمندی، سمجھداری، مہارت
حذاقت	Hizaqat	ع	عقل مندی، دانائی
حرمان	Haraman	ع	مکہ اور مدینہ
حرماں	Hurman	ع	محرومی
حرمت	Hurmat	ع	آبرو
حرمد	Hirmed	ع	اصرار کرنا، ضد کرنا
حربا	Hirba	اُع	گرگٹ، ایک جانور کا نام جو چھپکلی جیسا ہوتا ہے
حربی	Herbi	ع	لڑاکا، جنگجو، لڑنے والا
حریص الخیر	Harees-ul Khar	ع	اچھائی کا چاہنے والا، خیر کا لالچی

marfat.com
Marfat.com

حرید	Hareed	ع	دوری' فاصلے پر
حریر	Hareer	ع	ریشم' دیبا
حریز	Hareez	ع	محفوظ' حفاظت کیا ہوا
حریم	Hareem		خانہ کعبہ کی باہر کی دیوار' گھر کی چار دیواری' مکان' گھر' حرم' حق' منصب' حاجی کا لباس
حُرمت	Hurmet	ع	عزت' آبرو' عظمت
حرشف	Hershef	ع	چھوٹے پرندے' زرلے کی ٹڈیاں
حرشف	Hershef	ع	سخت زمین' ٹھوس زمین
حریف	Harif	ع	مخالف' دشمن' مقابل' ہم پیشہ
حُر	Hur	ع	شریف' نیک' سخی' آزاد' خود مختار' امام حسینؑ کے ایک جانثار حضرت حُرؓ
حرز	Hirz	ا'ع	پناہ کی جگہ' تعویذ' منتر
حریری	Hurairi	ع	باریک' ریشمی' پتلا آدمی' ایک نام غلام احمد حریری
حرفتی	Herfeti	ف	ہوشیار' چالاک' تیز' کاریگر
حرفہ	Harfah	ا'ع	پیشہ' ہنر' کاری گر
حرشف	Hershaf	ع	ٹھوس زمین' سخت زمین
حرس	Haras	ع	بادشاہ کے دربار کے نگہبانی یا پاسبان گارڈ
حرسان	Hersan	ع	رات دن
حراث	Haras	ع	کسان
حرار	Harar	ع	جوانمردی' آزادی' خود مختاری
حرارہ	Hararah	ا'ع	غصہ' جوش' گرمی' غلبہ شوق
حراز	Heraz	ع	مزاح کرنا' دل لگی کرنا
حزب	Hizab	ا'ع	گروہ' وظیفہ یا ورد کا حصہ' تقسیم جمع اجزاب

marfat.com

Marfat.com

حزب اللہ	Hezb-ullah	ا' ع	اللہ والوں کی جماعت
حزیم	Hazim	ع	دانا' ہوشیار' عقلمند' دانشمند' سمجھدار
حزین	Hazin	ف	غمگین' رنجیدہ' غمزدہ' مشہور شاعر حزیں قادری
حزم	Hazam	ع	مضبوطی' احتیاط
حزار	Hazaar	ع	دل لگی کرنا' مذاق کرنا
حزامت	Hazamat	ع	دور اندیشی' عاقبت اندیشی
حزیز	Hazeez	ع	مضبوط کردار والا شخص' سخت گفتگو کرنے والا
حسان	Hassan	ع	بہت بہتر' بہت اچھا' نیک' اعلیٰ' مشہور صحابی رسول نعت گو شاعر حضرت حسان بن ثابتؓ
حسن	Hasan	ع	نیک' اچھا' خوبصورت' حضور نبی کریم ﷺ کے پیارے نواسے اور حضرت علیؓ کے بڑے صاحبزادے کا اسم مبارک جن کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔
حسن خیز	Hasan Khaise	ا' ع	حسن پیدا کرنے والا' خوبصورت لوگ پیدا کرنے والا علاقہ
حسال	Hussal	ع	چاندی کا برادہ' چاندی کے ذرات
حسود	Hasud	ا' ع	حاسد' بدخواہ
حسیل	Haseel	ع	گائے' گائے کے بچھڑے
حسیم	Haseem	ع	ذی عزت' ذی مرتبہ' بلند مرتبہ' مہمان
حسیب	Haseeb	ع	بزرگ' حساب لینے والا
حسنین	Husnain	ع	اچھے لوگ' نیک لوگ
حسین	Hussain	ع	حضور نبی کریم ﷺ کے نواسے اور حضرت علیؓ کے صاحبزادے کا اسم مبارک حضرت امام حسینؓ جن کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا

marfat.com
Marfat.com

حسین	Haseen	ف	اچھی شکل والا' جمیل' شکیل' خوبصورت
حسنات	Hasnat	ع	نیکیاں' اچھائیاں' بھلائیاں' ایک نام حسنات احمد
حسبان	Hisban	ع	معلوم کرنا' پوچھنا' دریافت کرنا
حسام	Hussam	ع	شمشیر' تلوار
حسرت	Hasret	ع	خواہش' تمنا' آرزو
حسن	Hasan	ع	امام حسنؓ کی طرف منسوب
حسنیٰ	Hasna	ع	فتح مندی' نیک نامی
حسیف	Huseef	ع	خفا ہونے والا' ناراض ہونے والا
حسن صبیح	Hasan Sabeeh	ع	خوبصورت' سفید رنگ' دلکش گوری رنگت
حسنی	Husni	ع	بہت حسین و جمیل' بہت زیادہ خوبصورت' ایک نام حسنی مبارک
حشاش	Hashash	ع	گھسیارا' بھنگ بیچنے والا
حشام	Hasham	ع	شان وشوکت والا
حشمت	Hashmat	ع	جاہ وجلال' رعب' دبدبہ' شان وشوکت' بزرگی
حشیم	Hashim	ع	رعب ودبدبہ والا' شان وشوکت والا' معزز ومکرم
حشمی	Hashmi	ع	بزرگ' اعلیٰ' معزز' خدمتگار' برتری والا
حشم	Hashm	ع	خدمت گاری' دبدبہ' خاندان
حصیص	Hasees	ع	گنتی' عدد
حصیف	Hasif	ع	پائیدار' مضبوط' پختہ
حِصار	Hisar	ع	شہر پناہ' قلعہ' پناہ گاہ
حصیر	Hasir	ع	چٹائی' بوریا' صف
حصاز	Hasaz	ع	پناہ گاہ

marfat.com
Marfat.com

حسان	Hisan	ع	گوہر موتی
حصور	Hasoor	ع	بخیل' تنگ دل' باوجود قدرت کے جماع سے پرہیز کرنے والا
حصین	Hesin	ع	پائیدار' محفوظ' پختہ' مضبوط' پکا
حصانت	Hisanat	ع	پرہیزگاری' پاک دامنی' مضبوطی' حفاظت
حصن	Hasn	ع	جائے پناہ' قلعہ' حفاظت' پناہ کی جگہ
حصی	Hasi	ع	باشعور' سمجھدار' سیانا
حضرت	Hazrat	ع	حاضر' حضور' جناب
حضار	Hazar	ع	ایک سیارے کا نام
حضار	Huzar	ع	حاضرین' حاضر کی جمع
حضری	Huzra	ع	شہر کا رہنے والا' شہری لوگ
حضر	Hazr	ع	قیام' شہر
حضرمی	Hazrami	ع	حضرت موت کا رہنے والا
حضار	Hizar	ع	سرپٹ بھاگنے والا' بہت تیز بھاگنے والا
حضانت	Hizanat	ع	بچے کو پالنا' گود میں لینا
حضور	Hazoor	ع	موجودگی' حاضر ہونا' روبرو
حضیل	Hazil	ع	زیادہ
حطب	Hattib	ا' ع	لاغر' بہت دبلا' کمزور لاچار
حطیرہ	Hateera	ا' ع	لکڑی یا بانس کا احاطہ' قبرستان کی چاردیوری' مقبرے کا گنبد
حطیظ	Hateez	ع	صاحب مقدر
حطیم	Hateem	ع	خانہ کعبہ میں رکن اور مقام زمزم کے مابین کی دیوار جو مغرب کی طرف ہے' میزاب رحمت بھی اسی جانب ہے۔
حطاب	Hattab	ع	لکڑی بیچنے والا' لکڑیاں چننے والا
حطام	Hetam	ع	تبر' شیر

marfat.com
Marfat.com

حُطام	Hutam	ع	گھاس کا تنکا
حظ	Hiz	ا'ع	مزہ' لطف' جمع' خطوط
حظیظ	Haziz	ع	دولت مند' قسمت والا' صاحب نصیب' صاحب مقدر
حفیض	Hafeez	ا'ع	پستی' گڑھا' نشیب' گہرائی کھدائی
حفیل	Hafil	ع	کافی' زیادہ' بہت
حفیہ	Haffia	ع	کمان
حفار	Haffar	ع	قبر اور کنواں کھودنے والا
حفادت	Hifadat	ع	حال احوال پوچھنا' مہربانی کرنا
حفیظ	Hafeez	ع	نگہبان' حفاظت کرنے والا' محافظ' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک' پاکستان کے قومی ترانے کے خالق مشہور شاعر ابوالاثر حفیظ جالندھری
حفال	Hufal	عؑ	بڑا گروہ' بڑی جماعت
حفاظ	Hufaz	ع	حفاظت کرنے والا' نگہبانی کرنے والا' حافظ کی جمع
حفاد	Hufad	ع	تیز رفتار' سرعت رفتار
حفص	Hafs	ع	جمع کرنا' اکٹھا کرنا
حفظ	Hifz	ع	نگہبانی' حفاظت' لحاظ' ادب' پاس
حقی	Haqi	ع	سچ بات کہنے والا' کھری بات کہنے والا' سچا
حقیب	Huqeeb	ع	پیچھے رہ جانے والا' گھوڑے پر پیچھے بیٹھنے والا
حقانی	Haqqani	ع	حق' سچ' لائق' دوست' رفیق' قابل' اہل۔ مشہور صحافی اور ادیب ارشاد احمد حقانی
حق	Haq	ع	دوست' سچ' فرض' واجب' انعام' بدلہ' معاوضہ' جائز' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک

marfat.com
Marfat.com

حق آشنا	Haq Ashna	ع	صادق' امین' خدا پرست
حقیق	Haqiq	ع	اہل' لائق' سزاوار' مستحق
حقیقت	Haqiqat	ع	حق' حصہ' ملکیت
حکیم	Hakim	ع	دانشمند' حکمت والا' عقلمند' فہم وفراست والا' دانا' باشعور' سمجھدار
حکمت	Hikmet	ع	عقلمندی' دانائی' شعور' ذہانت' فہم و فراست' افغانستان کے مشہور رہنما گلبدین حکمت یار
حکمتی	Hakmati	ا	فلسفی' چالاک' ہوشیار
حکم	Hukm	ع	فیصلہ' فرمان' پروانہ
حکم دین	Hukmdin	ع	دین کا فرمان' دین کا فیصلہ
حلاج	Hilaj	ع	روئی دھننے والا' منصور کا لقب جنہوں نے انا الحق کا نعرہ بلند کیا تھا اور اس کی پاداش میں آپ کو سولی چڑھا دیا گیا تھا۔
حلاحل	Hilahil	ع	سربراہ' سردار' چوہدری' بڑا امیر
حلت	Hilt	ع	جائز' مباح' حلال ہونا
حلاوت	Hilawat	ع	مزہ' ذائقہ' مٹھاس' شیرینی
حلہ	Hulla	ا' ع	بہشتی لباس
حلیت	Halit	ع	انگوز' ہینگ
حلوان	Halwan	ا	بھیڑ یا یا بکری کا دودھ پیتا بچہ' رشوت' جہیز' ایک قسم کا کپڑا
حلوق	Halooq	ت	پیدا کرنے والا' بنانے والا' خالق
حلم	Hilm	ع	دانش' عقل' شعور' سمجھ' آہستگی' نرمی
حلیم	Haleem	ع	نرم مزاج' بردبار' تحمل والا' برداشت کرنے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
حلیل	Haleel	ف	حلال' جائز' مباح' خاوند' بیوی' ہم سفر' سچا دوست' کھرا دوست

marfat.com

Marfat.com

حلیف	Haleef	ع	مقابل، ہم عہدہ، ساتھی، رفیق، مددگار
حلمی	Hilmi	ت	خوابوں میں بسنے والا، سپنوں میں رہنے والا
حمد	Hamd	ع	تعریف، ثناء اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا
حمرا	Hamara	ع	غیرت، شرم
حمزہ	Hamza	ع	شیر۔ حضور نبی کریم ﷺ کے چچا کا اسم مبارک جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور حضور ﷺ نے آپ کو سید الشہداء کا خطاب مرحمت فرمایا۔
حمس	Hamass	ع	آواز، گوشت بھوننا، غصہ دلانا
حماس	Hamas	ع	سختی، مضبوطی، لڑائی، جنگ، فلسطین کی جنگ آزادی کے ایک مشہور رہنما کا نام
حمال	Hamal	ا،ع	زیادہ بوجھ اٹھانے والی، کرین، مزدور، قلی، پلے دار، بوجھ اٹھانے والا
حمائدہ	Hamaida	ع	صفات والا، خوبیوں والا
حمیر	Hamier	ع	سرخ رنگت والا، لال رنگ والا
حمیذ	Hamiz	ع	فہم وفراست والا، عقلمند، ذکی، تیز فہم، ذہین، باشعور، سمجھدار
حمیل	Hameel	ع	بوجھ، جو بچہ پیٹ میں ہو، پڑا ہوا بچہ جسے لوگ اٹھا کر پرورش کریں، جوتی کا تسمہ، ضامن
حمیم	Hamim	ع	دوست، رفیق، ساتھی، حبیب
حمین	Hameen		بہادر، شجاع، تومند
حماد	Hamad	ع	حمد کرنے والا، بہت زیادہ تعریف کرنے والا
حمیس	Hamees	ع	بہادر، جری، نڈر، دلیر، تندخو، شجاع
حمایت	Hamayat	ع	طرفداری، مدد، حفاظت، مشہور شاعر حمایت علی شاعر

marfat.com
Marfat.com

حمید	Hameed	ع	تیز فہم' تعریف کیا ہوا' ذہین' عقلمند' سمجھدار' مشہور ادیب اے حمید
حمدون	Hamdoon	ع	جس کی تعریف کی گئی ہو۔ حدیث اور علم فقہ کے ایک مشہور عالم جناب حمدون قصار
حمود	Hamood	ع	تعریف کیا ہوا' جس کی تعریف کی گئی ہو۔
حمیت	Hamiyat	ع	شرم' غیرت' لاج' حیا
حمدی	Hamdi	ع	تعریف کرنے والا' حمد کرنے والا' ثناء کرنے والا
حمدان	Hamdan	ع	اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے
حنین	Hunain	ع	گریہ' نوحہ' آہ وزاری' ایک مشہور عالم اور طبیب کا نام
حنان	Hanan	ع	رحمت نازل کرنے والا' بے حد رحمت والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام
حنیف	Hanif	ع	صادق' پکا' سچا' حق پر ڈٹا ہوا' پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے مشہور کھلاڑی حنیف محمد
حنبل	Hanbal	ع	سر جھکانا' آداب بجالانا' فربہ' موٹا' توانا' تنومند' پرگوشت' فقہ کے مشہور امام احمد بن حنبلؒ
حنوط	Hanuat	ا' ع	چند خوشبودار چیزوں کا مجموعہ' اکثر مردے کو غسل کے بعد لگاتے ہیں۔
حنوف	Hanoof	ع	سچا' صادق' کھرا' دین کا سچا
حنفا	Hunfa	ع	حضرت ابرہیم کے پیروکار' حنیف کی جمع
حنفی	Hanfi	ع	امام اعظم ابوحنیفہؒ کے پیروکار
حنین	Hanin	ع	مکہ مکرمہ اور طائف کے مابین ایک مقام کا نام۔ جہاں پر جنگ حنین ہوئی تھی۔
حنا	Hanna	ع	پھرنا' باز رکھنا
حنا	Hinna	ع	مہندی

marfat.com

Marfat.com

حنانہ	Hinana	ع	رونے والا
حواصل	Havasal	ا ع	ایک سفید آبی پرندہ
حوال	Hawal		دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز
حوال	Hawal	ع	تبدیلی جدت انقلاب تغیر و تبدل
حوت	Huat	ا ع	نظام شمسی کا بارھواں برج
حویذ	Haweez	ع	چالاک تیز ہوشیار سیانا
حواجبہ	Hawajib	ع	حاجب کی جمع دربان نگہبان حفاظت کرنے والے
حواری	Hawari	ع	مدد کرنے والا نصیحت کرنے والا مددگار ایک نام حواری بومدین
حیاطت	Hayatat	ع	نگہداشت نگرانی احتیاط حفاظت پاسبانی نگہبانی
حیدر	Haider	ع	شیر حضرت علیؓ کا لقب حیدر کرار
حیشم	Haisham	ع	ذی عزت مہمان
حیل	Heel	ع	طاقت قوت قدرت
حیّ	Hay	ع	جیتا ہوا زندہ رہنے والا اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی اسم مبارک
حیات	Hayat	ع	جان عمر زندگی
حیرت	Hairat	ع	تعجب حیرانی مشہور ادیب حیرت دہلوی
حین	Hain	ع	وقت زمانہ
حیرم	Hairm	ع	بلند مرتبہ بہت شریف بہت نیک
حیط	Hait	ع	چاردیواری احاطہ
حیام	Hayam	ع	بہت زیادہ تمنا بہت زیادہ خواہش بہت زیادہ آرزو
حیاط	Hyat	ع	دیواریں چاردیواری

marfat.com
Marfat.com

حنانہ	Hinana	ع	رونے والا
حواصل	Havasal	ا'ع	ایک سفید آبی پرندہ
حوال	Hawal		دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز
حوال	Hawal	ع	تبدیلی' جدت' انقلاب' تغیر و تبدل
حوت	Huat	ا'ع	نظام شمسی کا بارھواں برج
حویذ	Haweez	ع	چالاک' تیز' ہوشیار' سیانا
حواجبہ	Hawajib	ع	حاجب کی جمع' دربان' نگہبان' حفاظت کرنے والے
حواری	Hawari	ع	مدد کرنے والا' نصیحت کرنے والا' مددگار' ایک نام حواری بومدین
حیاطت	Hayatat	ع	نگہداشت' نگرانی' احتیاط' حفاظت' پاسبانی' نگہبانی
حیدر	Haider	ع	شیر' حضرت علیؓ کا لقب حیدر کرار
حیشم	Haisham	ع	ذی عزت' مہمان
حیل	Heel	ع	طاقت' قوت' قدرت
حیّ	Hay	ع	جیتا ہوا' زندہ رہنے والا' اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی اسم مبارک
حیات	Hayat	ع	جان' عمر' زندگی
حیرت	Hairat	ع	تعجب' حیرانی' مشہور ادیب حیرت دہلوی
حین	Hain	ع	وقت' زمانہ
حیرم	Hairm	ع	بلند مرتبہ' بہت شریف' بہت نیک
حیط	Hait	ع	چاردیواری' احاطہ
حیام	Hayam	ع	بہت زیادہ تمنا' بہت زیادہ خواہش' بہت زیادہ آرزو
حیاط	Hyat	ع	دیواریں' چاردیواری

marfat.com
Marfat.com

خ

خادم	Khadim	ع	خدمت کرنے والا
خاور	Khawer	ع	مشرق' سورج' آفتاب
خاطی	Khati	ع	گناہ گار' خطا کار' پاپی' مجرم
خاطر	Khatir	ع	تسلی' تشفی' مدارت' آؤ بھگت' مشہور شاعر خاطر غزنوی
خازق	Khaziq	ع	نیزہ کا پھل
خازن	Khazen	ع	محافظ' نگہبان' رکھوالا' خزانچی' دھیان رکھنے والا
خاسر	Khasir	ع	نقصان اٹھانے والا' گھاٹا کھانے والا
خال	Khal	ا' ع	تل' دور نگا کبوتر' ماموں' خال
خالد	Khalid	ع	خدمتگار
خالق	Khaliq	ع	بنانے والا' پیدا کرنے والا' تخلیق کرنے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام
خاتم	Khatim	ف	انگوٹھی' مہر
خاصا	Khassa	ا	اچھا' خوشنما' متوسط' ایک قسم کا سوتی کپڑا' امیروں کا کھانا' بادشاہوں کی سواری کا گھوڑا
خاصان	Khasan	ا	خاص لوگ' اہم' خاص کی جمع
خاصہ	Khasa	ا' ع	عادت' خصلت' صفت
خاصع	Khasay	ع	منکسر المزاج' عاجز' انکسار والا
خاضع	Khazay	ع	عاجز
خاشع	Khashay	ع	عاجزی کرنے والا' انکساری کرنے والا
خاطب	Khatib	ع	مقرر' خطیب' واعظ' تقریر کرنے والا' باہم گفتگو کرنے والا' آپس میں باتیں کرنے والا

marfat.com
Marfat.com

خاطف	Khatif	ع	چھین لینے والا
خاطم	Khatim	ع	پیشوا' امیر' راہنما' لیڈر' رئیس' راہبر
خاشف	Khashif	ع	تیز' شمشیر' تیز تلوار
خالف	Khalif	ع	خلیفہ' قائم مقام' جانشین
خاکباز	Khakbaz	اُف	کھلنڈرا' مٹی میں کھیلنے والا' دھول اڑانے والا
خاکی	Khaki	ف	خاک سے منسوب' مٹی جیسا رنگ مجازاً انسان
خاکی نہاد	Khakinehad	ف	نرم دل' رحمدل' بہت خلیق
خاقان	Khqan	ف	تاج وتخت کا مالک' بادشاہ' ایک نام خاقان عباسی
خام	Kham	ف	ناپختہ' سبز' کمزور' ناتجربہ کار' فضول' خالص
خام ریش	Khamrash	ف	کم عقل' چھچھورا' مسخرا
خام کار	Khamcar	ا	نادان' کم عقل' ناآزمودہ
خامس	Khamiss		پانچواں
خامنہ	Khamna	ہ	مہر لگانا' بند کرنا
خامہ	Khamah	اُف	قلم' کلک
خامہ فرسا	Khamafarsa	ف	لکھنے والا' کاتب' رائٹ
خازر	Khaner	ع	رفیق' حبیب' دوست' سچا ساتھی
خانی	Khani	ت	پوشیدہ' چھپا ہوا' خفیہ
خاتام	Khatam	ف	مہر' انگوٹھی
خانخاناں	Khan-E-Khanan	ف	سرداروں کا سردار' امیروں کا امیر' ایک نام عبدالرحیم خانخاناں
خاطب	Khatib	ع	چھین لینے والا' قبضہ میں کرنے والا
خارا	Khara	اُف	سخت پتھر' نیلا پتھر
خاراترش	Kharatursh	اُف	سنگ تراش' پتھر کاٹنے والا

marfat.com
Marfat.com

خاکش	Khaksh	اُف	لکڑ ہارا' مزدور' محنت کش
خارق	Khariq	ع	کرامت' عقل میں نہ آنے والا' پھاڑنے والا
خاژ	Khazher	ت	گروہ' جماعت
خان	Khan	ف	سردار' امیر' رئیس' سربراہ
خان صاحب	Khan sahib	اُف	عہد برطانیہ کا خان بہادر سے چھوٹا خطاب' عزت کا کلمہ
خان بہادر	Khanbahadur	اُف	برطانوی حکومت کی طرف مسلمانوں کو یہ خطاب دیا جاتا تھا
خان زادہ	Khan zada	اُف	شہزادہ' خان کا بیٹا
خانہ بدوش	Khana Badosh	ف	آوارہ' بنجارہ' بے ٹھکانہ
خبیب	Khabib	ع	مشہور صحابی حضرت خبیب بن عدیؓ
خبیر	Khabir	ع	دانا' واقف' خبردار' جاننے والا' خبر رکھنے والا
خبرت	Khabrat	ع	سمجھداری' عقل' دانائی' بزرگی
خباز	Khabaz	ع	روٹی پکانے والا
خبی	Khabay	ع	خفیہ' چھپا ہوا' پنہاں' پوشیدہ
ختن	Khitan	اُف	ترکستان کا ایک علاقہ جہاں کا مشک مشہور ہے۔
ختان	Khitan	اُع	ختنہ کرنے والا
ختام	Khatam	ع	مہریں' انگوٹھیاں' ختم شدہ' اختتام
خجالا	Khejala	ا	بکواسی' زیادہ بولنے والا' بے ہودہ
خجستہ	Khajastah	ف	مبارک' مسعود' ہمایوں' فرخندہ' سعادت
خجستہ پے	Khajastah pay	ف	مبارک قدم والا

marfat.com
Marfat.com

خجیر	Khajir	ع	خوبصورت' حسین' شکیل' جمیل' پسندیدہ
خجستگی	Khajastgi	ع	مبارک' مسعود' ہمایوں
خداف	Khidaf	ع	جلدی کرنا
خدیم	Khadim	ع	خادم' خدمت کرنے والا' غلام
خدیش	Khadish	ف	خاوند' شوہر' گھر والا
خدین	Khadin	ع	دوست' رفیق' حبیب' ساتھی
خدیو	Khadyou	ا' ع	بادشاہ' 19 ویں صدی میں مصر کے بادشاہوں کا لقب
خذف	Khidf	ع	جلدی' فوری' سرعت
خدیر	Khadir	ع	نیکی' خوبصورتی' اچھائی' بھلائی
خد	Khadd	ا' ع	گال' رخسار' چہرہ
خدا	Khuda	ا' ف	مالک' آقا' حاکم' اللہ تعالیٰ
خدا بخش	Khuda Baksh	ع	خدا کا بخشا ہوا' اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا
خدا پسند	Khudapasand	ع' ا	خدا کا پسندیدہ' نیک کام یا نیک آدمی
خدا آفرید	Khuda Afreed	ف	قدرتی' پیدائشی
خدا رسیدہ	Khudaraseedah	ا' ف	اللہ والا' اللہ کا پیارا' اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہوا' نیک پرہیزگار
خدام	Khudam	ع	خدمت کرنے والا' خادم کی جمع
خداساز	Khudasaz	ف	خدا بنایا ہوا
خداوند	Khudawand	ا' ف	مالک' آقا' مراد اللہ تعالیٰ
خداوند زادہ	Khudawand zadah	ا' ف	صاحبزادہ' رئیس کا بیٹا' مالک کا فرزند

marfat.com
Marfat.com

خداوند مجازی	Khudawand -i- mijazi	ف	شوہر' حاکم' بادشاہ
خدنگ	Khading	ف	چھوٹا تیر' ایک مضبوط درخت کا نام
خرام	Kharam	ف	نزاکت کی چال
خرت	Khurt	ع	ہوشیاری' سمجھداری
خرس	Khurs	ف	چاند کا چہرہ
خرسند	Khursand	ف	پُر مسرت
خرم	Khuram	ف	خوش' مسرور' شادمان' پُر مسرت' تازہ
خرما	Khurma	ا ع	کھجور' چھوارا' کھجور نما ایک مٹھائی کا نام
خرمست	Khirmast	ف	نشہ شباب میں مست' شہوت پرست' بے وقوف خزاں' ساونی وہ فصل جس میں جوار' مکئی وغیرہ پیدا ہوتی ہے
خرمن	Khirmen	ف	چاند کا ہالہ' کھلیان
خروج	Kharooj	ا ع	برآمد' شورش' بغاوت' فتنہ
خروس	Kharooss	ا ف	مرغا
خروشاں	Kharoshan	ا ف	شور مچانے والا' روتا ہوا
خرمند	Khirmend	ف	خوش' مسرور' راضی' شادمان' پُر مسرت
خِرت	Khirt	ع	سمجھداری' عقلمندی' ہوشیاری' دانائی
خرد	Khurd	ع	عقلمندی
خردمند	Khirdmend	ف	عقلمند' سیانا' دانشمند' ہوشیار' چالاک
خرمی	Khurmi	ف	شادمانی' فرحت' خوشی
خِرد	Khird	ف	سمجھ' عقل' دانائی' ہوشیاری' فراست
خرف	Khiraf	ع	بوڑھا کھوسٹ' بوڑھاپے کی وجہ سے بدحواس شخص' مہمل' بے ہودہ
خرق	Kharique	ع	پھاڑنا' جھوٹ بولنا' جمع خوارق

marfat.com
Marfat.com

خرقہ	Khirqah	ا ع	پیوند لگا ہوا کپڑا، گدڑی، درویشوں کا لباس
خرقہ پوش	Kharqeposh	ف ع	صوفی، درویش، گدڑی اوڑھنے والا
خریف	Kharif	ع	خزاں کا موسم
خزینہ	Khazina	ف	مخزن، خزانہ
خزادہ	Khazadah	ا ف	خواجہ زادہ کا مخفف، صاحبزادہ سردار
خزائن	Khizaen	ا ع	خزانہ کی جمع
خسیس	Khasees	ع	کمینہ، بخیل، کنجوس
خسروی	Khusravi	ا ف	بادشاہی، خسرو سے منسوب
خسرو	Khusru	ف	حسن و خوبصورت، خوبرو، مشہور شاعر اور صوفی حضرت خواجہ ابوالحسن امیر خسروؒ
خسرو انجم	KhusroAnjum	ف	ستاروں کا بادشاہ، کنایۃً سورج
خشت پز	Khishatper	ف	اینٹیں پکانے والا
خشام	Khasham	ع	اونچی ناک والا، شیر
خشان	Khashan	ف	مبارک
خشنام	Khushnam	ف	بھلے نام والا، اچھے نام والا
خشم	Khashm	ف	جلالت، غصہ، ناراضگی، خفگی
خشوع	Khashoo	ا ع	سختی، تلخی، دشمنی، نفرت، کراہت، غصہ
خصم	Khasm	ا ع	دشمن، مالک، آقا، خاوند، شوہر
خصیم	Khaseem	ف ع	جھگڑالو، لڑاکا، دشمن
خصیصہ	Khasisah	ع	خصلت، عادات
خصار	Khisar	ع	نئی سبزی
خصال	Khasal	ع	عادات، خصلت کی جمع
خصائص	Khasais		عادات، خاصیت

marfat.com
Marfat.com

خضتان	Khaztan	ا ع	ایک قسم کا کرتا جوزرہ کے نیچے پہنتے ہیں
خضر	Khizr	ع	راہبر' راستہ بنانے والا' راہنما' مشہور پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام
خضری	Khizry	ف	خضر سے منسوب' لمبی اور طویل عمر
خفیف	Khafeef	ع	اوچھا' ذلیل' کم ظرف' نادم' شرمندہ
خفیفہ	Khafifa	ع	چھوٹی
خضر	Khafir	ع	ہرا بھرا' تروتازہ' سبز' سرسبز
خضیب	Khazib	ع	رنگدار' رنگین
خضیر	Khafeer	ع	سرسبز
خضوع	Khazoo	ع	انکساری' عاجزی
خضرت	Khizrat	ع	شادابی' ہریالی' تازگی' سرسبزی
خضار	Khizar	ع	نئی سبزی
خطیر	Khatir	ع	عظیم' بہت بڑا' شریف' بلند مرتبہ' بلند درجہ
خطاب	Khatab	ع	گفتگو کرنا' تقریر' حضرت عمر فاروقؓ کے والد کا نام
خطت	Khatat	ع	پہاڑ کی چوٹی
خطیب	Khatib	ع	لوگوں کو مخاطب کرنے والا' تقریر کرنے والا' خطبہ پڑھنے والا' وعظ و نصیحت کرنے والا' مقرر
خطمت	Khitmat	ع	پہاڑ کی چوٹی
خفتہ	Khaftah	ف	سویا ہوا' خوابیدہ
خفتان	Khiftan	ف	زرہ' جنگی لباس' لڑائی کا لباس
خلف	Khalf	ع	نیک' بیٹا' پسر' جانشین
خلفاء	Khulfa	ا ع	خلیفہ کی جمع' امیر المومنین' مسلمانوں کے بادشاہ
خلجان	Khuljan	ا ع	تردد' فکر' چبھن

marfat.com

Marfat.com

خلیفہ	Khalifa	ع	جانشین' ولی عہد
خلود	Khalud	ف	ہمیشہ' تا ابد' دائمی
خلیف	Khalif	ع	خلیفہ' جانشین
خلیفۃ اللہ	Khalifa-Tullah	ا ع	خدا کا نائب' حضرت آدم علیہ السلام کا لقب
خلیق	Khaleeq	ع	اچھے اخلاق والا' خلق والا' ملنسار
خلیل	Khalil	ع	رفیق' سچا دوست' حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ
خلاق	Khalaq	ع	حصہ' نصیب
خلاق	Khalaq	ع	تخلیق کرنے والا' پیدا کرنے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام
خلت	Khilt	ع	محبت' پیار' دوستی' رفاقت
خلعت	Khilat	ع	لباس' پوشاک' لباس فاخرہ
خلف الرشید	Khalf-Ul-Rashid	ع	سچا جانشین' فرمانبردار بیٹا' سعادت مند بیٹا
خلق	Khulq	ع	اخلاق' عادات' اخلاق کی جمع' مروت
خلوت	Khalwat	ع	تنہائی' علیحدگی
خلیط	Khalit	ع	شریک' ساتھی' رفیق
خلد	Khuld	ع	بہشت' جنت' ہمیشگی' دائمی' ابدی
خلاص	Khalas	ع	نجات' آزادی' رہائی
خمرا	Khamra	ا ف	چٹائی بنانے والا' مسلمان کمہار' ایک چھوٹا سا پرندہ
خمول	Khamol	ا ع	گمنامی
خمیل	Khamil	ع	کالی گھٹا' گہرا سیاہ بادل' کالا بادل
خمار	Khimar	ع	چادر' اوڑھنی
خمیس	Khamis	ع	جمعرات کا دن
خمسون	Khamsun	ع	سچا

marfat.com

Marfat.com

خمارد	Khumard	ع	سرشاری
خنان	Khunan	ع	آرام، سکھ، چین، آسودگی
خندہ	Khanda	ع	شوخ وشنگ
خندہ	Khinda	ع	ہنسی
خندہ گل	Khanda-i-gull	اُف	پھول کا کھلنا
خندہ زن	Khandahzan	ف	ہنسنے والا
خندہ مینا	Khandahmina	اُف	وہ آواز جو شیشے کے گلاس سے شراب انڈیلتے وقت پیدا ہوتی ہے
خنیا	Khanya	اُف	گانا، نغمہ، راگ؛ دمنی میراثن
خنداں	Khandan	ع	ہنسنے والا، مزاحیہ
خنسان	Khinsan	ع	مبارک
خنشا	Khinsha	اُف	مبارک
خوشاب	Khushab	ف	تروتازہ، شاداب، سرسبز، تازہ
خور	Khor	اُف	خورشید کا مخفف، سورج، مشرق، گرگٹ
خورشید	Khurshid	ف	آفتاب، روشنی، نور، سورج، شمس
خورشید لقا	Khursheedlaqa	ف	حسین وجمیل معشوق
خویش	Khawaish	ف	قریب کا رشتے کا، اپنا، خود، آپ، داماد
خویلد	Khuwaild	ع	پہاڑ، چٹان، پتھر، ام المومنین حضرت خدیجہؓ کے والد کا نام
خوارج	Khawaraj	اُع	حضرت علی علیہ السلام کے مخالفین خارجی کی جمع
خوارق	Khawarique	اُع	خلاف عادت باتیں، معجزے، کراتیں، خارج کی جمع
خواجہ	Khwaja	ف	امیر، سردار، رئیس، آقا، حاکم
خوباں	Khuban	ف	ذی روح، جاندار
خورشید	Khurshid	ف	ہوشیار، سیانا، صبح سویرے اٹھنے والا
سوار	Sawar		

marfat.com

Marfat.com

خوش اقبال	Khush Iqbal	ف	بختاور' خوش نصیب' اقبال مند
خوش تر	Khushtar	ف	بہت خوش
خوش الحان	Khush-ul-han	ف	سریلا' اچھی آواز والا' خوش گلو
خوشحال	Khushal	ف	دولت مند' آسودہ' مالدار' مطمئن' مشہور صوفی بزرگ خوشحال خان خٹک
خوشنود	Khushnood	ف	خوش' راضی' رضامند
خوید	Khuwaid	ف	گیہوں اور جو کا سرسبز پودا' سرسبز پودے
خورسند	Khursand	ف	راضی' خوش' شاد' مسرور' پر مسرت
خوشگوار	Khushgawar	ف	مزے دار
خوش گل	Khush gull	ف	حسین و جمیل' خوبصورت' شکیل
خوش بخت	Khush Bakht	ف	اچھے مقدر والا' اچھی قسمت والا
خوشخرام	Khush Khram	ف	آہستگی سے چلنے والا' محبوب
خوانین	Khwanin	ف	بلند مرتبہ' رتبے والا
خیبر	Khaiber	ا'ع	حجاز کے ایک قلعہ کا نام جسے حضرت علیؓ نے فتح کیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کو ملانے والا پہاڑی راستہ
خیبر شکن	Khaibershikan	ا'ع'ف	حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب قلعہ خیبر کے فاتح ہونے کی وجہ سے
خیط الابیض	Kheet-ul-Abyaz	ع	سفید دھاگہ' صبح کا اجالا

marfat.com
Marfat.com

خیط الابیض	Kheet-ul-Abyaz	ع	سفید دھاگہ، صبح کا اجالا
خیل	Khail	ع	جماعت، گروہ
خیال	Khayal	ع	تصور، دھیان، توجہ
خیام	Khayam	ع	خیمہ کی جمع، خیمے یا شامیانے
خیام	Khayam	ف	خیمہ سینے والا، خیمہ بنانے والا، فارسی کے مشہور رباعی گو شاعر عمر خیام
خیرالانام	Khair-ul-Inam	ع	مخلوقات میں سب سے بہتر، رسول عربیؐ کا لقب
خیرالبشر	Khairulbashr	ع	انسانوں میں سب سے بہتر، ختم الانبیاء کا لقب
خیرالورا	Khar-ul-wara	ع	نقصان اٹھانے والا، کھانا کھانے والا
خیرات	Khairat	ع	اچھے کام، نیکی کے کام، بھلائیاں، نیکیاں، ایک نام خیرات محمد احمد رسا
خیراتی	Khairati	ف	خیرات سے منسوب، مفت کا
خیر	Khair	ع	نیکی، اچھائی، بھلائی
خیرو	Khairoo	اُف	خطی
خیراندیش	Khairandaish	ع	خیرخواہ، بھلائی چاہنے والا
خیابان	Khayban	ف	چمن، کیاری، پھلواڑی
خیار	Khayar	ع	نیک لوگ، بھلے لوگ، اختیار
خیاط	Khayat	ع	کپڑے سینے والا
خیزاں	Khaizan	ع	اگا ہوا، نکلتا ہوا، کھڑا ہوا
خیف	Khaif	ع	ایک مسجد کا نام

marfat.com
Marfat.com

د

داجن	Dajan	ع	ملی ہوئی بکری، پانی کھینچنے والا
دارج	Darej	ع	ہر طرف پھیلنے والا، عام
دانیال	Danyal	ف	عادل، منصف، ہوشیار، ایک پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام
دارا	Dara	ف	دولت مند، امیر، رئیس، مالدار
داراشکوہ	Darashikoh	ف	رعب ودبدبہ والا امیر، شان وشوکت والا رئیس مشہور کتاب "سکینۃ الاولیاء" کے مصنف اور مغل بادشاہ شاہجہاں کا بیٹا داراشکوہ قادری جو حضرت میاں میر کا خوشہ چیں اور ملا شاہ قادری کا مرید ومعتقد تھا
داربن	Darban	ف	دونوں جہان، دنیا اور آخرت
دارکش	Dar kash	ف	سولی پر چڑھانے والا، پھانسی دینے والا، جلاد
داروغہ	Darogha	ف	محافظ، نگران، سردار، تھانیدار
داعِد	Daid	ع	طلب کیا ہوا، مانگا ہوا، دعا گو
دافق	Dafiq	ع	کودنے والا، اچھلنے والا پانی
دالص	Daliss	ع	ہموار زمین بہت پھسلنے والا
دائب	Daeb	ع	کسی کام میں مشقت دیکھنے والا
دائبان	Daeban	ع	رات دن
دائس	Dais	ع	مہربان، کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا
دائص	Daes	ع	چور
دائق	Daiq	ع	بے وقوف (آدمی)، رائیگاں، بے قیمت
دائن	Dain	ع	قرض دینے والا، قرض خواہ

marfat.com
Marfat.com

دامن	Daman	ف	کنارا' سرا' آنچل' پنجابی کے مشہور شاعر استاد دامن
دارزین	Darzeen	ف	دین ودنیا
داری	Daree	ع	خوشبو بیچنے والا' مرد جو گھر میں پڑا رہے خداوند نعمت
دارین	Darain	ف	دنیا و آخرت' دونوں جہاں' دین ودنیا
داؤد	Dawood	ع	عزیز' محبوب الٰہی' مشہور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام جن پر اللہ تعالیٰ کی کتاب زبور نازل ہوئی یہ پیغمبر اپنے ہاتھوں سے زرہ بناتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ عطا ہوا تھا ان کے ہاتھوں میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔
داؤدی	Dawoody	ف	گل داؤدی' ایک زردی مائل سفید پھول' حضرت داؤد سے منسوب' ایک قسم کی آتش بازی
دائم	Daim	ع	ابدی' دائمی' ہمیشہ' ٹھہرا ہوا پانی' پنجابی زبان کے ایک مشہور شاعر کا تخلص
داراب	Darab	ف	شان وشوکت والا' رعب ودبدبہ والا' جاہ وجلال والا' کروفر
دائل	Dial	ع	اچھی خوبیوں والا' اچھی عادت والا' سکون واطمینان والا' اچھی خصلت والا
داعب	Daib	ع	خوش مذاق آدمی' مسخرہ
داع	Daa	ع	بلانے والا' رسول کریم ﷺ کا لقب داع الی اللہ
داعی	Daiee	ع	بلانے والا' دعوت دینے والا
داعی اللہ	Daee-Allah	ع	موذن' اذان دینے والا
داغ	Dagh	ف	نشان' دھبہ' قہر اردو کے مشہور شاعر داغ دہلوی
دانا	dana	ف	دانشمند' عقلمند' عاقل' باشعور' سمجھدار
داھل	Dahil	ع	مرد سرگشتہ' حیران پریشان
داھی	Dahi	ع	شیر زندہ' عقلمند اور تیز فہم

marfat.com

Marfat.com

داہی	Dahi	ت	فیاض' سخی' دریادل' سخاوت کرنے والا
دانست	Danist	ا	دانش' سمجھ' عقل
دانش	Danish	ف	دانائی' شعور' علم' عقل' سوجھ بوجھ' مشہور شاعر اور ادیب احسان دانش اور نواز دانش
دامان	Daman	ف	کنارہ' آنچل' سرا' دامن
دامل	Dâmil	ع	نرمی کا سلوک کرنا' عزت کرنا' خاطر تواضع کرنا' اچھا برتاؤ کرنا
داتا	Data	ع	فیاض' سخی' دینے والا' عطا کرنے والا' مشہور ولی اللہ حضرت سید علی ہجویریؒ المعروف حضرت داتا گنج بخشؒ
داتار	Datar	ا'س	داتا' سخی' فیاض
داد	Dad	ف	انعام' بخشش' انصاف' عدل
دادبخش	Dad Baksh	اُر	منصف' عادل' انصاف کرنے والا
دادرس	Dad Ras	ف	فریاد سننے والا' منصف' جج' قاضی
دادفرما	Dad Farma	ف	خدزا' منصف' حاکم
دادکستر	Dad kastar	ف	منصف' خداتعالیٰ
دارا	Dara	ف	رکھنے والا' شہنشاہ اعظم' ایران کا مشہور شہنشاہ جو سکندر اعظم کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا تھا
دارغ	Dargh	ف	زرہ پہننے والا' زرہ پوش
دانشمند	Danishmand	ف	ہوشیار' سمجھدار' عقلمند' فہم و فراست والا
دانشور	Danishwer	ف	سمجھدار' عقلمند' باشعور
داور	Dawer	ف	افسر' حاکم' منصف' انصاف کرنے والا
دابر	Daber	ف	پیچھے چلنے والا' عقب میں آنے والا

marfat.com

Marfat.com

دارم	Darim	ع	وہ آدمی جس کے اعضاء کی ہڈیاں گوشت سے چھپ گئی ہوں
داریوس	Daryus	ف	شیر
داموق	Damuwaq	ع	بہت گرم
دامر	Damer	ت	لوہا' فولاد' آہن
دبیب	Dabib	ف	گزرنے کی جگہ' راستہ' دروازہ' راہ
دبیر	Dabir	ع	انصاف کرنے والا' منصف' عادل' جج
دبیرالملک	Dabair-ul-mak	ف	سیکرٹری آف سٹیٹ' شاہی محرر' عہد مغلیہ کا ایک خطاب
دبیرفلک	Dubair falak	ف	سیارہ' عطارد
دبیل	Dabeel	اُہ	ماتحت' کمزور' مرتبہ میں کم
دبیز	Dabaiz	ف	موٹا' گف' مضبوط
دبور	Dabur	ع	بادصبا' بادنسیم
دثور	Dasur	ع	متوالا' گمنام
دثار	Dasar	ع	خصلت' معمول' عادت
دجال	Dajjal	ع	جھوٹا' کاذب' سونا' زر روایت ہے کہ ایک جھوٹا شخص قیامت کے قریب پیدا ہوگا اور مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح اسے قتل کریں گے
دخبش	Dakhbash	ع	بہت بڑے پیٹ والا آدمی
دختر	Dukhtar	ف	بیٹی' صاحبزادی
دخان	Dukhan	ع	دھواں
دخرص	Dukhras	ع	مہارت رکھنے والا' جاننے والا' تجربہ کار' ماہر
دخیل	Dakheel	ع	جو کسی کام میں دخل دے' ولی دوست
دراک	Derrak	ع	ذہین' ہوشیار' بات کی تہہ تک جانے والا

Marfat.com

درافشاں	Dar afshan	ف	موتی بکھیرنے والا' خوش بیاں
دراں	Daran	ف	پھاڑنے والا
درریز	Darrase	ف	موتی بکھیرنے والا' خوش بیان
درع	dirha	ع	زرہ
درغالہ	Darghala	ف	پہاڑی راستہ
درنجف	Darnajaf	ف	ایک قسم کا سفید پتھر' ایسا پتھر جو نجیب شریف ہے اصلی نسلی سید نیز وہ موتی جو سیپ کا پیٹ چاک کر کے نکالتے ہیں۔
درناسفتہ	Danasaftah	ف	بغیر سوراخ کے موتی' کنواری عورت' دوشیزہ
درنایاب	Darnayab	ف	بے مثل موتی' فرزند ارجمند
درقا	Darqa	ف	بادل
درشنا	Darshna	ف	نظر روشن
درشہوار	Darshehwar	ف	بڑا موتی' شہنشاہوں کے قابل موتی
درود	Darood	ف	تعریف' سلام' تحسین و آفرین
دروزی	Darozi	ع	ایک فرقہ اسلامی جو شام کے کوہستانی علاقہ میں آباد ہے
درویش	Darwaish	ع	ولی اللہ' فقیر' دروازے سے چمٹنے والا' اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ
درخش	Darkhish	ع	چمک' روشنی' نور' بجلی' برق
درخور	Darkhor	ف	لائق' قابل' سزاوار' رسائی' پہنچ
درخشندہ	Darkhshinda	ف	تاباں' روشن' چمکتا ہوا
دامان	Daman	ف	حل' علاج' چارہ گر' دوا
درا	Durra	ا (قدیم)	آقا' مالک' سردار
درانی	Drafi	ف	قبیلے کا نام
دراق	Durraq	ع	ایک میوہ دار درخت' شراب' تریاق
درانی	Durani	ف	پٹھانوں کے ایک قبیلے کا نام

marfat.com
Marfat.com

دراز	Draz	ف	طویل' لمبا' اونچا
درازی	Darazy	ف	طوالت' لمبائی
دریتیم	Dur-e-yateem	ا' ع' ف	وہ موتی جو سیپ کا پیٹ چاک کر کے نکالتے ہیں
دریس	Daress	ا	تیار' با قاعدہ' آراستہ' سطح' سیدھا' ہوشیار
دریکتا	Dareekta	ف	اکیلا موتی
دریر	Darir	ع	روشن چراغ' جلتا ہوا دیا' منور چراغ' جلتی ہوئی شمع
دراب	Durab	ف	بڑا دروازہ' ایک نام' جنس دراب پنیل
دُر	Dur	ف	موتی' پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروڈیوسر درمحمد کا سی
دَر	Dar	ع	اچھا کام' نیک کام' خوبی
دُراج	Duraj	ع	تیتر
دَراک	Drak	ع	ذہین' عقلمند' جلدی سمجھنے والا' جلدی جاننے والا
درثمین	Dur-e-samin	ف	گراں قدر موتی
دردنہ	Durdna	ا' ف	سینہ' دل
دردانہ	Durdana	ف	موتی کا دانہ
دُرافشاں	Durfishan	ف	خوش بیان' موتی بکھیرنے والا' موتی چھڑکنے والا
دَراست	Drasat	ع	سبق لینا' درس لینا' دانشمندی' عقلمندی
دراوڑ	Darawar	ا' س	ہندوستان کے قدیم باشندے جو جنوب میں آباد ہیں
درایت	Durayat	ع	دانائی' عقل' فہم و فراست' دانش
درب	Darab	ع	کسی چیز کا عادی ہونا' حریص ہونا' مانوس ہونا
درباب	Darbab	ف	بارے میں' معاملہ' بابت' نسبت' تعلق
دربار	Darbar	ف	موتی لٹانے والا' نہایت سخی
درک	Dark	ع	سمجھ' دانش' عقل' تمیز' فراست' فہم' واقفیت
درخشاں	Darkhishan	ف	چمکدار' روشن' منور' تاباں

marfat.com

Marfat.com

ڈرفش	Durfash	ف	پرچم، علم، جھنڈا، نشان
درمن	Darman	ف	درمان، علاج
درمان	Darman	ف	چارہ گر، علاج، دوا
درمک	Darmak	ف	سفید میدہ، نرم مٹی
درمکنون	Durmaknun	ع	بیش قیمت موتی
دریاب	Daryab	ف	سمندر
دریابار	Daryabar	ف	سخی، فیاض، بہت برسانے والا
دریاس	Daryaas	ف	شیر
دژبان	Duzban	ف	قلعے والا
دسترس	Dastras	ف	برساتی، پہنچ، رسائی
دستق	Dustaq	ع	تیز رفتار آدمی، ایک شہر کا نام
دستگیر	Dastgir	ف	مددگار، حمایتی، طرفدار، دوست، معاون
دستان	Dastan	ف	آواز، افسانہ، کہانی، رستم کے باپ زال کا نام
دستیار	Dastiyar	ف	طرفدار، حمایتی، معاون، مددگار
دشا	Disha	(قدیم)	اچھے دن، مبارک دن
دشن	Dushn	ع	عنایت کرنا، دینا، عطا کرنا
دعمان	Dam-an	ف	کالی رنگت والا، سیاہ رنگت والا
دعامہ	Duamah	ع	ستون
دعاب	Do-ab	ع	مسخرا
دعان	Duaan	ع	آواز دینا، صدا دینا، پکارنا، بلانا
دعان	Deaan	ت	باز، شکرا
دخس	Dukhs	ف	نرمی، ملائمت، چمک
دفار	Dafar		نیا

marfat.com

Marfat.com

دفائن	Dafain	ا ع	دفینہ کی جمع خزانے
دفران	Dafran	ع	ایک سدابہار درخت جس کے پھل سے شراب بناتے ہیں
دفس	Dafas	ف	چمک اور نرمی
دفوع	Dafwa	ع	بہت دھکیلنے والا
دف نواز	Dafnawaz	ف	دف بجانے والا
دفین	Dafeen	ع	پوشیدہ دبا ہوا کنواں
دقاق	Diqaq	ع	آٹا فروخت کرنے والا کوٹنے والا
دقیانوس	Daqyanuss	ع	وہ بادشاہ جس سے بچنے سے نکل کر اصحاب کہیں چلے گئے تھے
دقیوس	Daqyus	ع	وہ بادشاہ جس نے اصحاب کہف کے غار میں مسجد بنائی تھی
دقیق	Daqeeque	ا ع	باریک نازک دل مشکل کٹھن
دقیقہ	Daqeeqa	ا ع	کوئی بہت چھوٹی چیز معمولی بات
دکائی	Dakai	ع	شیطان کا نام
دکتور	Daktoor	ع	ڈاکٹر ماہر فن
دلشاد	Dilshad	ف	خوش خرم پرمسرت راضی شاداں خوش مسرور
دل شگفتہ	Dilshugafta	ف	خوش دل بشاش
دلم	Dulam	ع	ہاتھی
دلنواز	Dilnawaz	ف	دل خوش کرنے والا دل کو راحت پہنچانے والا
دلارا	Dulara	ا	پیاری لاڈلی عزیزہ
دلاور	Dalawar	ف	نڈر جری دلیر شجاع بہادر
دلباز	Dilbaz	ف	نڈر چالاک ہوشیار دلیر تیز
دل نہاد	Dilnehad	ف	جس پر دل آجائے معشوق
دلوح	Daluh	ع	بہت پانی والا بادل
دلہاس	Dilhass	ف	خیال دار شیہ

marfat.com
Marfat.com

دلہام	Dilham	ع	دور بین آدمی
دلیط	Daleet	ع	بادشاہوں اور امیروں کے دربار سے نکالا ہوا آدمی
دلیل	Daleel	ع	راہ نما
دل آرا	Dilara	ف	محبوب' دل کو سجانے والا
دل افگار	Dilfigar	ف	زخمی دل والا
دلالت	Dalalat	ع	رہنمائی' ہدایت' پیشوائی' نشان' ثبوت
دلآویز	Dilawaz	ف	مرغوب' دل پسند' پسندیدہ
دلبہار	Dilbahar	ف	خوش نما
دلپذیر	Dilpazir	ف	پسندیدہ' دل کو پسند
دلبر	Dilbar	ف	جانی' محبوب' دل کو بھانے والا' معشوق
دلبند	Dilbend	ف	پیارا' بیٹا' پسر' فرزند
دلدادہ	Dildada	ف	عاشق' دیوانہ' فریفتہ
دلدار	Dildar	ف	دلگیری کرنے والا' تسلی دینے والا' غم خوار' پسندیدہ' ایک نام دلدار پرویز بھٹی
دلدوز	Dildose	ف	دل پسند' پسندیدہ' دل کو بھانے والا
دل کش	Dilkash	ف	خوبصورت
دل کشا	Dilkasha	ف	دلبر' دلدار
دلربا	Dilruba	ف	دل کے جاننے والا' پیارا
دلستان	Diltisan	ف	دلربا' پیارا' پسندیدہ' محبوب
دلیر	Dilair	ف	نڈر' بہادر' جری' بے خوف
دلاص	Dilas	ف	نرم' ملائم' روشن' منور
دماثت	Damast	ع	نرمی' ملائمت' ہمواری
دماثر	Damasar	ف	نرم زمین' بہت گوشت والا اونٹ

marfat.com
Marfat.com

دماج	Dumaj	ع	مضبوط راز، مکمل مستقبل
دمس	Dams	ف	سفید ریشم
دملوق	Damluq	ع	گول اور چمکدار پتھر
دمون	Damoon	ع	بدصورت آدمی
دمیشا	Damisha	ا (قدیم)	مالدار امیر
دمیم	Dameem	ع	حقیر بدصورت
دمیدہ	Damida	ف	کھلنے والا، کھلا ہوا
دمشق البدین	Damushaq-ul-badeen	ع	تیز دست آدمی
دمعان	Damaan	ع	لبریز پیالہ
دمیر	Damir	ت	لوہا، فولاد، آہن
دماس	Dam-as	ع	خفیہ، پنہاں، پوشیدہ کرنے والی شے
دماق	Damaque		طاقتور، تیز چلنے والا، خونخوار، ڈراونا
دمان	Daman	ف	تیز چلنے والا، طاقتور، زورآور
دنس	Daniss	ع	حقیر اور بے عزت آدمی، بداطوار میلا کچیلا
دنفس	Dunfas	ع	بے وقوف، بے عقل
دنی	Danni	ع	گرمی حاصل کرنے والا، گرم کپڑا پہننے والا
دوام	Dwam	ع	ابدی، دائمی، ہمیشگی، معاونت، مداومت
دودمان	Dudman	ف	خاندان، قبیلہ، کنبہ، خوشبو، نسل، مہک
دودہ	Doda	اف	بڑا قبیلہ، خاندان، بڑا لڑکا، گول جھونپڑی، کاجل
دودمان	Dodman	اف	بڑا قبیلہ، خاندان، کنبہ، نسل، قوم، خوشبو
دوراؤ	Dorao	ا (قدیم)	ابھارنے والا
دوزان	Dozan	غ	تال، سر

marfat.com
Marfat.com

نام			
دوس	Doos	ف	کھیت' کھلیان' یمن کے ایک قبیلہ کا نام
دوسر	Dosar	ع	قوی ہیکل' مضبوط اونٹ' پرانی چیز
دوست	Dost	ف	ہمدرد' خیر خواہ' ساتھی' رفیق' ایک نام دوست محمد
دوستدار	Dostdar	ف	ہمدرد' دوست' رفیق' ہمراز' شفیق' ساتھی
دوشاب	Doshab	ف	انگور یا چھوہارے کا رس
دوق	Duwaq	ع	ڈیوک' نواب
دولت	Daulat	ع	مال' مقدر' نصیب' اقبال' قسمت' ایک نام دولت خان
دوندار	Dondar	ت	مذہبی' دیندار
دوار	Dawar	ع	پھرنے والا' مکہ معظمہ' زمانہ ایک بت کا نام
دواری	Dawaree	ع	زمانہ پھرنے والا
دوار الشمس	Dawar-ul-Shammas	ف	سورج مکھی
دواس	Dwas	ع	دلیر آدمی' بہادر آدمی' جری شخص' نڈر آدمی شیر
دوام	Dawam		ہمیشگی' مداومت
دہیلا	Duheela	ا (قدیم)	سختی جھیلنے والا' نیند بھرا
دہیم	Dahim	ف	شاہی تاج' شہنشاہ ایران کا تاج
دھان	Dhan	ع	تیل کی مالش کرنے والا
دھرم اوتار	Dharamottar	اُ ہ	مقدس' پاک' پوتر
دھرم چاری	Dharamchari	اُ ہ	نیک' صالح' پارسا
دھرم گورو	Dharamgoro	اُ ہ	مذہبی استاد' دینی عالم
دھرن پار	Dharanpar	ا (قدیم)	دھرنے والا
دھمپال	Dhampal	ا (قدیم)	بہت موٹا

marfat.com
Marfat.com

دھنپال	Dhanpal	ا(قدیم)	شہوت پرست، عورتوں کا شیدائی
دھوری	Dhoori	ع	سخت و مضبوط آدمی
دیار	Diyar	ف	ملک، شہر، دیس، وطن
دیال	Dilal	اُہ	لاڈ، پیار، محبت
دیدب	Daydab	ع	نگہبان، گورخر، جنگلی گدھا
دیدار	Didar	ف	نظارہ، روشن، منور، پرنور، زیارت، لاہور کی مشہور مسجد وزیر خان کے ایک خطیب عالم مفتی سید دیدار علی شاہ جنہوں نے علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔
دیبا	Deeba	ع	نہایت باریک کپڑا، حریر
دیپک	Deepak	اُہ	چراغ، ایک راگ جس کے گانے سے چراغ جل اٹھتے ہیں
دیلیک	Dilaik	ت	خواہش، آرزو، چاہت، امنگ
دینپا	Deenpa	ع	روشن کرنا، چمکنا
دین	Din	ع	مذہب، ایمان، ایک نام دین محمد
دیانت	Diyanat	ع	نیک نیتی، ایمانداری، راستی، انصاف
دیان	Diyan	ع	قاضی، امیر، حاکم، رئیس
دیانَد	Dianad	ع	انصاف
دید	Deed	ف	نگاہ، نظر، نظارہ، دیکھنا
دِیدہ	Dida	ف	آنکھ، نظر، دیکھی ہوئی چیز، ایک نام دیدہ خان
دیدہ ور	Didawer	ف	عقلمند، دانشمند، باشعور، ہوشمند، صاحب نظر
دیروز	Diroze	ف	گزار کل
دیرمان	Dirman	ف	باقی، قائم، پائیدار، مضبوط، پختہ

marfat.com
Marfat.com

دیم	Deem	ف	روشنی' چمک' نور' چہرہ' شکل
دیمہ	Deema	ف	رخسارہ' گل
دیوان	Diwan	ع	عدالت' دربار' کچہری' وزیر
دیمری	Dimri	ع	ذہین آدمی' نیک آدمی' شریف آدمی
دیہم	Deeham	ف	تاج' شاہی

marfat.com
Marfat.com

ڈ

ڈھیارا	Dathyara	ہ'ا	بینا' جو دیکھ سکے
ڈکی	Daki	ا	حملہ' بلہ' دھاوا' یورش
ڈنڈوت	Dandoat	ہ'ا	سجدہ' جبہ سائی' ماتھا ٹیکنا' آداب تسلیم' بندگی
ڈھولا	Dhola	ہ'ا	مشہور پنجابی عاشق' ایک پنجابی عشقیہ گیت' پیار' محبوب

marfat.com
Marfat.com

ذ

ذابل	Zabal	ع	مست آنکھیں، نیم باز آنکھیں، نشیلی آنکھیں
ذابر	Zaber	ع	علم رکھنے والا، عالم فاضل
ذات النطاقین	Zat-ul-nataqeen	ع	حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیقؓ کا لقب
ذاجل	Zajal	ع	ستمگار، ظالم
ذاخر	Zakhir	ع	موٹا، فربہ، تنومند
ذاغر	Zaghar	ع	خوفناک
ذاکر	Zakir	ع	بیان کرنے والا، ذکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا
ذاکوان	Zaqwan	ع	ذہین
ذاہب	Zahib	ع	جانے والا
ذائل	Zail	ع	لمبے دامن کی زرہ، لمبی دم کا گھوڑا، زرہ کے باریک حلقے
ذائق	Zaiq	ع	چکھنے والا
ذافر	Zafir	ع	خوشبودار چیز، تیز مہک والی چیز
ذامر	Zamir	ع	غصیلا، ڈرنے والا
ذال	Zaal	ف	دیئے کی بتی
ذانب	Zanab	ع	پیچھے چلنے والا
ذباب	Zabab	ع	وہ مرد جو اپنے گھر والوں پر حرف گیری نہ ہونے دے
ذبال	Zabal	ع	دیئے کی بتی، چراغ کی بتی
ذبیح	Zabeeh	ع	ذبح کیا ہوا

marfat.com
Marfat.com

ذبیح اللہ	Zabeehallah	ع	اللہ تعالیٰ کے رستے میں قربان ہونے والا، حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کا لقب مبارک
ذخر	Zukhr	ع	جمع کرنا، اکٹھا کرنا
ذخار	Zakhar	ع	لمبا چوڑا، طویل وعریض
ذر	Zar	ع	معمولی سی چیز، تھوڑی سی چیز
ذرذار	Zarzar	ع	بہت بکنے والا آدمی
ذریف	Zarif	ع	نکلتا ہوا آنسو، بہتا ہوا آنسو
ذرف	Zarf	ع	آنسو کا بہاؤ
ذرفان	Zarfan	ع	سست رفتار، آنسو بہنا
ذراف	Zarf	ع	تیز رفتار، تیز رو، تیز تر
ذریت	Zaryat	ع	نسل، اولاد
ذریر	Zarir	ع	ایک طرح کی خوشبو
ذروت	Zaroot	ع	پہاڑ کی بلندی، پہاڑ کی چوٹی، بلند مقام، اونچی چیز
ذروہ	Zurdah	ع	پہاڑ کی چوٹی، پہاڑ کی بلندی
ذعبان	Zuban	ع	جوان بھیڑیا
ذکاء	Zakah	ع	فراست، دانائی، تیزی، سمجھداری، عقلمندی
ذکاء	Zikah	ف	آفتاب، شمس، سورج، دھوپ
ذکی	Zaki	ع	ذہین، سمجھدار، تیز فہم
ذکر	Zikr	ع	بیان، بات، اللہ تعالیٰ کی یاد
ذکور	Zakoor	ع	ذکر کی جمع، اللہ تعالیٰ کی یاد
ذکیر	Zakir	ع	بہت ذکر کرنے والا، بہت یاد کرنے والا، بیان کرنے والا
ذکاوت	Zakawat	ع	عقلمندی، دانائی، شعور، بات، سمجھ

marfat.com
Marfat.com

ذکوان	Zakuan	ع	سمجھدار لوگ' عقلمند لوگ' دانا لوگ' باشعور لوگ' ذہین لوگ' حضور نبی کریم ﷺ کے جانثار صحابی حضرت ذکوان بن عبداللہ ؓ غزوہ احد میں شہید ہوئے
ذکریا	Zikria	ع	بہت ذکر کرنے والا' بہت یاد کرنے والا' ملتان کے مشہور ولی اللہ حضرت بہاء الدین ذکریا
ذفاف	Zufaf	ع	زہر قاتل' تھوڑا سا پانی' گرمی نمی
ذفوط	Zafwat	ع	کمزور اور سست آدمی
ذقذاق	Zaqzaq	ع	جلدی بولنے والا اور تیز زبان آدمی
ذقط	Zaqit	ع	غصیلا آدمی
ذقن	Zaqan	ع	بہت ضعیف' بوڑھا' پیر فرتوت
ذلول	Zalool	ع	تابعدار' فرمانبردار' مطیع
ذلیق	Zaliq	ع	اچھا بولنے والا' تیز زبان' خوش بیان' خوش کلام
ذلولی	Zaluli	ع	نرم خو' نیک خصلت' اچھی عادت والا
ذلاقت	Zalaqat	ع	زبان کی تیزی' فصاحت' بلاغت
ذمت	Zumt	ع	رتبہ' عہدہ' مرتبہ' عہد و پیمان' وعدہ
ذمار	Zamar	ع	شجاعت' جرأت' بہادری' دلیری
ذمیم	Zamim	ع	شبنم' کنواں
ذمام	Zamam	ع	باگ ڈور' عنان' راس
ذموم	Zamum	ع	بہت عیب بیان کرنے والا
ذمہ	Zimh	ع' ا	ضمانت' کفالت' ضامنی' عہد
ذمیر	Zamir	ع	خوبصورت' حسین' دلیر' جری' بہادر
ذو	Zu	ا' ع	مالک' آقا' والد صاحب
ذوات	Zawa	ع	صاحبان' مالکان

marfat.com
Marfat.com

ذوالجلال	Zuljilal	ع	بزرگی والا
ذوالجناح	Zuljenah	ع' ا	پروں والا' حضرت امام حسینؓ کے اس گھوڑے کا نام جس پر معرکہ کربلا میں سوار تھے
ذوالکفل	Zulkafal	ع	حضرت الیاسؑ یا حضرت زکریاؑ یا حضرت یوشعؑ بن نون کا لقب
ذوالنورین	Zulnoorain	ع	حضرت عثمانؓ کا لقب
ذوالنون	Zulnun	ع	مچھلی والا' حضرت یونس علیہ السلام کا لقب مشہور بزرگ اور ولی اللہ حضرت ذوالنون مصریؒ
ذوالمن	Zulmun	ع	مہربانیوں والا' احسانوں والا' اکرام والا' عنایات والا
ذوالفقار	Zulfiqar	ع	تلوار' شمشیر' حضرت علیؓ کی تلوار کا نام
ذوالقرنین	Zulqarnain	ع	دو گیسو والا' سکندر اعظم کا لقب
ذوفنون	Zufnoon	ع	وہ جو کئی فن جانتا ہو' عالم' فاضل پرفن' عیار' چالاک
ذوقان	Zuqan	ع	پسندیدہ طبیعت والے' اچھی طبیعت والے
ذوبان	Zuban	ف	بے قراری' بے چینی' عرض' گزارش
ذوقی	Zoqi	ع	ذوق والا' صاحب ذوق' شوق والا
ذوقیہ	Zoqeya	ع	شوق سے' مرغوب
ذویزن	Zwaizen	ع	یمن کے ایک قدیم بادشاہ کا نام
ذوق	Zoq	ع	شوق' چاشنی' لذت' لطف' مزہ' پسند
ذواق	Zawaq	ع	عیاش' شہوت پرست
ذوالاحترام	Zulahtram	ع	محترم' عزت والا' احترام والا' صاحب عزت
ذواد	Zwad	ع	غیرت مند
ذوات	Ziwat	ع	مالکان' صاحبان
ذہیب	Zaheeb	ع	سونے کا' سنہرا' گولڈن

marfat.com

Marfat.com

ذہین	Zaheen	ع	ہوشیار، تیز فہم، دانائی، سمجھ
ذہب	Zahb	ع	سونا، گولڈ
ذہاب	Zahab	ع	گزرنا، چھوڑنا، جانا
ذھوب	Zahub	ع	جانے والا، گزرنے والا
ذیمری	Zimri	ع	دانشمند، ہوشیار، عقلمند، فہم وفراست والا
ذیاج	Ziaj	ع	ہم نشینی کرنا، ندیمی کرنا، ہم پیالہ وہم نوالہ ہونا
ذیال	Zial	ع	لمبی دم والا، اترا کر چلنے والا، لمبے دامن والا
ذیام	Ziyam	ع	رتبہ، مرتبہ، عزت، حق
ذیب	Zeeb	ع	بھیڑیا
ذیشان	Zishan	ع	بلند مرتبے والا، شان وشوکت والا، عظمت والا
ذی	Zee	ع	مالک
ذیخ	Zeekh	ع	بھیڑیا، دلاور، بزرگی، سرخ رنگ کا ایک ستارہ
ذی شاہ	Zishah	ف	شان والا، رتبہ والا

marfat.com
Marfat.com

ر

راد	Rad	ع	لوٹا دینے والا' پھیر دینے والا
راذن	Razan	ع	کسی کا رفیق
رازن	Razn	ع	کسی کا دوست ہونا' کسی کا رفیق ہونا' کسی کا ساتھی ہونا
رازی	Razy	ع	کسی احسان قبول کرنا
رامش	Ramish	ف	گانا' نغمہ' گیت' سرور' آرام وسکون' آرائش
راحاضی	Rahazi	ع	سخی
راحل	Rahil	ع	کوچ کرنے والا
راحلہ	Rahala	ا' ع	سواری کا جانور' جمع رواحل
راحم	Rahim	ع	نرمی کرنے والا' شفقت کرنے والا' رحم کرنے والا
رجح	Rajah	ف	جھکنے والا
راجع	Rajay	ع	رجوع کرنے والا' واپس ہونے والا' پلٹنے والا
رائت	Rayet	ع	جھنڈا' پرچم' علم
رائج	Raij	ع	رواج یافتہ
رائحہ	Raiha	ا' ع	خوشبو' مہک
رائد	Raid	ع	قاعدہ' آمد و رفت کرنے والا' تلاش کرنے والا' سراغرساں' وہ شخص جو قافلہ سے آگے منزل تلاش کرنے کے لئے جائے
رائص	Raess	ا' ع	گھوڑے کو سدھانے والا' چابک سوار
رائم	Raeem	ع	چاہنے اور تلاش کرنے والا
راوت	Rawt	ہ	بہادر' سورما' راجپوتوں کی ایک قوم' خاکروبوں کی ایک اعلیٰ قوم جو دوسروں کا جوٹھا نہیں کھاتی

marfat.com
Marfat.com

راقاب	Raqab	ع	انتظار کرنے والا
راقب	Raqib	ع	مہربانی' رحم' شفقت' نرمی' لطف و کرم
راقد	Raqab	ع	سونے والا
رابد	Rabid	ع	خزانچی
رابط	Rabita	ع	عابد' حلیم' عبادت کرنے والا' جوڑنے والا' راہب
رابط	Rabat	ع	کسی چیز کی باقاعدہ پابندی کرنا' کسی چیز پر ہمیشگی اختیار کرنا
رازق	Razaq	ع	روزی دینے والا' رزق دینے والا' ایک نام عبدالرزاق
راسب	Rasab	ع	بردبار' حلیم' نرم' رحم دل
راسوم	Rasum	ع	مہر' علامت' نشان
راسین	Raseen	ع	استوار
راج	Rahij	ع	عاجزی کرنے والا' جھکنے والا' عاجز
راجح	Rahej	ع	بہتر' برتر' فائق' اعلیٰ
راخی	Rakhi	ع	خوشگوار زندگی بسر کرنے والا
راول	Rawal	ا ہ	سردار' آفیسر' سپاہی' جوگی
راوی	Ravi	ع	گھوڑوں کا محافظ' کسی کے شعر یا قول کا نقل کرنے والا
راہب	Rahib	ع	شیر' نصاریٰ کا پارسا و عابد
راہن	Rahen	ع	دبلا آدمی' گرا ہوا' برقرار رہنے والا
راہی	Rahi	ا ف	مسافر' راہ گیر
راہین	Rahin	ع	حکم ماننے والا' تابع' ماتحت' اطاعت کرنے والا' فرمانبردار
راشق	Rashiq	ع	ہمراہ چلنا' ساتھ چلنا
رافِد	Rafid	ع	عطا کرنے والا' دینے والا' مددگار' معاون
راقِد	Raqid	ف	سونے والا
رافف	Rafif	[illegible]	[illegible]

marfat.com

Marfat.com

رافق	Rafiq	ع	مہربانی، نرمی، حلیمی، بردباری، مہربانی
رامق	Ramiq	ع	خاطر و مدارات سے پیش آنے والا
رامی	Rami	ع	گرانے والا، پھینکنے والا، پھینکنا، گرانا
راجا	Raja	اُ و	حکمران، بادشاہ، سخی، فیاض
رانا	Rana	اُ و	ٹھاکر، چھوٹا راجا، راجپوتوں کا ایک قبیلہ
راقب	Raqib	ف	منتظر، امیدوار، انتظار کرنے والا
راسم	Rasim	ت	تصویر، شبیہ، فوٹو، جاری پانی، بہتا پانی
راسمالی	Rasmali	ع	سرمایہ دار
رافع	Rifie	ع	بلند کرنے والا، اونچا کرنے والا، برتر کرنے والا، آسمانی بجلی، برق، چمکنے والی بجلی، مشہور صحابی حضرت رافعؓ
راتب	Ratib	ع	روزینہ، تنخواہ، مقررہ معاوضہ
راض	Raz	ع	خوشنود، رضامند
راضب	Razeb	ع	مہینہ، بارش
راجل	Rajel	ف	پاپیادہ، پیدل، پیدل چلنے والا
رافف	Rafif	ف	چمکیلا، دمکنے والا، چمکنے والا، منور
راکب	Rakeb	ف	شہسوار، ہمرکاب، سوار
راکسس	Rakisis	اُ و	وحشی آدمی، جنگل کا باسی
رافت	Rafet	ع	عنایت، کرم، مہربانی، شفقت، لطف و کرم
راحت	Rahat	ع	آسائش، آرام، اطمینان، چین، سکھ، ٹیلی ویژن کے مشہور اداکار راحت کاظمی
رانجھا	Ranjhah	ف	عشق کرنے والا، پیار کرنے والا، عاشق
راکد	Rakid	ع	اپنی جگہ ٹھہری ہوئی چیز، برقرار رکی ہوئی چیز
راکع	Rakey	ع	جھکنے والا، انکساری کرنے والا، سر جھکانے والا

marfat.com
Marfat.com

راغب	Raghib	ع	رغبت رکھنے والا، مائل، متغبت، خواہش مند
راصد	Rased	ف	نگرانی کرنے والا، محافظ، نگہبان، انتظار کرنے والا، خبر گیری کرنے والا
راصی	Rasi	ع	گرانے والا
راشد	Rashid	ع	سیدھی راہ پانے والا، ہدایت پانے والا
راتم	Ratim	ع	کسی چیز کو لازم پکڑنے والا
راقم	Raqem	ع	لکھاری، لکھنے والا
رائف	Raif	ع	سبقت لے جانے والا
رائی	Rayee	ع	حامی، بہت محبت کرنے والا، بہت الفت کرنے والا
راسخ	Rasikh	ع	پکا، مضبوط، دیرپا
راصد	Rased	ع	نجومی، منجم، علم نجوم جاننے والا
راسع	Rasey	ع	تیرنے والا
راب	Rab	ع	سو اونٹوں کا گلہ، سردار
رابغ	Rabigh	ع	مطمئن، خوشحال
رابض	Rabiz	ع	قیام کرنے والا، ٹھہرا ہوا، مقیم، ساکن
رباد	Rabbad	ع	گارا بنانے والا، گارے سے عمارت بنانے والا
رباط	Rabat	ع	باندھنے والا
ربیس	Rabis	ع	بہادر، دلیر، جری، نڈر، شجاع
رب	Rab	ع	پالنے والا، پرورش کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
رباب	Rabbab	ف	رباب بجانے والا
رباب	Rubab	ف	ساز
رباجی	Rabagi	ع	گنوار اور اکھڑ آدمی
ربانی	Rabbani	ع	رب کا، خدا رسیدہ، بزرگ

marfat.com

Marfat.com

ربوبی	Rabubi	ع	رب العزت کی طرف منسوب
ربود	Rabud	ع	مقیم ہونا
ربوہ	Rabwah	ا ع	تودہ' اونچی زمین' ٹیلا' ضلع
ربیط	Rabit	ع	درویش' حکیم' جوڑنے والا' بزرگ
رباض	Rabaz	ع	پھاڑ دینے والا شیر
رباح	Rabah	ع	حضور نبی کریم ﷺ کے ایک غلام کا نام
رَباط	Rabat	ع	مسافر خانہ' سرائے' مراکش کے ایک شہر کا نام
ربیع	rabiey	ع	بہار کا موسم
رتوب	Ratub	ع	عزت' غلبہ' شرف
رتوق	Ratooq	ع	عظمت' عزت' شرف' احترام' غلبہ
رَجب	Rajab	ع	ساتواں اسلامی مہینہ' مشہور پاکستانی گلوکار رجب علی
رجاب	Rajjab	ع	عظمت' عزت کرنا' احترام کرنا
رجال	Rajal	ع	بہت سے لوگ' بہت سے آدمی
رجاس	Rajas	ف	سمندر' بحر
رجب الفہم	Rajab-ul-Fahem	ع	بہت زیادہ دانشمند' بہت زیادہ عقلمند
رجب الصدر	Rajab-ul-Sadr	ع	بہت بڑے حوصلے والا شخص' بلند حوصلہ آدمی
رجحان	Rajhan	ع	خط کا جواب' واپسی رجوع
رجعی	Rajee	ع	رجعت پسند
رجم	Rajam	ع	انگل' دوست' ہم نشین' عیب' لعنت' گالی' وہ پتھر وغیرہ جس سے سنگسار کریں
رجو	Raju	ع	کنارہ

marfat.com
Marfat.com

رجل	Rajal	ع	بالغ مرد' بہت جماع کرنے والا
رجیل	Rajil	ع	صبر کرنے والا' استقامت کرنے والا' صابر' ثابت قدم' بہت چلنے والا
رِجب	Rijb	ع	عزت کرنا' تعظیم کرنا' احترام کرنا' شرم وحیا
رحب الصدر	Rahbulsadar	ع	بڑے حوصلے کا آدمی
رحب الفہم	Rahbulfaham	ع	زیادہ عقل مند
رحسا	Rahsa	ع	پکا' مضبوط' پائیدار
رحیب	Raheeb	ع	فراخ وکشادہ' بہت کھانے والا
رحیم	Rahim	ع	نرمی کرنے والا' رحم کرنے والا
رحیں	Raheen	ع	پکا
رحمت	Rehmet	ع	مہربانی' عنایت' بخشش' لفظ ''پاکستان'' کے خالق چوہدری رحمت علی
رحمان	Rehman	ع	شفقت کرنے والا' رحم کرنے والا' شفیق' رحیم
رحیل	Rahil	ع	مسافر' کوچ کرنے والا' سفر کرنے والا' کوچ کرنا
رحاب	Rehab	ع	کشادگی
رحال	Rehal	ع	چمڑے کا زین
رُحاب	Ruhab	ع	وسعت' فراخی' کشادگی
رحیق	Rahiq	ع	خوش نما اور اچھے قد وقامت والا شخص
رحمت اللہ	Rehmatullah	ع	اللہ تعالیٰ کی رحمت' اللہ تعالیٰ کی عنایت
رحل	Rehal	ع	مسکن' سامان' مسکن' کوچ کرنا
رخام	Rakham	ع	سنگ مرمر

marfat.com

Marfat.com

رخاض	Rakhaz	ع	راہ
رخود	Rakhuad	ع	نرم ہڈیوں والا' پر گوشت آدمی
رخیم	Rakhim	ف	نرم آواز والا' نرم لہجے والا
رخش	Rakhsh	ف	روشنی' چمک' کرن
رخشندہ	Rakhshanda	ف	چمکیلا' روشن
رُخام	Rukham	ع	سنگ مرمر' ایک پتھر' نرم ونازک
رخص	Rakhs	ع	ارزانی' نرم ونازک
رخیص	Rakhis	ع	سستا' ارزاں
رخشاں	Rakhshan	ف	روشن' چمکدار' تاباں' منور
رداح	Radah	ع	لشکر جرار' عظیم جری لشکر
رداع	Radaa	ع	جسم میں خوشبو کا اثر
ردوح	Radooh	ع	قائم رہنا' ڈٹے رہنا' ثابت قدم رہنا
ردید	Radeed	ع	وہ بادل جو برس چکا ہو
رزائت	Razait	ف	آرام' چین' سکھ' نرمی' آسائش
رزاق	Razaq	ع	رزق دینے والا' روزی دینے والا
رزانت	Razant	ع	آہستگی' مضبوطی' پختگی
رزین	Razin	ع	بھاری بھرکم' آہستہ' گراں مایہ' وزنی
رزین	Razin	ف	مضبوط' پائیدار' پختہ' استوار' قائم' برقرار
رزی	Razi	ع	کسی کا احسان قبول کرنا
رزم	Razm	ع	جنگ' معرکہ' لڑائی
رزق	Rizque	ع	روزی
رسب	Rusab	ع	حضورﷺ کی تلوار کا نام' بردبار' ہوشیار آدمی
رسام	Resam	ع	تیز چلنا' برق رفتاری سے چلنا

marfat.com
Marfat.com

رسام	Risam	ف	نقاش، مصور، تصویر بنانے والا
رستم	Rustam	ف	دلیر، جری، بہادر، نڈر، شجاع، ایران کا مشہور پہلوان رستم
رسیدہ	Raseedah	ف	پہنچا ہوا، بالغ، مبتلا
رسیل	Rasil	ف	قاصد، بھیجا ہوا، پیغامبر، پیغام رساں
رسالت	Rasalat	ع	پیغامبری، سفارت
رسال	Risal	ع	بشر
رسال	Rasal	ع	شیر
رساں	Rassan	ف	پہنچنے والا، پہنچانے والا
رساء	Rasa	ف	صائب، پہنچنے والا، کامل
رسول	Rasool	ع	پیغمبر، پیغام لے کر آنے والا
رسانیا	Risaniya	ا ہ	کیمیا گر
رسان	Risan	ع	نرمی، آہستگی
رسیع	Rasie	ع	اچھی زندگی، خوشگوار زندگی
رشاد	Rishad	ف	سیدھا راستہ، راہ راستی، ہدایت پانا
رشحات	Rashhat	ع	قطرہ، رس، بوند
رُشدی	Rushdi	ع	ہدایت، راستی، سچا، سچائی، مشہور پاکستانی گلوکار احمد رُشدی
رشاقت	Rishaqat	ف	جسمانی حسن، بدن کی خوبصورتی
رشد	Rashd		ہدایت یافتہ، راہ راست
رشی	Rashi		زاہد، عابد، خدا پرست
رشید	Rashid	ع	مدبر، ہدایت یافتہ، اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
رشیق	Rashiq	ع	حسین، جمیل، وجیہہ، خوش کلام، شکیل
رشا	Risha	ع	ہرنی کا بچہ
رشادت	Rishadat	ف	ہدایت، سیدھا راستہ، راہ راستی، صراط مستقیم

marfat.com
Marfat.com

رشد	Rushd	ع	راہ راست' ہدایت' سیدھی راہ
رشدی	Rushdi	ع	ہدایت' راستی' سچا
رصیف	Raseef	ع	کام میں ہم سر' رفیق اور مصاحب
رصین	Rasien	ع	پکا' مضبوط' پختہ' مہربانی کرنے والا' کرم کرنے والا
رصا	Rasa	ع	مضبوط' پائیدار' پختہ' پکا
رصیب	Raseeb	ع	ساتھی' رفیق' مصاحب' ہمسر
رضوان	Rizwan	ع	برکت' رضا مندی' جنت کے دربان کا نام' قائداعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی اور قائداعظم پر بے شمار کتب کے مصنف رضوان احمد
رضا	Raza	ع	راضی ہونا' خوش ہونا' آرزو' چاہت' امنگ' خواہش' امام علی موسیٰ رضا آٹھویں امام ہیں اور روضہ مبارک مشہد مقدس ایران میں مرجع خلائق ہے۔
رضی	Razi	ع	راضی ہونا' خوش ہونا' پسندیدہ' شاد ہونا
رضیم	Razeem	ع	پتھروں سے بنایا ہوا مکان
رضوی	Rizvi	ع	مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام۔ امام علی موسیٰ رضاؑ سے نسبت رکھنے والا
رعد	Rad	ع	عیش وعشرت
رعنا	Rana	ع	انداز سے چلنے والا' خوش وخرم' ایک پھول' چالاک' طرار
رعنین	Raneen	ع	نعمت
رعوس	Raus	ع	جھومنے والا' سر ہلانے والا
رعوف	Raoof	ع	معمولی بارش' ہلکی بارش' بوندا باندی
رعافی	Raafi	ع	فیاض' سخی' سخاوت کرنے والا
رعیل	Rail	ع	ہمیشہ آنے والا' جیش' گروہ' جماعت' ٹولہ' گلہ

marfat.com

Marfat.com

رعاد	Riada	ع	چمکنے والا' گرجنے والا بادل
رغیس	Raghees	ع	انعام' برکت' نعمت
رغد	Ragha	ع	نعمت' عیش
رغیب	Ragheeb	ع	رغبت کرنے والا' مائل ہونے والا' چاہت کرنے والا
رغد	Raghid	ع	نعمت' خوشی' عیش
رفیش	Rafish	ع	کشادہ' سیراب
رفیع	Rafi	ع	عظمت والا' بلند' برصغیر کے مشہور مسلمان گلوکار محمد رفیع
رفش	Rifsh	ع	کشادہ' کھلا' وسیع' فراخ' سیراب
رفاض	Rafaz	ع	راستے' راہ' حصے' ٹکڑے
رفال	Rafal	ع	لمبے بال
رفت	Rift	ع	عظمت' برتری' بلندی' اونچائی
رفاق	Rafaq	ع	ساتھی لوگ' ہمراہی
رفاقت	Rafaqat	ع	ساتھ' ہمراہی' خیرخواہی
رفعت	Rifat	ع	اونچائی' عظمت' برتری' بلندی
رفیق	Rafiq	ع	دوست' ساتھی' ہمراہی
رفق	Rafq	ع	مہربانی' نرمی' جودوکرم
رفیف	Rafif	ع	چمکتا ہوا' دمکتا ہوا' تاباں' نرم کپڑا
رقاب	Raqab	ا'ع	رقبہ کی جمع' گردنیں' کنیز اور غلام
رقاد	Raqad	ف	نیند' خواب
رقاص	Raqqas	ع	ناچنے والا' بازی گر' زمین پر پاؤں مارنے والا
رقصان	Raqsan	ع	ناچنا
رقیب	Raqib	ع	محافظ' نگہبان' حفاظت کرنے والا' ہمسر' حریف
رقیم	Raqim	ع	تحریر' کتاب

marfat.com

Marfat.com

رقیق	Raqiq	ع	ملائم' نرم' پتلا
رکوب	Rakwab	أع	سوار' سواری کا اونٹ
رکود	Rakood	ع	آرام لینا' ٹھہرنا
رکوض	Rakuz	ع	جلد تر پھینکنے والی کمان
رکون	Rokone	ع	میلان کرنا' قرار حاصل کرنا' کسی پر اعتماد کرنا
رکاب	Rakkab	ع	شتر سوار
رکان	Rakan	ع	درست کرنا' ٹھیک کرنا' اصلاح کرنا' تصحیح کرنا
رُکبان	Rukban	ع	سوار' شہسوار
رُکن	Rukn	ع	ستون' حصہ' جزو اعظم' مشہور ولی اللہ حضرت شاہ رکن عالمؒ
رکاز	Rakaz	ف	خزانہ' دفینہ' خزینہ' چھپی ہوئی دولت
رکیک	Rakeek	ع	سست' دبلا پتلا' نازک' ادنیٰ' نفیس
رکین	Rakin	ع	محکم' استوار' سنجیدہ' قائم' برقرار' مضبوط
رکن الدولہ	Rukn-ul-Dola	ع	وزیر' امیر
رُکن الدین	Rukn-ud-Din	ع	دین کا رکن' دین کا ستون' دین کا حصہ
رگیل	Rageel	اُہ	ہرجائی آدمی' فضول چیز
رمتا	Ramta	ہ	گھومنے والا' آوارہ
رمچیرا	Ramcheera	اُہ	غلام' نوکر
رمنا	Ramna	اُہ	پھرنا' گھومنا' سمانا' بھٹکنا
رمق	Ramaq	ع	درویش لوگ جو تھوڑی سی روزی سے زندگی گزار دیں' بدخواہ لوگ
رمیض	Ramiz	ع	نیزہ' بھالا' مشہور پاکستانی کرکٹر رمیض حسن راجہ

marfat.com

Marfat.com

رُمان	Ruman	ع	انار
رَمل	Ramil	ع	ریت
رمہ	Ramah	ف	گروہ، جھنڈ، جماعت، فوج
رمید	Rumid	ع	زیادتی
رمیز	Rameez	ع	سمجھدار، دانا، دانشمند، مکرم و معظم، اصیل، عقلمند
رمضان	Ramzan	ع	ماہ صیام، اسلامی مہینہ، جلانے والا
رمیل	Ramil	ع	آراستہ کرنے والا، سجانے والا، زیبائش کرنے والا
رمزی	Ramzi	ع	رازداں، بھید، راز
رماح	Rammah	ع	نیزہ بنانے والا
رماد	Ramad	ف	راکھ، خاکستر
رماز	Ramaz	ف	بھیدی، رازداں، اشاروں سے بات کرنے والا
رمال	Ramal	ا، ع	علم رمل کا ماہر، جوتشی، نجومی
رمان	Raman	ع	انار
رموز	Ramooz	ع	بھید، راز، اسرار، اشارہ
رِند	Rind	ف	آزاد، بے قید، متوالا، ایک نام ہارون رند
رنگیلا	Rangeela	•	وضع دار، بانکا، چھبیلا، زندہ دل، خوش مزاج
رنس	Rans	•	کرن، شعاع
رنین	Raneen	ع	آواز، راگ، گرہ
روجان	Rojani	ع	پاکیزہ اور اچھی جگہ
رومی	Roomi	ع	روم کا باشندہ، روم کے متعلق
رومان	Roman	ف	محبت، پیار، افسانہ، چاہت
روحان	Rohan	ع	مسرتیں، خوشبو، نمی، آسائش، خوشیاں
روداد	Rudad	ف	کہانی، قصہ، واقعہ

marfat.com

Marfat.com

رونق	Ronaq	ع	تازگی' چمک دمک' زیب و زینت' آرائش و زیبائش
روہین	Rohin	ف	فولاد
روفس	Roofas	لاطینی	سرخی مائل' سرخ بالوں والا
روفی	Roofi	ع	مہربان
روفائیل	Rufail	عبر	جس کو اللہ تعالیٰ نے شفادی ہو۔
روح	Rooh	ع	قائم رہنا' مضبوط رہنا' استوار رہنا' ثابت قدم رہنا' برقرار رہنا
روح الامین	Rooh-ul-Ameen	ف	امانتدار روح' حضرت جبرائیل کی لقب
روح اللہ	Rooh-ul-Allah	ف	ندی' نہر' نالا نیز اللہ کی روح
روح القدس	Rooh-ul-Quddoos	ف	پاک روح' حضرت جبرائیل کا لقب
رویت	Rwait		صورت کا نظر آنا' نظارہ
رویل	Ruwail	ف	موتیا کا پھول
روحیل	Roheel	ع '	مسافر' کوچ کرنے والا' سفر کرنے والا
رُوفی	Rufi	ع	مہربانی' شفیق' کرم کرنے والا' عنایت کرنے والا
روش	Rwish	ف	طور طریقہ' رفتار' مانند باغ کی پگڈنڈی
روشان	Roshaan	ف	نامور لوگ' مشہور لوگ' شہرت یافتہ لوگ' ستارے
رؤسا	Rausa	اُع	رئیس کی جمع' امیر لوگ' سردار
رؤف	Raoof	ع	مہربانی' شفیق' کرم فرما' رحم کرنے والا
رودار	Roodar	ف	حسین وجمیل' وجیہہ' شکیل' خوبصورت
روی	Revi	ع	شعر کے قافیہ کا آخری حرف' سیراب کرنے والا' شیریں پانی' بہت پانی' ایک گھونٹ جو سیراب کردے

marfat.com
Marfat.com

رُوید	Ruwaid	ف	عاجزی سے چلنا' آہستگی سے چلنا' نرمی سے چلنا
روشن	Roshan	ف	چمکدار' منور' تاباں' تابناک
روشن جبیں	Roshan Jabeen	ف	حسین' خوبصورت
روشنان	Roshnan	ف	ستارے
روداب	Rodab	ف	ندی کا بہاؤ
روباص	Robas	ع	کھرا' خالص' ملاوٹ سے پاک
روبد	Robad	ف	نرمی سے چلن
روبل	Robal	ف	موتیا کا پھول
روبین	Rubin	عبر	خوابوں کا بیٹا' فرزند
رواع	Ruwaa	ع	عقلمند' فہم و فراست والا' دانشمند' ہوشیار' ذکی
رواسی	Rawasi	ع	بڑے سر والا
رواق	Rwaq	ع	بادل' پردہ' سائبان' چھت' بڑا کمرہ' چوتھا آسمان
روزی	Rozi	ف	روزگار' رزق' روزانہ کی خوراک' ایک نام روزی خان
روزینہ	Rozeenah	ف	روز کی مزدوری' پنشن' وظیفہ
رہبان	Rahbaan	ع	تارک الدنیا' پرہیزگار
رہبر	Rehber	ف	رہنما' پیشوا' راستہ دکھانے والا
رہیب	Raheeb	عبر	خوفناک شیر
رہید	Rahid	ع	کومل' نرم و نازک
رئیس	Raees	ع	دولت مند' امیر' سردار' سربراہ
رہام	Raham	ع	معمولی بارش' ہلکی بارش' بوندا باندی
رہین	Rahin	ف	فرمانبردار' مطیع' ماتحت' تابع
رہس	Rahs	ع	مسرت' خوشی' دل لگی

marfat.com

Marfat.com

ریختہ	Reekhtah	ف	پڑا ہوا' بکھرا ہوا' پریشان' ایک شاعر کا تخلص
ریز	Raise	ف	بہانے والا' آنسو بہانے والا
ریشائل	Reshaeel	ا' عبر	بڑی اور لمبی گھنی ڈاڑھی والا' زبور میں ایک فرشتہ جس نے حضرت آدمؑ کو تعلیم دی
ریعان	Rean	ا' ع	آغاز جوانی' کسی شے کا بہتر حصہ
ریواس	Riwas	ف	ایک ایرانی میوہ
ریوالی	Rewali	ف	میوہ
ریبال	Ribal	ع	دلیر' بہادر' جری' نڈر' شجاع' شیر
ریبان	Reeban	ع	شیر
ریحان	Rehan	ع	ایک خوشبودار پودا
ریداس	Redass	ا' ہ	چماروں کے فرقے کا بانی جو بڑا گیانی کے نام سے مشہور تھا
ریماند	Rimaned	عبر	خاموش حمایتی' خاموش معاون' خاموش مددگار' خاموش طرفدار
ریمیا	Remia	ف	ایک فرضی علم جس کا جاننے والا جہاں چاہے جا سکتا ہے
ریاض	Riyaz	ع	باغ' گلستان' چمن' باغات
ریاش	Riyash	ع	عمدہ' اعلیٰ' اچھا' روزی' معاش' سامان
ریان	Riyan	ع	سرسبز' تروتازہ' سیراب' جوانی کا آغاز
ریاست	Riyasat	ع	سرداری' حکومت' عمارت
ریسمان	Risman	ف	رسی' ڈوری' دھاگہ' سوت

marfat.com
Marfat.com

ز

زاہل	Zahil	ع	سکون والا دل' چین والا دل' مطمئن دل
زاہم	Zahim	ع	نزدیک ہونا' قریب ہونا' پاس ہونا
زاکن	Zakan	ع	صاف پانی
زاد	Zad	ف	بیٹا' فرزند
زادی	Zadi	ف	جنی ہوئی' جنی (جیسے شہزادے) شاہ زادی یعنی بادشاہ کی جنی
زارقم	Zaraqum	ع	آسمانی
زافر	Zafir	ع	لشکر' فوج' جتھہ' جیش' جماعت
زاہد	Zahid	ع	متقی' پرہیزگار' عبادت گزار' حضرت مولانا زاہد مرغائی جن کا مزار مبارک تاپاد جام میں ہے۔
زاہر	Zahir	ع	چمکیلا' روشن' تاباں' چمکدار' چمکنے والا
زاخر	Zakhir	ع	چڑھا ہوا دریا
زاخف	Zakhif	ع	متکبر و سرکش آدمی
زاجر	Zajir	ع	منع کرنے والا' جھڑکنے والا
زائر	Zair	ع	ملاقات کرنے والا' زیارت کرنے والا' دھاڑتا ہوا شیر
زابوم	Zaboom	ف	کھرا سونا' خالص سونا
زال	Zaal	ف	بوڑھا' سفید بالوں والا' رستم پہلوان کے باپ کا نام
زائد	Zaid	ع	دوسرا' زیادہ' متحدہ عرب امارات کے شیخ زید بن سلطان النہیان جن کے نام پر لاہور میں شیخ زید ہسپتال قائم ہے
زبوں	Zaboon	ع	عاجز' ضعیف' بے چارہ' ذلیل' منحوس
زبق	Zabiq	ع	پارہ' سیماب

marfat.com
Marfat.com

زُبان	Zuban	ف	لَوشعلہ
زبیر	Zubair	ع	مضبوط آدمی' پکا آدمی' تحریر' مکتوب' مشہور صحابی حضرت زبیر بن العوامؓ۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ مزار مبارک بصرہ عراق میں ہے۔
زبرج	zabrij	ع	زینت' آرائش
زبرجد	Zabrjad	اُ ع	ایک قیمتی پتھر' زمرد کی ایک قسم
زبری	Zebri	ت	... ستارے' ایک مشہور عالم اور عربی زبان کے مصنف زبری بن مسلم
زُبید	Zubaid	عبر	جس نے ورثہ پایا ہو' منتخب کیا ہوا' چنا ہوا' پاکستان کے مشہور قاری زُبید رسول
زبرین	Zebrin	ع	ارفع' اعلیٰ' غالب' بلند مرتبہ
زبرقان	Zebrqan	ع	چودھویں رات کا چاند' چھوٹی داڑھی والا
زباب	Zabab	ع	انجیر یا انگور فروخت کرنے والا
زبیب	Zabib	ع	خشک انگور
زجاج	Zajah	ع	شیشہ بنانے والا' علم نحو کے ایک امام کا لقب
زجاج	Zajaj	ع	شیشہ' کانچ
زجیر	Zajir	ع	منع کرنے والا' روکنے والا' ٹوکنے والا
زحاف	Zihaf	ع	بہت کوچ کرنے والا
زحاف	Zihaf	ع	سمندر کا اُتار چڑھاؤ
زخاف	Zakhaf	ع	سمندر
زخرف	Zakhref	ع	ظاہری آرائش' سونا' آراستہ چیز
زدار	Zadar	ع	زیارت کرنے والا' زائر
زر	Zer	ف	سونا

marfat.com
Marfat.com

زراحمر	Zarahamar	اُف	سونا
زرافشاں	Zerafshan	ف	وہ کاغذ جس پر سونے کے ورق ریزہ ریزہ کر کے چھڑکے ہوتے ہیں اور جو تقریبات کے خطوط میں استعمال کیا جاتا ہے۔
زرآب	Zaraab	ف	سونے کا پانی
زرنب	Zerneb	ع	ایک خوشبودار پودا
زرعیم	Zareem	ع	سردار پیشوا
زری	Zari	ف	سنہری تار، سونے کا تار، کلابتو کا بنا ہوا کپڑا، گوٹہ کناری وغیرہ
زرکش	Zarkash	ف	کلابتو بنانے والا، چاندی کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا
زریق	Zeriq	ع	ایک پرندہ
زریان	Zaryan	ف	دولت تلاش کرنے والا، مال کا متلاشی
زرداد	Zardad	ف	دولت عطا کرنے والا، مال دینے والا، زر بخشنے والا
زراد	Zarad	ع	زرساز
زرار	Zarar	ع	تیز فہم، تیز سمجھ، سریع الفہم، خاطر، تیز، تیز ذہن
زرینب	Zureenab	ع	خوشبو
زرین	Zarin	ف	سونے کا کام کیا ہوا، سنہری، مشہور خطاط زرین رقم
زرنگ	Zarang	ف	تیز، ہوشیار، سیانا، نیا
زرق	Zarq	ف	آسمانی، نیلگوں، بھڑکیلا، گہرا نیلا، ایک نام زرق خان
زرقم	Zarqam	ع	نیلا، گہرا نیلا، آسمانی
زرگون	Zargun	ف	سنہرے رنگ والا، سنہری رنگت والا
زراب	Zarab	ف	سنہرا پانی، سونے کا پانی
زریاب	Zaryab	ف	امیر، رئیس، دولت مند، مالدار
زرناب	Zarnab	ف	کھرا سونا، خالص سونا
زردار	Zardar	ف	مالدار، دولت مند، امیر، رئیس

marfat.com

Marfat.com

زرگل	Zargul	ف	گلاب کا زیرہ' پھول کے اندر کا زیرہ
زساد	Zasaad	ع	سریع الفہم' تیز خاطر
زضیان	Zayan	ع	ہلکا
زعیم	Zaeem	ع	ضامن' رئیس' کفیل' پیشوا' رہنما' سردار
زغلول	Zughlul	ع	بچہ' ہلکا اور چست آدمی
زرنین	Zarnain	ف	دروازے کی زنجیر
زفوف	Zafoof	ع	بہت دوڑنے والا' شترمرغ' ایکسپریس
زفیان	Zufyan	ع	ہلکاپن' ہلکا
زکی	Zaqi	ع	پاک' صاف' نیک' پاکیزہ
زکری	Zakri	عبر	جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا
زکیاس	Zakyas	عبر	پاک' معصوم' پاکیزہ
زکریا	Zikriya	عبر	جسے اللہ تعالیٰ یاد رکھے' مشہور پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔
زلفت	Zulfat	ع	نزدیکی' دوستی' رتبہ' مقام
زلفی	Zulfi	ف	تلوار کا دستہ' دروازے کی زنجیر' مشہور پاکستانی مزاحیہ اداکار زلفی
زلفین	Zulfin	ف	زنجیر
زُلال	Zulal	ع	آب خالص' صاف پانی' خالص پانی
زمع	Zamba	ع	تیز' دلیر' پختہ ارادے والا
زمبق	Zambaq	ع	پارہ' سیماب
زمزمہ	Zamzamah	ف	ہلکی آواز سے سرود کرنا' ترنم' نغمہ' گیت' دھیمی آواز
زمن	Zamn	ع	دور' عہد' زمانہ' وقت' مشہور صحافی مختار زمن
زماں	Zaman	ع	زمانہ' دور' عہد' عرصہ' وقت
زمار	Zimar	ع	اچھا گانا' اچھا گیت' اچھا نغمہ

marfat.com
Marfat.com

زمام	Zimam	ع	باگ ڈور نکیل اختیار
زمرد	Zmurd	ف	سبز رنگ کا قیمتی پتھر
زُمر	Zumr	ع	متفرق گروہ متفرق جماعتیں قرآن پاک کی ایک سورۃ کا نام
زمردین	Zumrdin	ف	سبز ہرا زمرد جیسے رنگ والا
زنیق	Zaniq	ع	پائیدار مضبوط محکم پکا
زنبق	Zunbeq	ع	سفید رنگ کا تیز خوشبو والا پھول
زمیل	Zamil	ع	ردیف ہم پیشہ
زمیت	Zamit	ع	بردبار سنجیدہ باوقار
زنجبیل	Zanjil	ع	سونٹھ جنت کی اک نہر کا نام
زنگی	Zangi	ف	سیاہ فام حبشی مشہور مسلمان حکمران نورالدین زنگی
زنگین	Zangeen	عبر	رئیس مالدار
زواہر	Zwaher	ع	منور اشیاء تابناک چیزیں روشن چیزیں
زواد	Zuwad	ع	خوشبو مائل ہونا التفات کرنا
زوار	Zuwar	ع	زیارت کرنے والا دیدار کرنے والا
زوراق	Zoraq	ف	کشتی ناؤ بیڑی
زوط	Zuat	ع	ہندوستان کی جاٹ قوم
زوبین	Zwain	ف	نیزہ بھالا شاعرانہ موسیقانہ
زویل	Zwail	ع	طرف سمت حرکت جانب
زوان	Zwan	ع	جلدی کرنا یکدم عجلت فوری تیزی سرعت
زویم	Zwaim	ع	جمع شدہ ڈھیر انبار ذخیرہ
زہیر	Zheer	ع	چمکدار روشن منور تاباں چمکیلا درخشاں۔ اموی خلیفہ عبدالملک کے دور کے ایک مشہور سالار زہیر بن قیس

marfat.com

Marfat.com

زہری	Zahrasi	ع	دو روشن ستارے
زہران	Zehran	ع	سورج اور چاند
زُہا	Zuha	ع	جائزہ، مقدار، اندازہ
زہارت	Zharat	ع	بہت چمکیلا، بہت روشن، بہت منور، بہت چمکدار، بہت تاباں
زہیب	Zahib	ع	منور، روشن، تاباں، درخشاں، روشن رکھنے والا
زہاب	Zahab	ع	مسلسل جاری چشمہ، ہر وقت بہنے والا چشمہ
زہب	Zahb	ع	روشن، تاباں، منور، درخشاں، تاباں
زہاق	Zuhaq	ع	انداز، مقدار، تقریباً، کم و بیش
زہید	Zehid	ع	قناعت کرنے والا، تھوڑے پر صبر کرنا، قانع
زُہاد	Zuhad	ع	عبادت گزار، زاہد کی جمع
زہاد	Zahad	ع	بہت چمکیلا
زہدہ	Zehda	ا،ع	مکھن، ملائی
زیاب	Ziyab	ا،ع	ہمہ وقت جاری رہنے والا چشمہ
زیارت	Zayarat	ع	دیدار، دیکھنا، درشن کرنا، مزار، مقدس جگہ
زیاد	Ziyad	ع	بہتات، کثرت، زیادتی، ایک قسم کی خوشبو۔ تمیز، مشہور مسلمان جرنیل طارق بن زیاد
زیار	Ziar	ع	اصلاح اور بچاؤ کی چیز
زیب	Zaib	ف	آرائش و زیبائش، بناؤ سنگھار، زینت، مشہور مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر
زیبائی	Zibai	ف	خوبی، خوشنمائی
زیبا طلعت	Zaibatalat	ف	خوبصورت شکل والا، حسین

marfat.com
Marfat.com

زید	Zaid	ع	اضافہ' زیادتی' افزوں' بڑھاؤ' مشہور صحابی حضرت زید بن حارثؓ
زیادت	Zayadat	ع	کثرت' بہتات' اضافہ' بڑھاؤ' زیادتی' افزوں
زیان	Zayan	ع	وجاہت' حسن' خوبصورتی
زیگن	Zaigan	ت	مالدار' دولتمند' رئیس' امیر کبیر
زیدان	Zaidan	ع	اضافہ' زیادتی' کثرت' بہتات' بڑھاؤ' افزوں
زیاف	Ziaf	ع	شیر
زیات	Zayat	ع	پوشاک' لباس
زَین	Zain	ع	سجاوٹ' خوبصورتی' آرائش' خوبی
زینق	Zinaq	ع	محکم' مضبوط

marfat.com
Marfat.com

ژ

ژالہ	Szala	ف	اولا
ژرف	Zerf	ف	عمیق' گہرا' اتھاہ
ژیال	Zyal	ف	غصیلا' غضبناک
ژریف	Zarif	ف	ایک ایرانی نام
ژند	Sind	ف	گدڑی' بزرگ' قلندر
ژندگی	Sindgi	ف	پرانا پن' شکستگی' قدامت
ژولیدہ	Soleedah	ف	الجھا ہوا' درہم برہم' پریشان
ژیان	Zayan	ف	غضبناک' غصیلا

marfat.com
Marfat.com

س

سارا	Sara	ف	خالص، بہترین، بے میل، خوشبودار
سارب	Sareb	ع	ظاہر، عیاں، واضح، آشکارہ
سارق	Sarique	ا، ع	چور، چرانے والا، جمع سارقین
سارو	Saro	ا (قدیم)	انجام دینے والا، کرنے والا
سائح	Saih	ع	روزہ دار، گناہوں سے رکنے والا
سائر	Saier	ع	سیر کرنے والا
سائرم	Sairm	ع	مشہور، معروف، سیلانی، نامور، نامی گرامی
سائس	Sais	ع	محافظ، نگہبان، دانت کی جڑ، کرم خوردہ
سائف	Saif	ع	تلوار مارنے والا، شمشیر زن، جس کے پاس تلوار ہو
ساغر	Saghar	ف	پیالہ، گلاس، جام، مشہور درویش شاعر ساغر صدیقی جن کی قبر قبرستان میانی صاحب لاہور میں ہے
سالف	Salif	ع	کسی سے برابری کرنا
سالف	Salif	ع	آگے بڑھنے والا، پیش پیش ہونے والا
ساعت	Sa-at	ع	لمحہ، گھڑی، منٹ
ساعف	Saaf	ع	قریب، نزدیک، پاس
سامر	Samir	ف	داستان گو، قصہ گو، باتیں سنانے والا
سامد	Samid	ع	متکبر، غافل، متحیر، کھیلنے والا
سانت	Saant	ا (قدیم)	ایک ستارہ (سواتی) جو برسات میں نکلتا ہے، بارش
سانسی	Sansi	ا	ایک مشہور خانہ بدوش اور جرائم پیشہ قوم

marfat.com
Marfat.com

سالک	Salik	ع	راہ چلنے والا' پابند شرع بزرگ' قرب الٰہی کا طالب ۔ تحریک پاکستان کے ایک رہنما علم الدین سالک۔
سالکین	Salikeen	ع	راہ چلنے والا
ساطِل	Satil	ع	بلند غبار' اونچا غبار
ساج	Saj	ع	چیڑ کا درخت
ساجد	Sajid	ع	سجدہ کرنے والا' فقہ جعفریہ کے مشہور عالم دین علامہ ساجد نقوی
ساحل	Sahel	ا' ع	سمندر یا دریا کا کنارا
سالم	Salam	ع	مکمل' محفوظ' بچا ہوا' پورا' کامل
ساقی	Saqi	ف	پلانے والا' مشہور پاکستانی اداکار ساقی
سالار	Salar	ف	سردار' رہنما' کمانڈر' افسر' ایک نام صدیق سالار۔
سات	Sat	ع	نیند
سائر	Sater	ع	گھومنے والا' سیر کرنے والا' پھرنے والا
ساتف	Sataf	ع	کسی سے برابری کرنے والا
ساحت	Sahit	ع	احاطہ' میدان
ساحر	Sajer	ع	سحر کرنے والا' مشہور شاعر ساحر لدھیانوی
سامن	Samin	ع	فربہ' چربی والا
سامے	Samey	ع	ابدی' ہمیشہ زندہ رہنے والا' ہمیشہ قائم رہنے والا
سام	Sam	ع.	حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام ۔ ایک پہاڑ کا نام
سام	Saam	ف	سونا' مشہور ایرانی پہلوان رستم کے دادا کا نام۔
سادات	Sadat	ع	حضرت فاطمہؓ کی اولاد
سادِر	Sadir	ف	حیران' متعجب' بے باک
سادج	Sadaj	ع	سادہ' بغیر ملاوٹ
سافر	Safir	ع	سفر کرنے والا' مسافر

marfat.com
Marfat.com

سافل	Safil	ع	نیچا' نیچ آدمی
ساکب	Sakib	ع	گر کر بہنے والا
ساکرم	Sakram	ع	نامور' مشہور' معروف' سیلانی
ساکوت	Sakut	ع	بہت چپ رہنے والا
ساگر	Sagar	اُس	بحر' سمندر
سائد	Said	ع	سردار
سائم	Saim	ف	گھومنے والا' سیر کرنے والا' چرواہا
سائل	S-ail	ع	مانگنے والا
سائل الخیر	Sail-ul-Khair	ف	خیر مانگنے والا' بھلائی مانگنے والا
سابح	Sabeh	ع	تیرنے والا' بہت تیز دوڑنے والا
سابع	Sabey	ع	مکمل' پورا' کامل' اکمل
سابق	Sabaq	ع	پہلا
ساتر	Sater	ع	چھپانے والا' پوشیدہ رکھنے والا' ڈھکنے والا
سادس	Sades	ع	ششم' چھٹا
ساطع	Satey	ع	بلند و بالا' چمکنے والا' روشن' چمکدار
ساطن	Satan	ع	پیش پیش ہونا
ساطل	Satil	ع	بلند غبار
سامع	Samay	ع	سننے والا
ساونت	Sawant	ہ	بہادر' دلیر' شجاع
ساہر	Sahir	ف	بیدار' ہوشیار
ساہی	Sahi	ع	غافل' بھولنے والا
ساہوار	Sahoor	ع	بیداری' چاند کا ہالہ

marfat.com
Marfat.com

سائیں	Saien	ف	درویش، فقیر، منش، مالک، آقا، خاوند، بزرگ
سائمون	Saimoon	عبر	جس کی سنی گئی ہو
سامہ	Samay	ع	وعدہ، قول، قرار، عہد
سامی	Sami	ع	ہمیشہ زندہ رہنے والا
ساعد	Saed	ع	بازو
ساعدہ	Saidah	ع	شیر
ساعور	Sauoor	ع	تنور، آگ، عیسائی، ڈاکٹر
سائی	Saee	ع	جدوجہد کرنے والا، کوشش کرنے والا
ساخر	Sakhir	ف	مسخر کرنے والا، دل میں گھر کرنے والا
ساجع	Sajay	ع	درمیانی چال چلنے والا
سبحان	Subhan	ع	عرب کی فصیح و ملیح آبادی
سبحان	Subhan	ع	پاکی، تعریف، حمد
سبحان اللہ	Subhanallah	ع	کلمہ تحسین
سباح	Subah	ع	تیرنے والا
سبات	Subat	ع	وقت، زمانہ، عہد، دور، نیند
سبائی	Sabaee	ع	سبا قدیم (قدیم یمن) کا باشندہ، سبا سے منسوب ہے
سبط	Sibt	ع	بیٹے یا بیٹی کی اولاد، مشہور ادیب سید سبط حسن
سبوح	Sabooh	ع	مدح، تعریف، مضبوط کپڑا، پائیدار کپڑا، پکا کپڑا
سباحت	Sabahat	ع	پانی میں تیرنا، پیراکی
سباحتین	Sabahateen	ع	تیرنے والا، شناور
سباک	Sabak	ع	سنار، زرگر
سباق	Sabaq	ع	پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا، سبقت
سباہ	Sabah	ع	دور کا سفر

marfat.com
Marfat.com

سبز بخت	Sabzbakht	ف	نیک بخت' خوش قسمت' خوش نصیب
سبطین	Sabtain	ع	حضرت امام حسنؓ اور حضرت امام حسینؓ
سبکتگین	Subtgin	ف	ہوشیار' چالاک' سلطان محمود غزنوی کے والد کا نام جو افغانستان کا حکمران تھا۔
سبق	Sabaq	ع	سبقت لے جانے والا
سبیب	Sabeeb	ع	بالوں کا گچھا
سبیل	Sabeel	ع	راستہ طریقہ' کھلی سڑک
سپادہ	Supadeh	ف	شان و شوکت' جاہ و جلال
سپاس	Sapas	ف	شکریہ' شکر گزاری' تعریف ثناء
ستار	Satar	ع	پردہ پوش' ڈھانپنے والا' چھپانے والا' پردہ ڈالنے والا اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی اسم مبارک۔
ستودہ	Satudah	ف	تعریف کے قابل' بہت تعریف کیا ہوا
ستیز	Satiz	ع	جھگڑنے والا' جنگجو
سجات	Sajat	ا (قدیم)	نیک ذات
سجاد	Sajjad	ع	بہت سجدے کرنے والا' عبادت کرنے والا' گدی نشین۔ مشہور پاکستانی ادیب ڈاکٹر انور سجاد
سجاف	Sajjaf	ع	پردہ' حجاب
سجان	Sajan	ع	قید خانہ کا محافظ و نگراں' داروغہ جیل
سجد	Sujad	ع	سجدہ کرنے والے
سجیل	Sajeel	ف	آراستہ و پیراستہ' سجا سجایا
سجین	Sijeen	ع	مجرد آدمی جو ہمیشہ بغیر عورت کے رہے ہر سخت چیز' جہنم کا ایک سخت میدان وہ مقام جہاں نافرمان لوگوں کی روحیں مقید رہتی ہیں۔ کھجور کے درخت کا تھالا

marfat.com
Marfat.com

سجل	Sajal	ا، ہ	عمدہ، حکم نامہ، دستاویز، قاضی کا حکم نامہ
سچل	Sachal	ہ	درست، ٹھیک، بالکل ٹھیک، سندھ کے مشہور صوفی بزرگ حضرت سچل سرمستؒ
سجاح	Sajjah	ع	خوش شکل، کلام بولنے والا، مست آواز
سجاع	Saja	ع	مقفٰی کلام بولنے والا، خوشنما چہرہ، اپنی آواز سے مست کر دینے والی اونٹنی
سحاح	Suhah	ع	جاری ہونے والا، بہنے والا
سحبان	Sahban	ع	عرب کا ایک مشہور فصیح و بلیغ شخص۔
سحاب	Sahab	ع	ابر، بادل، گھٹا
سحار	Sahar	ع	بڑا جادوگر
سحر	Sahar	ع	صبح، جادو
سحوف	Sahoof	ع	بہت فربہ، بہت چربی والی
سحیق	Sahiq	ع	بہت باریک
سخاوت	Sakhawat	ع	عنایت، عطا، فیاضی، بخشش
سخن	Sukhan	ع	گرم
سخنان	Sakhunan	ع	گرم
سخی	Sakhi	ع	جوانمرد، فیاض، سخاوت کرنے والا
سخیف	Sakhif	ع	کم عقل، ہلکا جھر جھرا کپڑا
سخاب	Sakhab	ع	بہت شور مچانے والا
سخرت	Sakhrat	ع	کشتی کا عمدہ رفتار سے چلنا
سخری	Sukheri	ع	بے کاری، مطیع و فرمانبردار
سخونت	Sakhunat	ع	گرمی، تپش، حرارت
سدیر	Sadir	ع	یمن کا ایک خطہ جہاں کی چادر مشہور ہے، تازہ سبزی

marfat.com

Marfat.com

سدیس	Sadees	ع	عقلمند
سدیل	Sadil	ع	دراز بال' لمبے بال
سدرت	Sudrat	ع	ایک درخت کا نام
سدرج	Sadraj	ع	جھوٹا آدمی
سداد	Sadad	ع	رفاقت' ساتھ' دوستی' ہدایت' ٹھیک' درستی
سدید	Sadid	ع	پکا' مضبوط' پائیدار' درست' ٹھیک' مشہور ادیب انور سدید
سداب	Sudab	ع	ایک گھاس کا نام
سدیم	Sadeem	ع	ذاکر۔ بہت ذکر کرنے والا
سراج	Siraj	ع	روشنی' چراغ' سورج' دیا' مغلیہ سلطنت کے تاج دار سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر
سراج الدولہ	Siraj-ud Dollah	ع	چراغ کا حلقہ' نواب بنگال کا نام' جس نے 1857ء میں پلاسی کی جنگ میں اپنے ایک معتمد افسر میر جعفر کی دغا بازی سے شکست کھائی اور مارا گیا
سراع	Sarah	ع	جلدی کرنے والے' دوڑنے والے
سرافراز	Sarafraz	ف	کامیاب و کامران' بلند مرتبہ' عالی مرتبہ' سربلند
سرباز	Sarbaz	ف	دلیر' جری' شجاع' نڈر' بہادر' جانباز' جان پر کھیلنے والا
سرحان	Sarhan	ع	شیر
سرحال	Sirhal	ع	بھیڑیا
سرحت	Sarhat	ع	سیلاب کا آہستہ بہنا
سرشار	Sarshar		نشے میں چور' لبریز' جھلکتا ہوا
سرمد	Sarmad	ع	دائم' ہمیشہ زندہ رہنے والا' ہمیشہ قائم رہنے والا' مشہور ادیب سرمد صہبائی
سرامد	Saramad		برگزیدہ' برتر' حاکم' سردار

marfat.com
Marfat.com

سراط	Sirat	ع	تیز کاٹنے والا تلوار
سراط	Sarat	ع	وسیع صاف راستہ، فراخ راہ، کھلا صاف راستہ، کشادہ صاف راستہ
سرفراز	Sarfraz	ف	بلند و بالا، اونچا، عالی مرتبہ، کامیابی، سربلند
سرتاج	Sartaj	ف	حاکم، سردار، مالک، شوہر، ایک نام، سرتاج عزیز
سروپ	Sarop	اُ ہ	شکل، صورت، تماشا
سرور	Sarwer	ع	سردار، رئیس، امیر، بزرگ، پاکستان کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید
سریان	Saryaan	ع	رات کو چلنا
سریح	Sareeh	ع	سہل، آسان
سریس	Sarees	ع	دانشمند، سمجھدار، عقلمند، باشعور، حفاظت کرنے والا، محافظ، نگہبان، دھیان رکھنے والا
سرخاب	Sarkhab	ف	ایک آبی پرندہ
سرخیل	Sarkhil	ف	امیر، افسر، کمانڈر، سردار
سرہنگ	Sarhang	ف	فوج کا سردار، فوج کا سالار، فوج کا کمانڈر
سروایا	Sarwayia	اُ ہ	وارث، ساز و سامان
سروال	Sarwal	قدیم	مشہور، نامور
سرور	Sarore	اُ (قدیم)	چشمہ
سرور	saroor	ف	خوشی، مسرت، مزا، فرحت، مشہور شاعر سرور بارہ بنکوی
سرود	Sarood	اُ ف	نغمہ، گیت، راگ، بات، سخن
سردار	Sardar	ف	حاکم، امیر، افسر، پیشوا
سراج	Saraj	ع	زین فروش، ایران کے شہر طوس کے ایک بزرگ ابونصر کا لقب
سرآمد	Sarmad	ف	مکمل، پورا، برگزیدہ، سردار، پیشوا

marfat.com

Marfat.com

سربلند	sarbuland	ف	معزز' بلند مرتبہ' اونچا' عزت دار
سروش	Sarosh	ف	فرشتہ' پیغام لانے والا
سری	sari	ف	سرداری' پیشوائی' امارت
سری سقطی	Sari Saqti	ع	مشہور ولی اللہ حضرت سری سقطی جو حضرت جنید بغدادی کے ماموں تھے
سریع	Saree	ع	عجلت کرنے والا' تیزی کرنے والا' تیز
سریکھا	Surekha	قدیم	مثل' مانند' لوح
سرطم	Sartam	ع	طویل قامت' بلند قامت' اونچی آواز والا مرد
سطوت	Satwat	ع	دبدبہ' رعب
سطوط	Satwat	ع	رعب
سطیح	Satieh	ع	خیبر کے ایک قلعہ کا نام
سطل	Satal	ع	بلند قامت' دراز قد' طویل قامت
سعدی	Saadi	ع	خوش قسمت' ایران کے مشہور صوفی شاعر شیخ سعدی۔ مزار مبارک شیراز میں ہے
سعود	Saood	ع	مبارک' نیک
سعاد	Saad	ع	خوش بخت' خوش قسمت' نیک بخت' مبارک
سعیت	Sae'et	ت	مبارک' نیک' سعد
سعیر	Saeer	ع	بھڑکی ہوئی آگ' شعلہ
سعد	Sad	ع	مبارک' نیک' مشہور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ قبر مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔
سعد اصغر	Sad Asghar	ا' ع	ستارہ مشتری' جمعہ' ناہید

marfat.com
Marfat.com

سعید	Saeed	ع	خوش قسمت، نیک، بخت، ستارے، مبارک، مشہور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت سعید بن زیدؓ جو حضرت عمر فاروقؓ کے بہنوئی تھے۔
سعیدین	Saeedain	ع	دو مبارک ستارے
سعادت	Saadat	ع	خوش قسمتی، نیاز مندی، اقبال مندی، خوش بختی، مشہور ادیب سعادت حسن منٹو۔
سعدون	Sadoon	ع	نیک لوگ، مبارک لوگ
سعدین	Saadin	ع	زہرہ اور مشتری دو سیارے
سعدان	Sadaan	ع	مبارک لوگ، نیک لوگ، مدد، معاونت
سغل	Saghil	ع	کمزور اور ضعف بدن کا آدمی، بد خلق، بہت کھانے والا
سغی	Saghi	ع	بادل
سفیر	Safir	ع	قاصد، ایلچی، پیغام بر
سفیرالحق	Safir-ul-Haq	ع	حق کا پیغامبر، حق کا سفیر، سچائی پہنچانے والا
سفیان	Sufyan	ع	مشہور ولی اللہ حضرت سفیان ثوریؒ۔ آپ امام اعظم ابوحنیفہؒ کے شاگرد ہیں۔ مزار مبارک بصرہ عراق میں ہے۔
سفی	Safi	ع	بادل، ابر، باد تند، تیز ہوا
سفین	Safin	ع	کشتی، ناؤ
سفان	Safan	ع	کشتی والا، ملاح، ناؤ بنانے والا
سفاح	Safah	ع	سخاوت کرنے والا، بخشش کرنے والا، آزادی دینے والا، سخی فیاض، بنی عباس کا پہلا خلیفہ ابوالعباس سفاح جس کا انتقال ۱۳۶ھ میں چیچک کے مرض سے ہوا تھا
سفال	Safal	ع	مٹی کا برتن

marfat.com
Marfat.com

سفیط	Safit	ع	فیاض، سخی، جوانمرد، دلیر، سخاوت کرنے والا
سکب	Sakab	ع	ایک خوشبودار درخت، لالہ
سکران	Sakran	ع	مست، ہر حال میں خوش
سکور	Sakoor	ع	ہمیشہ نشہ میں چور رہنے والا
سکون	Sakoon	ف	قرار، امن، خاموشی
سکونت	Sakoont	ف	قیام، رہائش
سکیر	Sakir	ع	ہمیشہ مست، ہمیشہ مدہوش، مستی میں رہنے والا
سکیلا	Sakeela	اُہ	تلوار، سیف، شمشیر
سکینہ	Saksaina	اُہ	کاٹھوں کا ایک کوٹ
سکندر	Sikandar	ف	بلند و بالا، اونچا، کھرا، سچا، خالص، یونان کا ایک مشہور بادشاہ، سکندر اعظم جو دنیا کو فتح کرنے کے لئے نکلا تھا
سکین	Sakain	ف	چاقو، چھری
سکینت	Sakinat	ف	تسلی، آرام، قرار، خاموشی، امن، چین، راحت، سکون
سقراط	Suqrat	ع	نہایت دانشمند اور ذہین مشہور حکیم کا نام
سلامہ	Salama	ع	نقائص و عیوب سے مبرا، پاکیزہ، پاک صاف
سلیط	Salit	ع	حاضر جواب، تیز زبان، فصیح و بلیغ
سلیقی	Saleeqi	ع	تلوار رکھنے والا
سلطان	Sultan	ع	حکمران، والی، فرمانروا
سلطان محمود	Sultan Mehmood	ف	افغانستان کے مشہور بادشاہ کا نام
سلبوب	Salbob	ع	اچک لینے والا، چھین لینے والا
سلیع	Salee	ع	طبیعت، عادت، خصلت
سلیح	Saleeh	ع	ہتھیار، حربہ، اسلحہ

marfat.com
Marfat.com

سلاست	Salasat	ع	روانی' آسانی' سادگی' شستہ
سلاسل	Salasal	ع	زنجیریں
سلیل	Salil	ع	بچہ' ننگی تلوار' برہنہ شمشیر
سلامت	Salamat	ع	محفوظ' صحیح وسالم' مکمل طور پر بچا ہوا
سلیمان	Sulaiman	ع	صلح پسند' مشہور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنات' چرند اور پرند پر بھی تھی۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔
سلمان	Salman	ع	ٹکڑا' ذرہ' ریزہ۔ مشہور صحابی حضرت سلمان فارسیؓ آپ کا وصال ۳۳ھ میں مقام مدائن میں ہوا۔ جنگ خندق کے موقع پر حضور نبی کریم ﷺ نے آپ ہی کے مشورہ پر خندق کھودنے کا حکم فرمایا تھا۔
سلام	Salam	ع	سلامتی' آداب' تسلیم' بندگی' دعا دینا
سلیم	Saleem	ع	سنجیدہ' صاف دل' نیک' کامل' بردبار' درست' تندرست' ایک مشہور ولی اللہ حضرت شیخ سلیم چشتیؒ جن کی دعا سے جہانگیر بادشاہ پیدا ہوا۔ آپ کا مزار فتح پور بھارت میں ہے جسے شہنشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا۔
سلاح	Salah	ع	اسلحہ' ہتھیار
سلالم	Salalam	ع	خیبر کے ایک قلعہ کا نام
سلجوق	Saljooq	ن	ایک ترک حکمران جس نے خاندان سلجوقیہ کی بنیاد رکھی تھی۔
سلحان	Sulhan	ع	لڑائی کا سامان' ہتھیار
سلحوف	Salhoof	ع	بادشاہ کا نام
سلم	Sulm	ع	سیڑھی' وسیلہ' ذریعہ' رکاب
سلوم	Saloom	عبر	پرامن' پرسکون' مشہور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام حضرت ابی سلوم۔

marfat.com
Marfat.com

سلویٰ	Salwa	ع	شہد' ایک پرندہ بٹیر کے مساوی جسے ہندی میں لوا کہتے ہیں
سلسال	Salsal	ع	میٹھا اور ٹھنڈا پانی' خوشگوار
سلسبیل	Salsabeel	ع	نرم چیز' جنت کا ایک چشمہ
سمند	Samand	ف	زردی مائل رنگ کا گھوڑا' گھوڑا
سمہری	Samhari	ع	درست' اور سیدھا نیزہ
سمیم	Samim	ع	واحد' ایک' یک
سمیہ	Samyah	ع	فیاض' سردار' شریف
سمیح	Samih	ع	سخاوت کرنے والا' سخی' فیاض' دلیر' جری' جوانمرد
سمسار	Simsar	ع	ایلچی' دلدل
سمسام	Samsam	ف	تلوار' شمشیر
سمید	Samid	ع	نیک' شریف' بہادر' جری' دلیر' شجاع' نڈر' فیاض
سماع	Samaa	ع	سننا' راگ سننا' راگ گانا
ساطر	Sumatir	ع	بلند قامت شخص' لمبا آدمی' دراز قد شخص
سماح	Samah	ع	سخاوت' بخشش' فیاضی' آسان' جوانمردی' دلیری' بہادری' جرأت مندی' سلیس
ساہر	Samaher	ع	سخت و سنگین' مضبوط نیزہ
سمام	Samam	ع	ہلکا پھلکا' تیز
سمیر	Samir	ع	قصہ کہنے والا' رات کی باتیں سنانے والا' داستان سنانے والا' واقعہ سنانے والا
سمطر	Samtr	ع	عقل مند' ذہین' تیز فہم' دانشمند' سمجھدار' باشعور
سمن	Saman	ف	چنبیلی کا پھول' یاسمین
سمنار	Samnar	ع	ایک مشہور معمار کا نام جس نے قصر خورنق بنایا تھا

marfat.com
Marfat.com

سمیع	Sami	ع	سننے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک۔ پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم کے سابقہ کپتان سمیع اللہ۔ آپ کا تعلق بہاولپور سے ہے
سمر	Samer	ع	واقعہ' کہانی' داستان' گفتگو
سمرت	Sumrt	ع	گندمی رنگت کا ہونا
سمروت	Samrut	قدیم	بزرگ' صابر' نیک' لائق
سمین	Sameen	ع	فربہ' موٹا' پاکیزہ بات چیت کرنے والا
سمیط	Sameet	ع	موتیوں کی لڑی' موتیوں کا ہار' موتیوں کی مالا
سمیل	Samil	عبر	اللہ تعالیٰ نے جس کی سن لی ہو۔
سمیلن	Samilan	ا'ہ	انجمن' بزم
سموع	Samoo	ع	سماعت کرنے والا' سننے والا
سمرن	Samren	ع	وظیفہ' ورد' تسبیح
سمر	Sumr	ع	شام کا سفر' رات کا سفر
سماک	Samak	ع	جس سے کوئی چیز اونچی کی جائے' ایک عبادت گزار بزرگ کا نام
سنبل	Sunbal	ع	خوشبودار گھاس
سنتوش	Santosh	ہ	صبر' استقلال' قناعت' اطمینان' تسلی
سنگم	Sangam	ا'س	دو دریاؤں کے ملنے کا مقام' ملاقات' اکٹھا ہونا
سنگیت	Sangeet	ا'س	ساز و رقص کے ساتھ گانے کا فن' بہت سے آدمیوں کا مل کر گانا
سنین	Sanin	ع	بہت سے سال' بہت سے برس
سنیہ	Senyah	ع	روشن' چمکیلا' بلند

marfat.com
Marfat.com

سناط	Snat	ع	کوسہ آدمی جس کے داڑھی نہ ہو یا صرف ٹھوڑی پر ہو اور رخسار سے صاف ہوں
سنان	Sinan	ع	نیزے کی نوک' تیر کی نوک' انی
سنایا	Sanaya	ع	شریف آدمی
سنجر	Sanjer	ع	ملک شاہ سلجوقی کا بیٹا سلطان سنجر
سنجیدہ	Sanidah	ف	موزوں' متین' باوقار' مہذب
سنی	Sani	ع	اونچا' بلند' بالا
سنابر	Sanaber	ع	ایک خوشبودار گھاس
سنجق	Sunjaq	ع	جھنڈا' پرچم' علم' کمربند
سوار	Sawar	ف	سواری کرتا ہوا (فوج کے) رسالے کا ملازم' مست متوالا
سوامی	Swami	ا' س	آقا' شوہر' پیر' حضور' حضرت
سودا	Soda	ا' ع	سیاہ کالا' دیوانگی' اردو کے مشہور شاعر محمد رفیع کا تخلص
سودائی	Sodai	ف	عاشق' دیوانہ' مشہور پاکستانی شاعر اصغر سودائی
سوداگر	Sodaghar	ف	بیوپاری' تاجر' تجارت کرنے والا
سودت	Sodat	ع	سرداری' پیشوائی' رہنمائی
سوری	Suri	ف	سرخ رنگت کا پھول' ہندوستان کے ایک حکمران' شیر شاہ سوری جنہوں نے جی ٹی روڈ تعمیر کروائی تھی۔
سورہ نشیں	Sure Nasheen	ع	حضرت جبرائیل
سوز	Soz	ف	دکھ' درد' جلن' مرثیہ خوانی کی ایک طرز' نیز یہ اردو کے ایک شاعر محمد میر دہلوی کا تخلص
سوفتہ	Suftah	ا' ہ	مہلت' فرصت' نجات' چھٹکارا
سوک	Sok	ا' ہ	زہرہ ستارہ' ناہید' جمعہ

marfat.com
Marfat.com

سوہنا	Sohna	ہ	خوبصورت' حسین وجمیل
سویر	Sowair	ہ	جلدی' اول' پہلے
سہیم	Saheem	ع	حصہ دار' شراکت دار' شامل' شریک
سہیر	Saheer	ع	حسین وجمیل' وجیہہ' شکیل' خوش شکل' خوبصورت
سہر	Sehr	ع	خوبصورتی
سہراب	Sohrab	ف	مشہور ایرانی پہلوان رستم کے بیٹے کا نام۔ اس کی ماں کا نام تہمینہ تھا
سہاد	Suhad	ع	بیداری' جاگنا' بے خوابی
سہار	Sahar	ع، ا	بیدار
سہاس	Sahass	ع	محسن کی تعریف' اظہار احسان مندی
سہاق	Suhaq	ع	خالص' ہر چیز جو خالص ہو
سُہر	Suhr	ع	خوبصورتی' وجاہت' حسن' جمال
سہل	Sehel	ع	آسان' نرم زمین' عراق کے مشہور ولی اللہ حضرت سہل بن عبداللہ تستریؒ۔ آپ حضرت ذوالنون مصریؒ کے مرید ہیں۔
سہروردی	Soherwerdi	ع	مشہور بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ
سہیل	Suhail	ع	ایک چمکتا ہوا ستارہ' مبارک ستارہ' حضرت اویس قرنیؒ کا نام سہیل یمنیؒ
سہام	Saham	ع	بہت تیر چلانے والا
سہوم	Sahom	ع	عقاب' شاہین
سیح	Seeh	ع	حربہ
سیف اللہ	Saifullah	ع	اللہ تعالیٰ کی تلوار
سیاف	Siyaf	ع	تلوار چلانے والا' شمشیر زن' افغانستان کے ایک مشہور لیڈر عبدالرسول سیاف

marfat.com
Marfat.com

سیال	Syyal	ع	بہنے والا' پتلا مائع' رقیق
سیان	Syan	اُ ہ	دانائی' ہوشیاری
سیس	Sees	اُ ہ	ماتھا' پیشانی' سر' کھوپڑی
سیفی	Saifi	ع	تلوار رکھنے والا' شمشیر والا
سیف	Saif	ع	شمشیر' تلوار
سیف	Saif	ع	ساحل' دریا
سیلان	Silan	ع	تلوار اور چھری وغیرہ کا وہ حصہ جو میان میں رہتا ہے' ایک ہیرا
سید	Syed	ع	بزرگ' پیشوا' سردار' امیر
سید الشہداء	Syed-ul-Shohda	اُ ع	شہیدوں کے سردار حضرت حمزہؓ اور حضرت امام حسینؑ کا خطاب
سیوم	Syum	ت	محبت' پیار' پیاری' پسندیدہ
سیوک	Saiwak	اُ ہ	نوکر' پجاری' عابد' مرید
سیویم	Saiwiam	ت	محبت' پسندیدہ
سیہام	Siham	ع	ترکش' تیر
سیار	Siyar	ع	سیر و سیاحت کرنے والا' تیزی سے چلنے والا' پھرنے والا
سیادت	Siyadat	ع	بزرگی' امارت' سرداری' پیشوائی
سیام	Siyam	ف	سمرقند کے نزدیک موجود ایک پہاڑ کا نام
سیرا	Sera	اُ (قدیم)	پھرنے والا سیر کرنے والا' آوارہ
سیرت	Seerat	ع	خصلت' عادت' وصف' کردار
سیری	Sairy	ف	آسودگی' اطمینان' سکون
سیما	Seema	ع	ماتھا' پیشانی' چہرہ علامت
سیماب	Simab	ف	بے چین' بے قرار' پارہ

marfat.com
Marfat.com

سینا	Sina	غ	مشہور حکیم بو علی سینا کے دادا کا نام
سینا	Saina	ا س	فوج، لشکر، سپاہ
سینا	Seena	ا ع	اس پہاڑ کا نام جو ملک شام میں ہے اور جس پر حضرت موسیٰ خدا سے ہمکلام ہوتے تھے
سیناپتی	Senapati	ا ہ	سپہ سالار، فوج کا کمانڈر

marfat.com
Marfat.com

ش

شافعی	Shafi	ع	فقہ شافعی کے امام محمد بن ادریس شافعی
شافی	Shafi	ع	شفا دینے والا' صحت دینے والا' آرام دینے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
شاہ	Shah	ف	بادشاہ' سلطان' مالک' آقا
شاہ پور	Shah Poor	ف	بادشاہ کا بیٹا
شاہجہاں	Shahjehan	ف	پوری دنیا کا بادشاہ' مشہور مغل بادشاہ شہاب الدین شاہجہاں
شاہ روز	Shahroz	ف	بادشاہوں کا وقت
شاہ رُخ	Shahrukh	ف	تیمور کے بیٹے کا نام
شاہ سوار	Shah Sawar	ف	گھوڑے کی سواری کا ماہر
شاہ وار	Shahwar	ف	بادشاہوں کے قابل' بہت عمدہ' نفیس چیز
شاغل	Shaghil	ع	مصروف ہونے والا
شاکر	Shakir	ع	شکر گزار' صابر' قانع' اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا۔ پاکستان کے مشہور مصور شاکر علی
شاگل	Shagull	ف	مشابہت
شاق	Shaqe	ع	بلند' اونچی چٹان
شافعہ	Shaqah	ع	سفارش کرنے والا' شفاعت کرنے والا
شاہین	Shaheen	ف	شکاری پرندہ' شہباز
شاطر	Shater	ع	بے باک' ہوشیار' چالاک' تیز

marfat.com
Marfat.com

شاطی	Shati	ع	بہتے دریا کا کنارہ
شامل	Shamel	ع	نزدیک' ساتھ' قریب' شریک' پاس' اکٹھے' مکمل' اسلامی جمہوریہ چیچنیا کے مشہور بزرگ امام شاملؒ
شاہنواز	Shahnawaz	ف	بادشاہوں کو سرفراز و بلند کرنے والا
شاذ	Shaz	ع	انوکھا' تنہا' غیر معمولی' عجیب وغریب
شاذب	Shazib	ع	حصہ کا انتظار
شائق	Shaiq	ع	آرزومند' خواہش رکھنے والا' چاہت رکھنے والا' طالب' مشہور شاعر شائق انبالوی
شان	Shan	ع	عظمت' شوکت' آن' خوبی' قدر ومنزلت' مشہور پاکستانی اداکار شان
شار	Shar	ف	پانی کا گرنا' بہتا ہوا
شارب	Sharib	ع	پینے والا
شارخ	Sharukh	ع	بیان کرنے والا
شارز	Shariz	ع	تیز مزاج' سخت مزاج' غصیلا' غضبناک
شاہر	Shahir	ع	معزز' بزرگ' مشہور' نامور' نامی گرامی' شہرت یافتہ
شاہد	Shahid	ع	حاضر' گواہ' مصنف اور ادیب شاہد کاظمی
شاداب	Shadab	ع	سیراب' سرسبز' تروتازہ' ایک نام شاداب احمد چشتی
شاداں	Shadan	ف	خوش حال
شادن	Shadan	ع	ہرن کا بچہ
شادورد	Shadward	ف	چاندی کا ہالہ
شافع	Shafey	ع	شفاعت کرنے والا' سفارش کرنے والا' بخشوانے والا
شارِف	Sharif	ع	صاحب شرف ہونے والا' صاحب اعزاز ہونے والا

marfat.com
Marfat.com

شارح	Shareh	ع	تشریح کرنے والا' بیان کرنے والا' شرح کرنے والا' تفصیل بیان کرنے والا
شاد	Shad	ف	مسرور' راضی' خوش' پُر مسرت' ایک ادیب جناب عطا شاد
شادی	Shadi	ف	خوشی
شارم	Sharem	ع	تیر
شاپور	Shapur	ف	بادشاہ کا بیٹا' ایران کے ایک سابق وزیر شاپور بختیار
شاعر	Shair	ع	شعر کہنے والا' غزل گو' کوی
شیدا	Shaida	ف	عاشق' شیدائی' محب' فریفتہ' مجنوں
شاذ	Shaz	ع	عجیب' انوکھا' غیر معمولی' اتفاقاً
شاذب	Shahzab	ع	حصے کا انتظار
شاذِب	Shazib	ع	اپنے وطن سے دور' اپنے دیس سے دور' پردیسی
شارق	Shariq	ف	مینا' شراب
شارک	Sharik	ف	مینا' ایک پرندہ
شاب	Shaab	ع	جوان
شاباں	Shaban	ا(قدیم)	شاب کی جمع' بہت سے جوان
شایان	Shayan	ف	موزوں' قابل' لائق' اہل' زیبا' مناسب
شاہق	Shahiq	ع	اونچا' بلند وبالا' فراز
شاہ ویر	Shahveir	ف	شاہوں کے قابل' شاہوں کے لائق
شاہ خاور	Shahkhawer	ف	سورج' آفتاب' شمس
شارق	Shareq	ع	چمکنے والا' روشن' پرنور' سورج' آفتاب' شمس' شرقی علوم جاننے والا
شاول	Shawel	ع	ہٹانا' اٹھانا' پرے کرنا
شاہ زور	Shahzore	ف	نہایت قوی' بہت طاقتور' بہت قوت والا

marfat.com
Marfat.com

شانف	Shanef	ع	عرض کرنے والا' گزارش کرنے والا' وفا
شاذب	Shazib	ع	خشک' سخت' کمزور
شامخ	Shamekh	ع	بلند وبالا' اونچا
شامہ	Shamah	ا' ع	سونگھنے کی قوت یا حس
شامی	Shami	ع	ملک شام کا باشندہ
شباب	Shahbab	ع	حسن' جوانی' عیش
شبارق	Shabariq	ع	آرزومند' شوق دلانے والا' معشوق
شبنم	Shabnam	ف	اوس' رات کی نمی' اسی طرح ایک قسم کا سفید باریک کپڑا
شبو	Shabo	ع	ایک پھول کا نام' رات کی رانی
شبینہ	Shabinah	ف	رات کا باسی' حافظ قرآن کا رمضان کی ایک رات میں تراویح میں یا ویسے ہی مکمل قرآن ختم کرنا
شبیہ	Shabih	ع	مشابہت' شکل' مانند' مثل' ہو بہو
شبر	Shabbir	ع	ہدیہ' تحفہ' نذر' عطیہ' سوغات
شبلی	Shibli	ع	شیر کا بچہ' عراق کے مشہور ولی اللہ حضرت ابوبکر شبلی آپ کا اصل نام جعفر بن یونس ہے' مزار مبارک بغداد شریف عراق میں ہے
شبر	Shabr	ع	تعظیم کرنا' عزت کرنا' حضرت امام حسنؓ کا لقب
شبیر	Shabir	ع	نیک' حسین' خوبصورت' حضرت امام حسینؓ کا لقب
شبان	Shaban	ف	گڈریا' چرواہا
شبل	Shibl	ع	شیر کا بچہ
شبیع	Shabie	ع	باشعور' دانشمند' سمجھدار' عقلمند
شب تاب	Shabtab	ف	رات کو چمکنے والا' چاند' چراغ' جگنو' جواہر
شب گل	Shabgull	ف	سحر کے وقت کھلنے والا پھول

marfat.com
Marfat.com

شتاب	Shatab	ف	فوراً' جلدی' عجلت' یکدم' سرعت
شجان	Shajan	ف	غیرت مند آدمی' اونچا' لمبا' دراز
شجیع	Shajie	ع	دلیر' جری' بہادر' نڈر' شجاع
شجاعت	Shujaat	ع	دلیر' بہادری' مشہور عالم دین مفتی شجاعت علی قادری
شجاع	Shuja	ع	دلیر' بہادر' جری' نڈر' ایک نام احمد شجاع پاشا
شجر	Shjr	ع	پیڑ' درخت' ایک عالم دین شجر حسین شجر
شجع	Shaja	ع	بہادر' دلیر' بانکا اونٹ
شجیر	Shajir	ف	بہت سے درخت' قسمت' نصیب' مقدر
شحم	Shaham	ا' ع	چربی' مٹاپا' فربہی
شحنہ	Shahnah	ا' ع	محافظ' شیر' کوتوال' کھیت کا نگران
شحیم	Shahim	ع	فربہ' موٹا
شحون	Shuhvin	ع	دانا' قوی' بزرگ' بڑا' عاقل' طاقتور
شحاذ	Shahaz	ف	فقیر' گدا
شخیر	Shakheer	ع	گنگنا کر بولنے والا' ناک میں بولنے والا
شخیص	Shakhees	ع	تندرست' موٹا تازہ آدمی' سردار' سخت کلام
شداد	Shadad	ع	ایک بادشاہ کا نام جو قوم عاد سے تعلق رکھتا تھا' اس نے خدائی کا دعوئی کیا اور ایک مصنوعی جنت بنائی جس کا نام ارم رکھا تھا
شدہ	Shadh	ف	جھنڈا' پرچم' علم' نشان
شدائد	Shadaid	ف	بہت دلیر' بہت بہادر' بہت جری
شدیف	Shadif	ف	طویل اور تیز کودنے والا' لمبا اور تیز کودنے والا
شذرہ	Shazrah	ع' ا	پراگندہ' منتشر' بکھری ہوئی چیز' اخبار میں ایڈیٹر کا کسی واقعہ پر مختصر تبصرہ
شرق	Sharq	ع	سورج' آفتاب' مشرق' پورب

marfat.com
Marfat.com

شرزا	Shirza	ع	ببر شیر
شرف	Sharf	ع	بزرگی' ترجیح' فوقیت' اعزاز' حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے صاحب زادہ شیخ شرف الدین عیسیٰؒ وصال مبارک مصر میں ہوا۔
شرن	Sharan	ا س	پناہ' بچاؤ' امن کی جگہ
شریک	Sharik	ع	شامل' ساتھ' حصہ دار
شرافت	Shrafat	ف	بندگی' اصالت' نیکی
شرر	Sharer	ف	چنگاری' مشہور ادیب عبدالحلیم شرر
شروانی	Sherwani	ف	ایک افغان قبیلے کا نام
شروط	Sharot	ع	شرط کی جمع' عہد' پیمان' اقرار
شرجیل	Sherjil	ع	ایک صحابیؓ کا نام۔ نبوت کے جھوٹے دعویدار مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لئے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے آپ کو چنا تھا
شروف	Shrof	ف	آگ والا برتن' آتش دان
شرقی	Sharqi	ع	مشرق سے نسبت رکھنے والا
شرزب	Sherzeb	ع	نشان' ثبوت' علامت
شرخ	Sharkh	ع	نوجوان لوگ
شروق	Shruq	ع	سورج کا نکل آنا' خوشہ کا نکل آنا
شرقت	Sherqat	ع	طلوع آفتاب' سورج کا نکلنا
شرمہ	Shermah	ف	شرمندہ' حیادار
شریح	Sharih	ع	ایک مشہور قاضی کا نام
شریف	Sharif	ع	نیک' بزرگ' بلند مرتبہ' نیک کردار
شریعت	Shariat	ع	مذہبی قانون' مذہبی طریقہ
شریق	Shariq	ع	حسین و جمیل لڑکا' خوبصورت لڑکا

marfat.com
Marfat.com

شزری	Shazry	ع	کلام میں شعر داخل کرنا
شزیب	Shazib	ع	کمان
شطاف	Shataf	ع	دوری' فاصلہ
شطیر	shatir	ع	پاس' قریب' نزدیک' دور
شظاف	Shazaf	ع	دوری
شعائر	Shaer	ع	عبادتیں' نشانیاں' حج کی قربانیاں
شعب	Shab	ع	راستہ' گزرگاہ' گروہ' قبیلہ
شعشہ	Shashah	ا'ع	چمک' حرف کا آخری حصہ' افواہ
شعیب	Shuaib	ع	ٹھیک کرنے والا' درست کرنے والے' ایک مشہور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام' آپ کی صاحبزادی حضرت صفورا کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا
شعبدہ	Shobidah	ا'ع	جادو سے متعلق ہنر یا کھیل
شعیل	Shaeel	ع	چمکدار چیز' روشن شے' چمکنے والی منور چیز
شعور	Shaoor	ع	عقل' سمجھ' تمیز' دانش
شعون	Shaoon	ع	نخیر تمند
شعرانی	Sherani	ع	جس مرد کے جسم پر لمبے اور گھنے بال ہوں' ایک مشہور عالم دین امام شعرانیؒ
شعبان	Shaban	ع	شب برات کا مہینہ' اسلامی مہینہ
شغف	Shaghaf	ع	دلچسپی' محبت' شدید پیار
شغاد	Shighaz	ف	مشہور ایرانی پہلوان رستم کے بھائی کا نام
شغیف	Shashif	ع	بہت زیادہ پیار کرنے والے' بہت زیادہ محبت کرنے والے
شفقی	Shafqi	ع	شفق رنگ' سرخی مائل رنگت' شفق جیسا

marfat.com
Marfat.com

شفقت	Shafqat	ع	محبت' کرم' اخلاص' مہربانی' پیار' کرکٹ کے ایک سابقہ کھلاڑی شفقت رانا
شفیع	Shafi	ع	شفاعت کرنے والا' بخشوانے والا' سفارش کرنے والا' مشہور عالم دین مفتی محمد شفیع اوکاڑوی
شفیع الامم	Shafee -ul- Umam	ع	امت کی شفاعت کرنے والا' حضور ﷺ کا لقب
شفاء	Shifa	ع	صحت' آرام' ساحل' کنارہ
شفون	Shafoon	ع	غیرت مند' باغیرت
شفیق	Shafiq	ع	ہمدرد' مہربان' درست' شفقت کرنے والا' مشہور ولی اللہ حضرت شفیق بن ابراہیم بلخیؒ۔ آپ کی قبر مقام ختلان میں ہے
شفن	Shafen	ف	سمجھدار' عقلمند' حکمت والا' دانا' عاقل
شفاعت	Shafaat	ع	بخشوانا' سفارش
شفیف	Shafif	ع	بہت محبت کرنے والا' بہت پیار کرنے والا
شفان	Shafan	ع	ٹھنڈی ہوا
شفاہی	Shufahi	ع	بڑے ہونٹ والا آدمی
شفق	Shafq	ع	افق کی سرخی' شام کی سرخی
شقاق	Shaqqaq	ع	شیخی بگھارنے والا
شقذ	Shaqize	ع	جاگتے رہنے والا' بہت نظر لگانے والا
شقیص	Shaqees	ع	شریک' شرکت' حصہ' عمدہ گھوڑا
شکر دیان	Shakar dyan	ف	میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا

marfat.com
Marfat.com

شکوہ	Shikoh	ف	شان' شوکت' عظمت' جاہ' مغل بادشاہ شاہجہاں کا بیٹا شہزادہ داراشکوہ قادری جو حضرت میاں میر صاحب لاہوریؒ کا عقیدت مند تھا' مشہور کتاب سکینۃ الاولیاء اس کی تصنیف ہے
شکیم	Shakim	ع	مثل' مشابہت' مانند' خصلت' عادت' طبیعت' بہت زیادہ کھانے والا
شکور	Shakoor	ع	نیک بدلہ دینا' چھوڑا دینا
شکور	Shakoor	ع	شکر کرنے والا' شکر پسند' قدردان' کرکٹ کے مشہور پاکستانی ایمپائر شکور رانا
شکیل	Shakeel	ع	حسین وجمیل' وجیہہ' خوبصورت' مشہور اداکار شکیل
شکیب	Shakeeb	ع	بردباری' برداشت' صبر وتحمل' ایک شاعر شکیب جلالی
شگرف	Shigerf	ف	بزرگ' شریف' نیک' عجیب' نادر' زیبا' موزوں
شگفت	Shaguft	ف	تعجب' حیرت
شگفتہ	Shaguftah	ف	کھلا ہوا' پاکیزہ
شگون	Shagoon	ف	شگن' فال' نیک انجام
شگنیہ	Shagnia	اُ ہ	رمال' فالیا' نجومی
شلائین	Shalain	ف	شوخ' عاشق' آرام طلب
شلال	Shalal	ف	پانی کا جھرنا
شمش	Shamsh	ع	سورج' آفتاب
شمشاد	Shamshad	ع	ایک خوبصورت درخت کا نام
شمامہ	Shamamah	اُ ع	خوشبو' خوشبو کی گولیاں
شمائم	Shamaim	ع	خوشبوئیں' مہک
شمر	Shamer	ع	فیاض' سخی' دانا' ظالم

marfat.com

Marfat.com

شمیر	Shamir	ع	سیانا' تجربہ کار' محنتی' تیز چلنے والا
شماع	Shama	ع	ہنسی خوشی' مزاح' مذاق' رضا اور غبت
شمیم	Shamim	ع	خوشبو' نکہت' مہک
شماق	Shamaq	ع	مسرت' خوشی' سرور' پھرتی' چستی
شمس	Shams	ع	سورج' آفتاب' مشہور ولی اللہ حضرت مولانا شمس الدین تبریزیؒ
شمس الثقلین	Shamss-ul-taqleen	ا' ع	انسانوں اور جنوں کا سورج مراد حضورؐ
شمسہ	Shamssah	ا' ع	وہ سنہرا چاند جو کلس میں لگاتے ہیں' چھوٹا پھندا جو تسبیح میں لگاتے ہیں' روشندان
شمائل	Shamail	ع	خصائل' عادات' اطوار
شماس	Shamaas	ف	سورج کا پجاری
شماص	Shumas	ع	جلدی' فوراً' شتابی' عجلت' سرعت' تیزی
شماص	Shimas	ع	نکل جانا' بچ نکلنا
شمشیر	Shamshir	ع	تلوار
شمعون	Shamoon	ع	حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی کا نام
شمعی	Shami	ا	سبز رنگ' تیلیا مونگیا رنگ
شمول	Shamol	ا' ع	شمولیت' شامل ہونا
شمویل	Shamwal	ع	ایک نبی کا نام' علی نبینا
شمیل	Shamil	ع	خصلت' عادت' اطوار' شمولیت کرنے والا
شمیط	Shameet	ع	ملی جلی صبح' مخلوط فجر
شناور	Shinawer	ف	تیرنے والا' تیراک' ایک نام شناور سلیمی
شنان	Shanan	ع	سرد پانی' ٹھنڈا پانی' ابر بادل

marfat.com
Marfat.com

شنکول	Shankul	ف	حسین وجمیل' خوبصورت' شوخ' زیبا
شنگرف	Shangraf	ف	عمدہ' عجیب' نیک
شنار	Shanar	ف	تیراک' تیرنے والا
شناس	Shinas	ف	شناخت کرنے والا' جاننے پہچاننے والا
شنطاف	Shantaf	ع	دوری
شنوا	Shanwa	ف	سننے والا
شنیق	Shaneeq	ع	لے پالک
شواد	Shivad	ف	سرخاب' چکور
شواظ	Shawaz	ع	بغیر دھواں کا شعلہ
شواف	Shivaf	ع	گہری نظر رکھنے والا' تیز نظر آدمی' دور بین آدمی
شواہد	Shoahad	ا' ع	شاہد کی جمع' گواہ' مثالیں' ثبوت
شوکت	Shaukat	ع	شان' رعب' دبدبہ' جاہ' تحریک پاکستان کے مشہور رہنما مولانا محمد علی جوہر کے بھائی مولانا شوکت علی
شورش	Shoresh	ف	ہنگامہ' بلوہ' مشہور ادیب اور خطیب آغا شورش کاشمیری
شومیز	Shomiz	ف	کھیتی باڑی والی زمین
شوقی	Shoqi	ع	خواہش مند' شوقین' مشتاق' آرزومند
شویعر	Shoeer	ع	کم درجے کا شاعر
شہباز	Shahbaz	ف	بڑا باز' شاہین' سندھ کے مشہور ولی اللہ حضرت عثمان مروندی المعروف بحی لعل قلندر شہباز۔ مزار مبارک سیہون شریف میں واقع ہے
شہبندر	Shahbander	ع	سفیر' کونسل
شہپر	Shahper	ف	پرندے کے بازو کا سب سے بڑا پر

marfat.com
Marfat.com

شہرناز	Shahe Naaz	ف	جمشید بادشاہ کی بہن کا نام' موسیقی کی ایک آواز
شہریار	Shehryar	ف	عوام کا غم خوار' بادشاہ' بزرگ' بڑا
شہادت	Shahadat	ع	گواہی
شہود	Shahood	ع	موجود ہونا' حاضر ہونا
شہوار	Shehwar	ف	نہایت قیمتی موتی' بادشاہوں کے لائق' بادشاہوں کے قابل
شہور	Shahoor	ع	حاضر ہونا' (مذکر) شاہد کی جمع
شہسوار	Shehsawar	ف	بادشاہوں کے قابل
شہم	Shiham	ع	ہوشیار او تیز فہم آدمی
شہی	Shahy	ف	بادشاہی' سلطانی
شہیم	Shahim	ع	عقلمند' ذہین' تیز فہم' تنومند' توانا' قوی' بہت سمجھدار' باشعور
شہامت	Shahamat	ع	بہادری' دلیری' شجاعت' جرأت' بزرگی
شہاب	Shahab	ع	شعلہ' روشن ستارہ' سلسلہ سہروردیہ کے مشہور ولی اللہ حضرت شہاب الدین سہروردیؒ
شہاب	Shahab	ع	نہایت سرخ رنگ
شہرور	Shahror	ف	ایک ساز کا نام
شہیر	Shahir	ع	مشہور' نامور' نامی گرامی
شہزور	Shahzore	ف	نہایت قوی' انتہائی طاقتور' بہت قوت والا
شہرت	Shohrat	ع	مشہوری' چرچا' نیک نامی' مشہور ادیب شہرت بخاری
شہرہ	Shahrah	ع	مانند' مشابہہ' تصویر' شکل' صورت
شہید	Shahid	ع	گواہ' حاضر' شاہد' اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والا
شہیدناز	Shahid-e-Naaz	ف	عاشق
شہزاد	Shahzad	ف	شہزادہ' بادشاہ کا بیٹا

marfat.com
Marfat.com

شہوق	Shahooq	ع	بلند ہونا' ابھرنا
شیال	Shiyyal	ع	بوجھ اٹھانے والا
شیعہ	Shiah	ا' ع	گروہ' مسلمانوں کا وہ فرقہ جو حضرت علیؓ کو پیغمبر اسلام کے بعد خلافت کا حقدار مانتا ہے' امامیہ مذہب کا پیروکار
شیفتہ	Shaifta	ف	دیوانہ' عاشق' فریفتہ' شیدائی' شیدا
شیون	Shayoon	ف	فریاد' آہ وزاری' نالہ' نوحہ' مشہور شاعر شیون رضوی
شیحان	Shahan	ع	رشک کرنے والا' بڑی غیرت والا آدمی' بے تکان دوڑنے والا' ہر لمبی چیز
شیخان	Shakhan	ع	حضرت ابوبکر و عمرؓ ' امام اعظم و ابو یوسفؒ ' حکیم ابن سینا و ابونصر فارابی
شیخ	Shaikh	ع	مرشد' پیر' معزز
شیخ الرئیس	Shaikh-ur-Raees	ع	بوعلی سینا کا لقب
شیخ الاسلام	Shaikh-ul-Islam	ا' ع	بڑے عالم دین' مفتی اعظم
شیرافگن	SherAfgan	ف	شیر کو مارنے والا' دلیر' جری' بہادر' شجاع' نڈر
شیبان	Shaiban	ع	ایک ولی اللہ شیخ ابراہیم بن شیبان الکرمان شاہیؒ
شیر	Shair	ف	ایک گوشت خور شکاری جانور' بہادر آدمی
شیر خدا	Shair-e-Khuda	ف	حضرت علی کا لقب ہے یعنی اللہ کے شیر
شیردل	Sherdil	ف	بہادر' جری' دلیر' نڈر' شجاع
شیر زیاں	Shair-e-Zian	ف	غضبناک' شیر' بہادر آدمی
شیرنیستان	Shernastan	ف	جنگل کا شیر' بڑا بہادر
شیریں	Shirin	ف	میٹھا' نرم' پیارا

marfat.com

Marfat.com

شیراز	Shiraz	ف	پانی نکالا ہوادہی' انتظام' بندوبست' ایک ایرانی بادشاہ شیراز بن طہمورث
شیرازہ	Sharazah	ف	انتظام' یک جہتی' سلسلہ
شیرازی	Sharazy	ف	شیراز کا باسی' ایک قسم کا کبوتر
شیث	Shait	ع	حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام جو پیغمبر تھے
شیدا	Sheeda	ف	فریفتہ' مجنون
شیدائی	Shaidai	ف	دیوانہ
شیدیر	Shaidir	ف	اللہ تعالیٰ' مالک
شیذر	Shaizer	ف	اللہ تعالیٰ' پروردگار

marfat.com
Marfat.com

ص

صاخد	Sakhad	ع	دوپہر
صامت	Samat	ع	خاموش' چپکا' سونا' چاندی' زیور
صادف	Sadaf	ع	گفتگو کرنا' بات چیت کرنا' ملاقات کرنا
صارخ	Sarakh	ف	فریاد کرنے والا
صائد	Saaid	ع	لڑائی کرنا' جنگ کرنا
صافر	Safar	ع	ایک پرندہ
صائب	Saib	ع	ٹھیک' درست' صحیح
صائت	Saet	ع	فریاد کرنے والا
صاعد	Said	ع	بلندی کی طرف جانے والا' اوپر چڑھنے والا
صاغر	Saghir	ع	ذلیل وخوار آدمی' وہ شخص جو گالی گلوچ سے خوش رہے
صاحب	Sahib	ع	ساتھی' دوست' رفیق' معاون' مالک
صاحبان	Sahiban	ع	امام ابو یوسف محمدؒ
صاخب	Sakhib	ع	چلانے والا
صارم	Sarem	ع	بہادر آدمی' نڈر آدمی' دلیر آدمی' شجاع' تیز تلوار' ایک نام عبدالصمد صارم
صاری	Sarie	ع	کشتیاں' ملاح' ناخدا' کشتی کا مستول
صابر	Saber	ع	بردبار' صبر کرنے والا' برداشت کرنے والا' مشہور ولی اللہ حضرت علی احمد صابرؒ کلیر شریف والے
صابی	Sabi	ع	ستارہ پرست' ایک خواص مذہب کا معتقد' ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں چلا جانے والا

marfat.com

Marfat.com

صالح	Saleh	ع	نیک' پارسا' حضور غوث اعظمؒ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالحؒ
صاد	Sad	ا' ع	حرف ''ص'' کا تلفظ' منظور کرنے کی علامت' قرآن پاک کی اڑتیسویں سورت' چشم
صادر	Sadar	ع	نشانے پر لگنے والا تیر
صادق	Sadiq	ع	سچ بولنے والا' راست گو' سچا
صائم	Saim	ع	روزے رکھنے والا' ایک نام صائم چشتی
صائم الدہر	Saim-ul-Dahir	ع	ہمیشہ روزہ رکھنے والا
صاحب الزمان	Sahib-ul-Zaman	ع	حضرت امام مہدیؑ کا لقب
صاحب صفین	Sahab-e-Safeen	ع	حضرت علیؓ
صاحبزادہ	Sahibzadah	ا' ع' ف	دوست' مددگار' بیٹا' صاحب کا بیٹا' شریف زادہ
صادقین	Sadqain	ع	ایک مشہور مصور کا نام
صایل	Saeel	ع	حملہ کرنے والا
صبا	Saba	ا	مشرقی ہوا' صبح کی ہوا
صبیر	Sabeer	ع	برداشت کرنے والا' صبر کرنے والا' صابر
صبغ	Sabgh	ا' ع	رنگ' ملت' دین
صبغت	Sabghat	ع	رنگ
صبغۃ اللہ	Sabghattullah	ا' ع	قدرتی رنگ' دین کا رنگ' خدائی قانون
صبیح	Sabih	ع	حسین و جمیل' خوبصورت' وجیہہ شکیل' گورا چٹا
صباش	Sabass	ع	صابر' بہت صبر کرنے والا

marfat.com

Marfat.com

صباحت	Sabahat	ع	وجاہت' حسن و جمال' خوبصورتی' گوراپن
صباح	Sabah	ع	فجر' صبح صادق' کویت کے حکمران شیخ صباح السالم
صباغ	Sabag	اُ ع	رنگریز' رنگنے والا
صبوح	Sabooh	ع	صبح کی چیز
صبور	Saboor	ع	صبر کرنے والا' گنہگاروں پر نرمی کرنے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
صبار	Sabar	ع	بہت صبر کرنے والا' صابر
صبری	Sabry	ع	صبر کرنے والا
صباح	Sabah	ع	حسین و جمیل' بہت خوبصورت
صبحانی	subhani	ع	حسین و جمیل آدمی' خوبصورت آدمی
صحو	Sahu	اُ ع	ہوشیاری' بیداری
صحیب	Saheeb	ع	رفیق' دوست' حبیب
صحیفہ	Sahifah	ث	کتاب' رسالہ
صحابت	Sahabat	ث	دوست۔ رفاقت۔ دوستی۔ ساتھ
صحاد	Sahaad	ث	ٹھوس چیز
صحاف	Sahaf	ع	جلد ساز' کتاب کی جلد بندی کرنے والا
صخر	Sakhar	ث	چٹان پتھر
صخوب	Sakhob	ث	سخت آواز والا
صدیق	Sadeeq	ث	پیارا دوست
صدیق	Siddiq	ث	انتہائی راست گو' نہایت سچا' حضرت ابوبکر صدیق
صدکان گوہر	Sadkan-i-gohar	اُ ف	بہت حسین' معشوق
صدق	Sadaq	ع	سچ' سچائی' حقیقت' اصل

marfat.com
Marfat.com

صدر	Sadar	ع	سینہ، چھاتی، حاکم، امیر، ایک ولی اللہ دیوان صدرالدینؒ
صدرہ	Sidrah	ا،ع	جسم انسانی کا بالائی حصہ، منطق کی مشہور کتاب، نفوذ کر جانے والا
صدور	Sadoor	ف	باز آنا، ٹھہر جانا، رک جانا، جاری، اجراء
صدقہ	Sadqa	ع	خیرات، عراق کے ایک ولی اللہ شیخ صدقہ بغدادیؒ جن کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے
صدفہ	Sadfa	ع	حیرت
صداقت	Sadaqat	ع	سچائی، گواہی، وفاداری، خلوص، راستی
صدر	Sader	ف	سربراہ، حکمران، ایک ولی اللہ شیخ صدرالدین محمد بن اسحاق قونیویؒ
صدوق	Sadooq	ع	بہت سچا، نہایت راست گو، ہمیشہ سچ بولنے والا
صراط	Siraat	ع	راستہ، راہ راست
صراف	Saraf	ع	سونا چاندی پرکھنے والا
صرفی	Sarafy	ع	صراف، کھوٹا کھرا پرکھنے والا
صرفان	Sarfan	ع	موت، تانبا، قلعی، ایک قسم کی سخت کھجور
صراحت	Sarahat	ع	وضاحت، تشریح، تفصیل، ظہور
صروح	Sarooh	ع	پہلوان، بہت پچھاڑنے والا
صریر	Sareer	ع	صدا، قلم چلنے کی آواز
صریمہ	Sarima	ع	ارادہ کرنا، قصد کرنا، مصمم ارادہ، عزم صمیم
صریف	Sarif	ع	کھری چاندی، خالص چاندی
صریح	Sarih	ع	آشکارا، عیاں، ظاہر، کھلم کھلا
صرامت	Saramat	ع	بہادری، ہوشیاری، شجاعت، دلیری، بزرگی
صعب	Saab		سخت، کٹھن، مشکل
صواب	Sahrab	ع	ٹھیک، درست، نیک کام

marfat.com

Marfat.com

صعود	Saood	ع	بلندی پر چڑھنا' اونچائی پر چڑھنا
صعوہ	Saudha	اُع	ممولا' جھانبو' اللہ میاں کی دھوبن ایک چڑیا کا نام
صعید	Saeed	ع	خاک' مٹی' پہاڑی
صعلوک	Salook	ع	بزرگ' فقیر
صغار	Sighar	اُع	صغیر اور صغرا کی جمع' چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں
صغر	Sigher	اُع	خروی' چھٹائی' چھوٹا پن
صغیر	Saghir	ع	کمسن' کم عمر' چھوٹا
صفوت	Safwat	ع	برگزیدگی
صفوان	Safwan	ع	چمکدار پتھر' انتہائی چمکیلا پتھر' ایک صحابیؓ کا نام
صفت	Sifat	ع	خوبی' وصف' خاصیت
صفی	Safi	ع	مخلص دوست' سچا دوست' خالص' پاک' صاف
صفدر	Safdar	ع	سچا' راست گو' فوج کی صف کو پھاڑنے والا
صفر	Safar	ع	عقاب
صفیح	Safeeh	ع	آسمان' ہر چوڑی چیز
صفیان	Safyan	ع	رسول اللہ کی ازواج مطہرہ حضرت ام حبیبہؓ کے والد کا نام پورا نام صفیان صخر تھا۔
صفیر	Safir	ع	چڑیوں کی آواز' سیٹی
صفا	Safa	ع	خالص' کھرا' پاک' صاف' مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑی کا نام
صفار	Saffar	اُع	ٹھٹیرا' تانبے کے برتن بنانے والا
صفات	Sifat	ع	صفت کی جمع' تعریفیں' علامتیں' خوبیاں
صفاق	Saffaq	ع	بہت سفر کرنے والا' سیاح' کاروبار تجارت میں بہت ہوشیار لین دین کرنے والا
صقر	Saqr	ع	عقاب' شاہین' باز

marfat.com
Marfat.com

صلصال	Salsaal	ع	سوکھی مٹی
صلیل	Salil	ع	زنجیر' تلوار' اور پانی کے بہنے کی آواز' جھنکار
صلب	Saleb	ع	سخت' ٹھوس' مضبوط
صلاب	Salaab	ع	سختی' مضبوطی' استحکام
صلابت	Salabet	ع	سختی' مضبوطی' پائیداری
صلحہ	Salhah	ع	دوستی' رفاقت' ملاپ
صلاء	Salaa	ع	پکار' ندا
صلاح الدین	Salah Uddin	ع	دین کی پکار' فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی' مزار مبارک دمشق شام میں ہے
صلاح	Silah	ع	صدا' پکار' آواز' ندا
صلاح	Sallah	ع	تجویز' مشورہ' تدبیر' رائے' ارادہ' رفاقت
صمیت	Samiat	ع	بہت چپ رہنے والا
صمیل	Samil	ع	سوکھا' خشک
صمصام	Samsam	ع	تیز تلوار' تیز شمشیر
صماد	Samad	ع	ٹھوس چیز' سخت چیز' مضبوط چیز
صمیر	Sumir	ع	شام کا وقت' رات کا وقت
صمد	Samd	ع	بے پرواہ' بے نیاز' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
صمیم	Samim	ع	کھرا' خالص' سچا' مخلص' بے لوث
صمید	Samid	ع	قناعت پسند' صابر و شاکر' بے نیاز
صمیان	Samyan	ع	بہادر آدمی' سچا آدمی' تجربہ کار آدمی' مہارت رکھنے والا
صمہ	Samah	ع	دلیر' جری' شجاع' بہادر' نڈر
صندلانی	Sandlani	اُف	صندل بیچنے والی
صندیر	sandir	ع	دلیر' بہادر' جری' شجاع' نڈر' بزرگ

marfat.com
Marfat.com

صنوبر	Sanober	ع	درخت کا نام
صنان	Sanan	ع	بہادر‘ دلیر‘ شجاع‘ جری‘ نڈر
صنم	Sanam	ع‘ا	بت‘ معشوق‘ محبوب‘ دلبر‘ پیارا
صنوید	Sanweed	ع	بزرگ‘ امیر‘ رئیس‘ سردار
صنیر	Saneer	ع	خیال‘ بعید
صنیع	Saniey	ع	مخلوق‘ احسان‘ چمکتی ہوئی تیز تلوار
صنوان	Sanwan	ع	دو سگے بھائی۔ ایک چشمہ سے نکلی ہوئی دو ندیاں‘ ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے دو درخت
صنعان	Sanaan	ع	تذکرۃ الاولیاء کے مصنف شیخ فریدالدین عطارؒ کے مرشد کا نام
صناع	Sanaa	ع	تجربہ کار‘ ہنرمند‘ ماہر‘ مہارت رکھنے والا
صنادید	Sanadid	ا‘ع	صندید کی جمع‘ بزرگ‘ شریف‘ سردار‘ جرنیل
صوبہ	Soobah		ریاست یا ملک کا وہ حصہ جس میں بہت سے اضلاع شامل ہوں
صواب	Sawab	ع	ٹھیک‘ درست‘ خطا کی ضد
صوارد	Swarid	ع	سرد ہوائیں‘ ٹھنڈی ہوائیں
صومان	Suman	ع	روزہ دار
صویلح	Swailey	ع	دوست‘ رفیق‘ صالح‘ نیک
صوفی	Sufi	ع	متقی‘ نیک‘ پرہیزگار‘ نیک صفت مشہور شاعر صوفی تبسم
صون	Soan	ع	نگہبانی‘ حفاظت‘ محافظت
صولت	Solat	ع	رعب‘ دبدبہ‘ ہیبت
صومر	Somer	ع	تلسی‘ ریحان‘ نازبو
صویب	Swaib	ع	درست‘ مشورہ والا‘ درست رائے والا
صہیب	Suhib	ع	سرخ‘ سرخی مائل‘ مشہور صحابی حضرت صہیب رومیؓ
صہبا	Sahba	ع	سرخ رنگ کی شراب‘ اردو زبان کے ایک شاعر صہبا اختر

marfat.com
Marfat.com

صہود	sahood	ع	فربہ' جسیم' موٹا
صہوبت	Sahoobat	ع	سرخی مائل زرد
صہیر	Saheer	ع	حرارت پہنچانے والا' پگھلانے والا
صہب	Sahab	ع	سرخی مائل
صیام	Sayam	ع	روزے
صیرفی	Sairfi	ع	صراف' کھوٹا کھرا پرکھنے والا
صیرم	Sairam	ع	ہوشیار و عقلمند آدمی' دن رات میں صرف ایک مرتبہ کھانا' کھانا
صیغہ	Sigha	اُع	طریقت' خلقت' اصل' نکاح
صیف	Saif	ع	موسم گرما' گرمی کا موسم
صیان	Sayan	ع	رکھوالا' پاسبان' نگہبان' پہریدار
صیقل	Saiqal	ع	چمک' صفائی' جلا' آب و تاب
صیدافگن	Said Afgan	ع۔ف	شکار کرنے والا' شکاری
صیانت	Sayanat	ع	حفاظت' نگہبانی' پاسبانی
صیاغ	Sayagh	ع	سنار' زرگر

marfat.com

Marfat.com

ض

ضاد	Zaad	ع	فتح پانا' غالب آنا' حاوی ہونا
ضابط	Zabit	ع	حاکم' انتظام کرنے والا' بندوبست کرنے والا' صابر' تحمل مزاج' مدبر
ضابطہ	Zabita	ع	محافظ' مدبر' قابض' حاکم محتاط
ضارب	Zarib	ع	ضرب لگانے والا' مارنے والا
ضامن	Zamen	ع	کفیل' ذمہ دار' ضمانت دینے والا
ضاندار	Zandar	ع	ضمانتی
ضار	Zaar	ع	نقصان پہنچانے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
ضامی	Zami	ع	مددگار' طرفدار' حمایتی' ذمہ دار
ضافر	Zafir	ع	مدد کرنے والا' امداد کرنے والا' حمایت کرنے والا' دستگیری کرنے والا' طرفداری کرنے والا
ضامہ	Zamah	ع	حرارت پہنچانا' پگھلانا' مکہ مکرمہ کا ایک شاعر ابوضامہ
ضاہر	Zaher	ع	وادی' پہاڑ کی چوٹی
ضائق	Zaeaq	ع	تنگ' تنگ ہونے والا
ضائن	Zaean	ع	ست' لٹکے ہوئے پیٹ کا آدمی
ضامر	Zamir	ع	خفیہ' پنہاں' نازک اندام' پوشیدہ' چھپا ہوا
ضارع	Zaray	ع	عجز و انکساری کرنے والا' عاجزی کرنے والا
ضادی	Zadi	ع	رات کو آنے والا مہمان
ضاوی	Zavi	ع	غضبناک' غصہ
ضاحک	Zahaq	ف	ہنسنے والا' ہنستا ہوا' ظریف' مزاحیہ
ضاحی	Zahi	ع	ظاہر' کھلا ہوا

marfat.com

Marfat.com

ضاری	Zari	ع	شکار کا پیچھا کرنے والا
ضبر	Zaber	ع	غازیوں کی جماعت بھس بھری ہوئی کھال' جنگلی انار کا درخت
ضبیب	Zabib	ع	تلوار کی دھار
ضبیر	Zabeer	ا' ع	سخت مضبوط' عضو تناسل
ضبود	Zabood	ع	دشمن
ضبور	Zaboor	ع	ببر شیر
ضتیب	Zateef	ع	مہمان بنانا' خاطر کرنا
ضجن	Zajan	ع	ایک پہاڑ کا نام
ضجنان	Zajnan	ع	مکہ معظمہ کے نزدیک پہاڑ
ضحل	Zahil	ع	تھوڑا پانی' خالص
ضحیٰ	Zuhaa	ع	پہر دن چڑھے کا وقت
ضحار	Zihar	ع	پوشیدہ
ضحاك	Zahaq	ع	بہت زیادہ ہنسنے والا
ضخام	Zakham	ع	قوی ہیکل' بڑے ڈیل ڈول والا انسان
ضخیم	Zakhim	ع	بھاری بھرکم' بہت بڑا' موٹا' فربہ
ضدید	Zadid	ع	ضدی' مخالف
ضرار	Zirar	ع	سختی کرنے والا' نقصان پہنچانے والا
ضروب	Zaroob	ع	بہت مارنے والا
ضریبت	Zaribat	ع	عادت' خو' خصلت' اطوار
ضریبہ	Zaribha	ع	عادت'' خو' تلوار کی تیزی
ضریت	Zureet	ع	مرعادت
ضربان	Zerban	ف	چمک' لپک' کوند

marfat.com

Marfat.com

ضرادت	Zeradet	ع	خصلت‘ عادت‘ اطوار
ضرغام	Zergham	ع	ببر شیر‘ پھاڑنے والا شیر‘ اسد
ضرغم	Zargham	ع	شیر
ضراب	Zirab	ع	مارنے والا‘ ضرب لگانے والا
ضرام	Ziram	ع	لکڑی کے باریک ریزے
ضردات	Zardat	ع	عادت‘ خصلت
ضرم	Zarim	ع	بھوکا‘ عقاب کا بچہ‘ بہت تیز رفتار گھوڑا
ضفیر	Zafir	ع	سر کے گندھے ہوئے بال
ضفیط	Zafeet	ع	نادان‘ کم عقل‘ موٹا آدمی‘ بتھ پتھ
ضطمر	Zatimr	ع	گوہر‘ موتی
ضغفان	Zaghfan	ع	ست وناتواں‘ کمزور
ضلیع	Zalih	ع	جوان
ضلاضل	Zalazal	ع	راہ دکھانے والا‘ رہنما‘ رہبر
ضلال	Zalal	ع	گم ہونا‘ گمراہی
ضمار	Zimaar	ع	پوشیدہ
ضماندار	Zamander	ع	ذمہ دار‘ کفیل‘ ضمانتی‘ ضامن‘ ضمانت دینے والا
ضمی	Zamaa	ع	پہر دن چڑھے کا وقت
ضمخام	Zamkham	ع	قوی ہیکل
ضمرز	Zamraz	ع	شیر‘ سخت اور کھردری زمین
ضمیر	Zumir	ع	ایک صحابیؓ کا اسم مبارک
ضمین	Zumin	ع	کفیل‘ ضامن‘ ذمہ دار‘ ضمانت دینے والا
ضمان	Zuman	ع	ضامن‘ ذمہ دار‘ کفیل‘ ذمہ داری اٹھانے والا
ضماد	Zimad	ع	لوشن‘ کریم‘ لیپ

marfat.com

Marfat.com

ضمیر	Zamir	ع	دل' قلب' پاکستان کے مشہور شاعر سید ضمیر جعفری
ضمیم	Zamim	ع	متصل' منسلک' شامل کیا ہوا' ملا ہوا
ضمیران	Zamiran	ع	ریحان' تلسی' نازبو
ضنائن اللہ	Zanaen Ullah	ع	اللہ تعالیٰ کے مقرب اور خاص بندے
ضوبان	Zuoban	ع	فربہ اور مضبوط و توانا اونٹ
ضورير	Zoareer	ع	روشنی پھینکنے والا
ضوفشاں	Zufishan	ف	روشن' تاباں' منور' درخشاں
ضوفگن	Zufagan	ع'ف	روشنی دینے والا
ضیشم	Zisham	ع	شیر
ضیاء	Zia	ع	چمک' روشنی' اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق جو اگست 1988ء میں بہاولپور کے نزدیک ہوائی جہاز کے حادثہ میں شہید ہو گئے تھے۔
ضیغم	Zaigham	ع	ببر شیر' بہادر' دلیر' شجاع
ضیف	Zaif	ع	مہمان
ضیفان	Zaifan	ع	مہمان داری
ضیم	Zaim	ع	پہاڑ کا کنارہ
ضیار	Ziar	ع	کاموں میں کود پڑنے والا
ضیاط	Ziat	ع	سخت آدمی' جھک کر چلنے والا
ضیافشاں	Ziafishan	ع'ف	روشنی بکھیرنے والا
ضیط	Zayat	ع	بہت موٹا ہونا' جسم ہلا ہلا کر چلنا
ضیھی	Zahie	ع	مشابہ و مانند

marfat.com
Marfat.com

ط

طار	Tarr	ع	سبزہ' نوجوان' آغاز
طارف	Taraf	ف	تازہ اور اچھا پھل' نیا حاصل کردہ مال
طارق •	Tariq	ع	رات میں آنے والا' صبح کا ستارہ' مشہور مسلمان سپہ سالار طارق بن زیاد جنہوں نے سپین فتح کیا تھا
طارِف	Tarif	ع	تازہ مال' نیا مال' عمدہ مال' اچھا مال
طائط	Tait	ع	سخت' مضبوط مرد
طائش	Taish	ع	خفیف الحرکات آدمی
طائی	Tai	ع	عرب کے قبیلہ طے سے تعلق رکھنے والا' مشہور صحابی حضرت عدی بن حاتم طائیؓ اسی قبیلہ سے تھے
طالوت	Taloot	عبر	بنی اسرائیل کے ایک سردار کا نام جو سقہ تھا' اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد سے اس کو جالوت کافر پر غلبہ عطا فرمایا تھا اور اس کو حکمرانی عطا کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام حکمران ہوئے تھے
طاع	Taa	ع	فرمانبردار
طاعم	Taam	ع	بے نیاز' کھانے والا' چکھنے والا' کھانے پینے میں اچھی حالت والا
طائر	Tair	ع	اڑنے والے' پرند
طائرِ سدرہ	Taeer-e-sidrah	ا' ع	حضرت جبرئیل جن کا مقام سدرہ پر ہے
طابن	Tabin	ف	دانشمند' فہیم' زیرک' عقلمند' دانا
طائل	Tail	ع	بے قید' آزاد' بے باک' فراخی' وسعت' مالداری

marfat.com

Marfat.com

طاؤس	Taous	ف	مور
طاقدیس	Taqdis	ف	خسرو پرویز کے تخت کا نام جو فارس کا بادشاہ تھا
طابن	Taben	ع	موافق' پسندیدہ' دل پسند' حسب منشا
طابہ	Tabbah	ع	مدینہ منورہ کا نام
طٰہٰ	Taah	ع	اعلیٰ' پاکیزہ' ارفع' پاک' حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صفاتی اسم مبارک
طابق	Tabiq	ع	موافق' پسندیدہ
طاغوت	Taghoot	ع	سرکش' باغی
طالع	Taleh	ع	قسمت' مقدر۔ نصیب۔ طلوع ہونے والا
طالب	Talib	ع	مانگنے والا' طلب کرنے والا' حضرت علیؓ کے والد اور حضورؐ کے چچا ابو طالب۔
طالب عقبیٰ	Talib-e-Uqba	ع' ا	آخرت کا طلب گار' دیندار' پارسا' زاہد
طالش	Talish	ع	روشن' منور' چمکنا' طلوع ہونا' مشہور پاکستانی اداکار طالش
طاہاء	Taha	ع	پاک' ارفع
طاہر	Tahir	ع	پاکیزہ' صاف' پاک' تحریک منہاج القرآن کے سربراہ علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری
طابع	Tabey	ع	فرمانبردار' اطاعت کرنے والا' حکم ماننے والا
طائق	Taiq	ع	گھیراؤ' احاطہ کرنے والا
طامس	Tames	ع	پنہاں' خفیہ' پوشیدہ' چھپا ہوا' دور
طامع	Tamia	ع	حریص' امیدوار' خواہش مند
طائف	Taif	ع	طواف کرنے والا' خواب' رکھوالا' نگہبان' پاسبان
طامہ	Tamey	ع	سختی' قیامت
طالع مند	Taleymand	ع	مقدر والا' خوش نصیب' خوش قسمت

marfat.com

Marfat.com

طارم	Tarem	ع' ا	گنبد' آسمان' بلند مکان' مکڑی کا گھر
طاری	Tari	ع	آشکارہ' عیاں' ظاہر' چھا جانے والا
طاب	Taab	ع	نفیس' خوشبودار' پاکیزہ' خوشگوار
طبیب	Tabib	ع	حکیم' ڈاکٹر' علاج کرنے والا
طباب	Tabab	ع	جس چیز سے علاج کیا جائے
طباع	Tibah	ع	خصلت' عادت' سرشت' طبیعت' اطوار
طباع	Tabaa	ع	دانشمند' زیرک' فہم' عقلمند' باشعور' تلوار بنانے والا
طباطبا	Taba Tabaa	ع	امام حسنؓ کے پوتے حضرت اسماعیل کا لقب
طبخ	Tabakh	ع	عذاب کے فرشتے
طبرس	Tabrass	ع	بہت جھوٹ بولنے والا
طحان	Tahan	ع	آٹا پیسنے والا' آٹا بیچنے والا
طحرت	Tahrat	ع	بادلوں کو اڑا لے جانا
طخرور	Takhroor	ع	پتلی بلدی' مسافر آدمی' وہ شخص جو نہ چست ہو نہ سست
طراح	Tarah	ف	نقاش' معمار' نقش و نگار بنانے والا
طراوت	Tarawat	ع	خنکی' تازگی' ٹھنڈک' شادمانی
طربال	Tarbaal	ف	بلند مینارہ
طریر	Tarir	ع	خوبصورت مرد' حسین و جمیل مرد
طراز	Taraz	ف	نقش و نگار
طرازی	Tarazy	ف	سجانا' آراستہ کرنا' پیراستہ کرنا
طرق	Tiraq	ع	قوت' موٹاپا' پیشہ

marfat.com

Marfat.com

طریف	Tarif	ع	انوکھا' عجیب وغریب' نادر' اسلامی لشکر کے اس قائد کا نام جو اندلس کے ساحل کی جنوبی راس کے مشرقی کنارے بندرگاہ پر سب سے پہلے اترا تھا
طروب	Taroob	ف	پرمسرت' خوش وخرم' شادمان' خوشیاں
طراد	Tarad	ع	رنگین پرچم' رنگدار علم' رنگین جھنڈا' لمبادن
طراد	Tirad	ع	چھوٹا نیزہ' حملہ کرنے والا
طرفس	Terfes	ع	دوربین نگاہ' تیز نظر' تیز نگاہ
طرخان	Terkhan	ت	نیک' شریف' امیر' رئیس' ترکستان کے ایک بادشاہ کا نام
طرید	Tarid	ع	کھوج لگائی ہوئی چیز' سراغ لگائی ہوئی چیز' تلاش کی ہوئی چیز
طریان	Teryan	ع	آشکارہ ہونا' ظاہر ہونا' عیاں ہونا' واقع ہونا' تازگی
طرطوش	Tertoosh	ف	فارس کے ایک پہلوان کا نام
طرف	Terf	ع	سخی' کریم' جواں مرد' سخاوت کرنے والا
طرفہ	Tarfah	ع	خوبصورت لڑکا' نئی اور عمدہ شئی' زمانہ قدیم میں عرب کے ایک مشہور اور ممتاز ترین شاعر کا نام' اس کا پورا نام طرفہ بن عبدالکبری تھا
طس	Tas	ع	رسول کریمؐ کا نام
طعان	Ta,aan	ع	بہت نیزہ مارنے والا' لوگوں کے عیب بیان کرنے والا
طعب	Ta,ab	ع	مہک' خوشبو' مزہ' ذائقہ
طعم	Ta,am	ع	کھاتا پیتا آدمی
طغرل	Tughrel	ت	خاندانی سلجوقی کا وہ حکمران جس نے سلطان محمود غزنوی کے دور میں ترکستان پر قبضہ کیا تھا
طغراء	Tughra	ف' ت' ا	علامت' نشانی' تحریر' مہر
طغرید	Taghreed	ع	چڑیوں کا چہچہانا

marfat.com
Marfat.com

طغان شاہ	Tughanshah	ف	افراسیاب کے خاندان سے ایک مشہور حکمران کا نام
طفحان	Tufhan	ع	بھرا ہوا' معمور' لبریز
طفل	Tifl	ع	ہر نازک چیز' لاڈلا
طفیف	Tafif	ع	تھوڑا' مختصر' قلیل
طفیل	Tafail	ع	سبب' وجہ' ذریعہ' بدولت' وسیلہ' پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے دوسرے نمبر پر میجر طفیل محمد شہید جو مشرقی پاکستان میں لکشمی پور کے سرحدی علاقے میں شہید ہوئے تھے
طفات	Tafaat	ع	غروب آفتاب کا وقت
طلیق	Taleeq	ع	آزاد' بے قید' ہنس مکھ
طلحہ	Talah	ع	تازگی' نعمت' مشہور صحابی حضرت طلحہ بن عبیداللہ" جنگ جمل میں جمعرات کے دن جمادی الآخر ۳۶ھ میں شہید ہوئے۔
طلحیہ	Talehia	ع	کاغذ کا ورق
طلاحی	Talahi	ع	کاغذ کے بہت سے اوراق
طلبیدہ	Talbidah	ف	بلایا ہوا
طلحہ	Talih	ع	کاغذ کا ایک ورق
طلال	Talal	ع	حسین و جمیل' خوبصورت' اسلامی ملک اردن کے حکمران شاہ حسین کے والد کا نام
طلیعہ	Taliha	ع	دستہ' لشکر' جیش' ہراول
طلاب	Tulab	ف	خواہش کرنے والا' امنگ کرنے والا' آرزو کرنے والا
طلق البدین	Talqul Badin	ع	سخی' فیاض

marfat.com
Marfat.com

طلق الیدین	Talqul Yadin	ع	کھلے ہاتھ والا' سخاوت کرنے والا' فیاض' سخی
طلاقت	Talaqat	ع	فصاحت و بلاغت' تیز زبانی
طلق اللسان	Talqul-lisan	ع	فصیح و بلیغ' تیز زبان
طلوب	Taloob	ع	آرزومند' خواہش مند' طالب' امنگ رکھنے والا
طلعبہ	Talabah	ع	لشکر
طلعت	Talat	ع	نظارہ' دیدار' چہرہ' شکل
طلع	Talih	ع	راز کو جاننا' خبر' اطلاع
طلع	Talah	ع	انداز' مقدار' تعداد
طلاوت	Talawat	ع	خوبی' تازگی' تراوٹ' خنکی' رونق
طلاب	Tulab	ع	طلب کرنے والا' طالب کی جمع
طمل	Timal	ع	بدزبان آدمی' دیدہ دلیر' بے باک گدلا پانی' سبز کپڑا' کالا کمبل' گلوبند' کمینہ' احمق' چور' نافرمان' پرانا کپڑا' بدخو' بدحال' میلا کچیلا' ننگا آدمی
طماحر	Tamahir	ع	توندل' بڑے پیٹ والا
طمار	Tumar	ع	اونچی جگہ' بلند مقام
طنار	Tannar	ع	بہت تمسخر کرنے والا' دل لگی باز
طناز	Tanaz	ع	شوخ' مذاق کرنے والا' مزاحیہ
طناب	Tanab	ع	ڈوری' رسی
طور	Toor	ع	فلسطین کے مشہور پہاڑ کوہ سینا کے اس مقام کا نام جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی تجلی دکھائی دی تھی۔
طوقان	Toqan	ع	گھیراؤ کرنے والا' احاطہ کرنے والا

marfat.com
Marfat.com

طوبٰی	Tuba	ع	خوشبودار' پاکیزہ' پاک' رشک' فخر' سعادت' خوشی' خوبی' بہشت کے ایک درخت کا نام
طواط	Tawat	ع	دلیر' بہادر' جری' نڈر' شجاع
طوغ	Toogh	ف	فوج کا پرچم' فوج کا نشان' فوج کا جھنڈا
طوسی	Tusa	ف	کرنجی رنگ' ایران کے ایک شہر طوس کا رہنے والا
طولانی	Tolani	ف	لمبا' دراز
طویس	Tavees	ع	چھوٹا مور' عرب کے ایک مشہور مغنی کا نام' جو آنحضرت کی وفات کے دن پیدا ہوا
طہران	Tehran	ع	پاک' صاف' ستھرا
طہور	Tahoor	ع	نہایت پاکیزہ' پاک کرنے والا
طہارت	Taharat	ع	پاکیزگی' پاکی' پاک ہونا' صفائی
طہورث	Tahooras	ف	فارس کے ایک قدیم بادشاہ کا نام
طہماسپ	Tahmasap	ف	ایران کا ایک قدیم بادشاہ طہماسپ بن منوچہر جو کہ بڑا انصاف پسند اور سخی تھا
طہمورث	Tahmooras	ف	ایران کے قدیم پیشدادی خاندان میں سے تیسرے بادشاہ کا نام
طہیر	Tahir	ع	پاکیزہ' پاک' صاف' منزہ
طٰہٰ	Taah	ع	حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسم مبارک
طیف	Tayyaf	ع	خیال' وسوسہ
طیفور	Taifoor	ع	غیظ وغضب والا' غصیلا' مشہور ولی اللہ حضرت بایزید بسطامیؒ کا اصل نام طیفور بن عیسیٰ بن آدم بن سروشان' آپ کا مزار مبارک بسطام میں ہے۔
طیات	Tayat	ع	بہت پاک' بہت اچھا

marfat.com
Marfat.com

طیار	Tayyar	ع	تیز فہم' اڑنے والا' حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفرؓ بن ابوطالب کا لقب' آپ نے حبشہ میں شاہ حبشہ کے دربار میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے مشہور تقریر کی تھی۔
طیبت	Tayyabat	ع	طیب ہونا' حلال ہونا' پاک ہونا' پاکیزہ ہونا
طیغور	Taighoor	ع	غصے اور غضب والا
طیغون	Taighoon	ع	غصہ' غضب' وہ خیالات جو خواب میں دیکھائی دیں
طیفی	Taifa	ع	مشہور' نامور' مقبول' خواب' پسندیدہ۔
طیور	Tayyoor	ع	بہت اڑنے والا' تیز رفتار
طیفون	Taifoon	ع	غضب' غصہ' جلال' خواب میں آنے والے خیالات
طینت	Tanat	ا'ع	طبیعت' عادت' پیدائش
طیاب	Tayab	ع	انتہائی پاکیزہ' خوب اچھا' خوشبو' مہک
طیب	Tayyab	ع	پاکیزہ' عمدہ' پاک' خوشبو' مہک' حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک صاحبزادے کا اسم مبارک جن کا کمسنی میں وصال ہو گیا تھا
طیبہ	Tayyabah	ع'ا	مدینہ منورہ کا نام' پاکیزہ

marfat.com

Marfat.com

ظ

ظاری	Zari	ع	کاٹ کھانے والا
ظام	Zaam	ع	کلام' آواز' شور
ظامر	Zamir	ع	آشکارہ ہونا' ظاہر ہونے والا' عیاں ہونے والا' نظر آنے والا
ظافر	Zafir	ع	کامیاب' فاتح' فتح مند' جیتنے والا' فتح کرنے والا
ظاہر	Zaher	ع	عیاں' کھلا ہوا' عیاں' سامنے' اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام
ظاعن	Za,an	ع	مسافر' سفر کرنے والا' سیاح' گھومنے والا
ظربان	Zarban	ع	بلی کے مشابہ ایک چھوٹا سا بدبودار جانور
ظرب	Zureb	ع	سخت اور فربہ کا جسم کا گٹھا آدمی
ظرف	Zarf	ا' ع	دانائی' برتن' حوصلہ سمائی
ظریف	Zarif	ع	دانشمند' خوش طبع' عقلمند' زیرک' دانا' بذلہ سنج' لطیفہ گو' مشہور پاکستانی اداکار ظریف
ظرافت	Zarafat	ع	خوش طبعی' عقلمندی' دانشمندی' دل لگی
ظراف	Zaraf	ع	عقلمند' دانشمند' دانا' خوش طبع' مزاحیہ
ظعین	Zaeen	ع	سفر کرنے والا' کوچ کرنے والا' سیر کرنے والا
ظفار	Zaffaàr	ع	ایک خوشبو
ظفر	Zafar	ع	کامیابی' فتح و نصرت' جیت' فتح مندی
ظفر	Zafar	ع	ناخن' کمان کے گوشے' ہموار پست زمین' گھاس سے بھری ہوئی
ظفر جنگ	Zafar jang	ف' ا	ایک فوجی خطاب
ظفیر	Zafir	ع	بہ مقصد میں کامیاب ہونے والا

marfat.com

Marfat.com

ظل	Zil	ع	سایہ، چھاؤں
ظل اللہ	Zil-ul-lah	ع	اللہ کا سایہ
ظلیل	Zaleel	ع	سایہ دار، دائمی سایہ، ٹھنڈا اور سرد
ظلیم	Zaleem	ع	بہت ظلم کرنے والا
ظلیف	Zalif	ع	سخت زمین، مشکل، دشواری، سختی
ظلال	Zalal	ع	بادل کا سایہ، ابر کا سایہ، سائبان، باغ، جنت
ظل الٰہی	Zil-E-Elahi	ع	اللہ تعالیٰ کا سایہ
ظمان	Ziman	ع	پیاسا
ظلام	Zilam	ع	غصیلی نگاہ، ترچھی نگاہ
ظنان	Zanan	ع	بدخلق آدمی
ظنل	Zinal	ع	درختوں کے نیچے کا پانی جس پر دھوپ نہ پڑے
ظنون	Zanoon	ع	سست آدمی، شریف آدمی
ظنی	Zanni	ع	خیالی، قیاسی، واہمی، عقل کے قریب
ظہورا	Zahoora	ا	ظہور، نمود، نمائش، جلوہ بیٹا
ظہور	Zahoor	ع	آشکار ہونا، ظاہر ہونا، انکشاف، اظہار
ظہر	Zahar	ع	بہت سامال، فخر، جنگل کا راستہ
ظہیر	Zahir	ع	دوست، رفیق، معین، مددگار، حمایتی
ظواہر	Zawahir	ع	بلندیاں
ظیان	Zian	ع	شہد، چنبیلی، جنگلی
ظہارت	Zaharat	ع	عیاں، کھلا ہوا، سامنے، آشکارا
ظہوری	Zahoori	ع	ظاہر، عیاں، آشکارا، مشہور نعت گو شاعر محمد علی ظہوری

marfat.com

Marfat.com

ع

عامر	Amir	ع	آباد کرنے والا' لبریز' معمور' بھرا ہوا' حضرت ابوبکر صدیقؓ کے آزاد کردہ غلام جناب عامر بن فہیرہ جو کہ ہجرت مدینہ کے دوران غار ثور میں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صبح وشام بکریوں کا دودھ پہنچایا کرتے تھے
عاشب	Ashib	ع	سبزہ زار
عاشر	Asher	ع	ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والا' پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک اداکار و مصنف عاشر عظیم
عاقر	Aqir	ع	بانجھ عورت' ریت کا اونچا ٹیلہ' مرد بے اولاد' ریت جس میں پیداوار نہ ہو' بے مثل و بے نظیر عورت
عاقل	Aqil	ع	دانشمند' عقلمند' باشعور' سمجھدار' فہیم' زیرک
عاتف	Atif	ع	آزاد
عاتق	Atiq	ع	شانہ' کندھا' آزاد شدہ' رہا شدہ
عائر	Ayer	ع	کثرت' زیادتی' بہتات
عاد	Aad	ع	آدمی' حضرت ہودؑ کی قوم کا نام
عادر	Adar	ع	حرف' عدد' پھسلنے والا
عادس	Ades	ع	ہمیشہ سفر میں رہنے والا' مسافر
عازف	Azif	ع	گانے والا' گلوکار' گویا
عازم	Azim	ع	قصد کرنے والا
عارب	Arib	ع	بہت پانی کی نہر
عارفین	Arfain	ع	اللہ تعالیٰ کے دوست' عارف کی جمع' ولی اللہ

marfat.com
Marfat.com

عادل	Adil	ع	انصاف کرنے والا' انصاف پسند' منصف' جج' ایران کا ایک قدیم بادشاہ نوشیرواں عادل' حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صفاتی اسم مبارک
عاصر	Aser	ع	نچوڑنے والا' روکنے والا' بخیل ممسک
عاصد	Asid	ع	سواری کے جانور کی طرف جانے والا
عاصف	Asif	ع	تیز ہوا' نشانے سے ہٹا ہوا تیر' آندھی
عاضر	Azer	ع	باز رکھنے والا
عابث	abes	ع	کھیلنے والا' کھلاڑی' کھلنڈرا
عابر	Abir	ع	فکر کرنے والا' غور کرنے والا' راستہ چلنے والا' راہ گیر
عالم افروز	Alam Afrose	ف	دنیا کو روشن کرنے والا' دنیا کو چمکانے والا' دنیا کو منور کرنے والا
عالف	Alif	ع	مسجد میں گوشہ نشینی اختیار کرنے والا
عاطس	Atis	ع	مد مقابل' سامنے آنے والا' اجالا' صبح' فجر
عاطی	Ati	ع	لینے والا
عاطب	Azib	ع	جنگل اور خشک مقامات میں اترنے والا
عافق	Afiq	ع	ہر طرف آنے جانے والا' بہت آمد و رفت کرنے والا
عافی	Afi	ع	معاف کرنے والا' غلطی بخشنے والا
عاشق	Ashiq	ع	محب' فریفتہ' چاہنے والا' عشق کرنے والا' محبت کرنے والا' مشہور عالم دین مولانا عاشق الٰہی بلند شہریار
عاجل	Ajil	ع	جلدی کرنے والا' جلد باز' عجلت کرنے والا' تیزی کرنے والا
عاثم	Asim	ع	دیر لگانے والا
عاشر	Aser	ع	دسواں' دہم

marfat.com

Marfat.com

عالم	Alam	ف	دنیا' جہان' دنیا کے سب سے لمبے قد والے آدمی مشہور پاکستانی عالم چنا
عالم	Alam	ع	بہت پڑھا لکھا' علم جاننے والا' دانشمند
عارم	Arem	ع	شوخ' شرارتی' شنگ
عارض	Arez	ف	رخسار' گال
عاقد	Aqid	ع	معاہدہ کرنے والا' عہد کرنے والا' عقد کرنے والا
عالمگیر	Alamgir	ف	دنیا پر چھایا ہوا' دنیا کا لینے والا' دنیا پر غالب' مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر
عادِر	Adir	ع	لفظ' حرف' عدد
عامد	Amid	ع	لمبی رات' طویل رات
عاتم	Atem	ع	مکمل' کامل' اکمل' پورا' مہربان' کرم کرنے والا
عاطر	Atir	ع	سخاوت کرنے والا' سخی' فیاض' مہک والا' خوشبودار
عامل	Amel	ع	عمل کرنے والا
عاقب	Aqib	ع	ولی عہد' جانشین' نائب' پیچھے آنے والا' مشہور پاکستانی کرکٹر عاقب جاوید
عاصم	Asem	ع	نگاہ رکھنے والا' باز رکھنے والا' نگہبان' نگران' نگرانی کرنے والا' حفاظت کرنے والا' پاسبان رکھوالا' ایک صحابی حضرت عاصم بن ثابتؓ جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے
عابد	Abed	ع	اطاعت کرنے والا' عبادت کرنے والا' بندگی کرنے والا' مشہور اداکار عابد علی
عائش	Aish	ع	اچھی زندگی گزارنے والا' بہتر زندگی بسر کرنے والا
عاکف	Akaf	ع	گھنگریالے بالوں والا
عاکف	Akif	ع	اعتکاف کرنے والا' گوشہ نشین

marfat.com

Marfat.com

عاکی	Aki	ع	ٹھہرنے والا' مقیم
عائف	Aif	ع	گھنگھریالے بالوں والا
عائل	Aell	ع	جھکا ہوا' ترازو' غالب' درویش و مفلس' نیاز مند' عاجز محتاج
عائم	Aeam	ع	تیرنے والا
عاید	Ayad	ع	عید کرنے والا' وعدہ کرنے والا' اقرار کرنے والا
عاتک	Atiq	ع	نیک' شریف' اصلی' سچا' خالص
عارف	Arif	ع	ولی اللہ' پہچاننے والا' ایک ولی اللہ حضرت شیخ عارف چشتیؒ آپ کا وصال مغل بادشاہ شاہ جہاں کے عہد میں ۱۶۵۴ء میں لاہور میں ہوا۔ مزار مبارک قبرستان میانی صاحب میں ہے
عارفین	Arifain	ع	ولی اللہ
عائد	Ayed	ع	لوٹ کر آنے والا' واپس آنے والا' پلٹ کر آنے والا
عائذ	Aeze	ع	پناہ لینے والا
عائز	Aeze	ع	فقیر محتاج آدمی
عازِم	Azim	ع	قصد کرنے والا' نیت کرنے والا' ارادہ کرنے والا
عاص	Aas	ع	نظر رکھنا' نگاہ رکھنا' حضور نبی کریم ﷺ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینبؓ کے خاوند ابوالعاص بن الربیعؓ
عانش	Anesh	ع	لڑائی کے بعد صلح کرنا
عانک	Anak	ع	شریف' خالص
عالی	Ali	ع	اونچا' بلند' مشہور صحافی اور شاعر جمیل الدین عالی
عالی الکعب	Ali-al-kab	ع	شریف آدمی
عافین	Afien	ع	بخشنے والا' معاف کرنے والا
عاس	Ass	ع	چوکیدار' پاسبان

marfat.com

Marfat.com

عاسل	Asel	ع	نیک، شریف
عاسم	Asim	ع	حریص اور لالچی، اہل وعیال کو رنج اور سختی پہنچانے والا
عاتن	Aten	ع	مضبوط، طاقتور، قوی
عابس	Abes	ع	شیر
عاذر	Azer	ع	معافی طلب کرنے والا
عاجز	Ajiz	ع	مجبور
عاجف	Ajif	ع	تیز ہوا، آندھی، نشانے سے ہٹا ہوا تیر
عائث	Aess	ع	شیر
عائق	Aiq	ع	منع کرنے والا، روکنے والا
عاطف	Atif	ع	عنایت کرنے والا، شفیق، مہربانی کرنے والا
عاذور	Aazwar	ع	بدی، فساد، داغ، نشان
عاذل	Azil	ع	ملامت کرنے والا
عافر	Afer	ع	جلدی کام ختم کرنے والے
عاہد	Ahid	ع	وعدہ پورا کرنے والا، عہد کرنے والا
عاہل	Ahell	ع	بڑا بادشاہ
عاہن	Ahen	ع	عاجز، درویش، حاضر و مقیم
عبد	Abd	ع	بندہ، غلام
عبیر	Abeer	ع	خوشبو، مہک، مشہور مزاحیہ شاعر عبیر ابوذری
عبقر	Abqer	ع	چمکنا، روشن ہونا، منور ہونا، سراب
عبادت	Ibadet	ع	بندگی، اطاعت، فرمانبرداری، ایک نام ڈاکٹر عبادت بریلوی
عبسار	Absar	ع	فقیری، درویش
عبیل	Abeel	ع	توانا، فربہ، موٹا، قوی، تندرست، صحتمند
عبرت	Ibrat		سبق، نصیحت

marfat.com

Marfat.com

عبا	Aba	ع	چغہ، درویشوں کا ایک خاص لباس
عباس	Abbas	ع	شیر، حضور نبی کریم ﷺ کے سب سے چھوٹے چچا کا نام، ان کی اولاد سے عباسی خلفاء ہوئے ہیں۔
عبال	Abbal	ع	ایک قسم کا پہاڑی گلاب کا درخت جس سے لاٹھیاں بنائی جاتی ہیں
عبام	Abam	ع	عاجز و درماندہ، بھاری جسم کا آدمی
عبداللہ	Abdullah	ع	اللہ تعالیٰ کا بندہ، حضور نبی کریم ﷺ کے والد محترم کا اسم مبارک
عبید	Abaid	ع	بہت سے غلام
عبیداللہ	Abaidullah	ع	اللہ کا غلام تیز ایک اموی والی اور فاتح کا نام جو پچیس سال کی عمر میں خراساں کا والی مقرر ہوا پورا نام عبیداللہ بن زیاد تھا
عبید	Ubaid	ع	چھوٹا غلام
عبیدہ	Ubaida	ع	چھوٹا غلام، مشہور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت ابوعبیدہ بن الجراحؓ آپ کا اصل نام عامر تھا، آپ کی قبر مبارک اردن میں موجود ہے
عباد	Abad	ع	اطاعت کرنے والے، بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والے
عبدالقادر	Abdul Qadar	ع	اللہ تعالیٰ کا بندہ، قادر کا بندہ، حضور غوث اعظمؒ کا اصل نام سید عبدالقادر جیلانیؒ، مزار مبارک بغداد شریف عراق میں ہے
عبدالمطلب	Abdul Mutlib	ع	حضور نبی کریم ﷺ کے دادا کا نام
عبدالمناف	AbdulManaf	ع	حضور نبی کریم ﷺ کے دادا کے دادا کا نام

marfat.com
Marfat.com

عبدالملک	Abdul Malak	ع	اللہ تعالیٰ کا بندہ' مشہور اُموی خلیفہ عبدالملک بن مروان جو رمضان میں پیدا ہوا' رمضان میں ہی ماں کا دودھ چھوڑا' رمضان ہی میں قرآن پاک ختم کیا' رمضان ہی میں بالغ ہوا' رمضان ہی میں ولی عہد سلطنت بنا' رمضان ہی میں تخت پر بیٹھا اور ماہ شوال میں انتقال کر گیا۔
عبدالرحمن	Abdul Rahman	ع	اللہ تعالیٰ کا بندہ' رحمن کا بندہ' مشہور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف' تمام غزوات میں شریک رہے' غزوۂ تبوک میں حضور نبی کریم ﷺ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ ۳۲ھ میں وصال ہوا اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔
عبنار	Abnar	ع	روشن' چمکدار' منور' تاباں' درخشاں
عبیث	Abees	ع	ایک پھول کا نام
عبق	Abq	ع	خوشبودار' مہکا ہوا
عیاش	Ayyash	ع	عیش پر رہنے والا
عیال	Ayal	ع	جنگلی گلاب کا پھول
عیاں	Ayyan	ع	ظاہر آشکارا
عباد	Ibad	ع	بندہ' غلام
عتاب	Atab	ع	غضب' غصہ' ملامت' حضور نبی کریم ﷺ کے پیارے صحابی حضرت عتاب بن اسید جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے' فتح مکہ کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ کا عامل مقرر کیا گیا۔ پچیس یا چھبیس برس کی عمر میں ۱۳ھ میں وصال فرما گئے۔
عتات	Attat	ع	غصہ' غضب' خفگی' آنحضرت ﷺ کے ایک صحابی کا نام جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے
عتار	Attar	ع	دلاور وقوی گھوڑا' سخت وخالی مقام

marfat.com
Marfat.com

عتاف	Utaf	ع	آزادی
عتیل	Atteel	ف	پیاسا، تشنہ
عتیل	Atil	ع	خدمت کرنے والا، محنت کرنے والا، مزدور، خادم
عتید	Ateed	ع	موجود، حاضر، تیار، راضی، آمادہ، مہیا
عترت	Itrat	ع	قریبی رشتے دار، نزدیکی رشتہ دار
عتیف	Ateef	ع	سرکش، باغی، تیز
عتاق	Attaq	ع	رہائی، آزادی، آزاد ہونا
عتریس	Atrees	ع	سخت باغی، بہت زیادہ سرکش، غصیلا
عتبل	Atbal	ع	مزدور، خادم
عتبہ	Atba	ع	چوکھٹ، آستانہ، زینہ، ایک ولی اللہ حضرت عتبہ بن غلامؒ جو تبع تابعین میں سے ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ کے مرید ہیں ۱۶۷ھ میں وصال ہوا
عتیق	Attique	ع	بزرگ، برگزیدہ، پرانا آزاد کردہ غلام، حضرت ابوبکر صدیقؓ کا لقب مبارک
عتاد	Atad	ع	سفر کا سامان، سفر کی تیاری
عثان	Ussan	ع	غبار، دھواں
عثمان	Usman	ع	خوبصورت قلم، خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنیؓ آپ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ آپ نے ۱۳ ذی الحجہ ۳۵ھ کو جمعہ کے دن مدینہ طیبہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت زبیرؓ نے پڑھائی۔ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔
عجرم	Ajram	ع	گٹھے ہوئے، مضبوط بدن کا آدمی
عجلان	Ajlan	ع	جلدی کرنے والا

marfat.com
Marfat.com

عجیل	Ajeel	ع	جلدی کرنے والا' عجلت کرنے والا' تیز چال والا' جلد باز
عجیف	Ajeef	ع	برداشت کرنے والا' کمزور دبلا' پتلا
عجب	Ajab	ع	نرالا' انوکھا
عجیب	Ajeeb	ع	نرالا' نادر' انوکھا
عجاب	Ujab	ع	عجیب' نرالا' تعجب' انوکھا' حیران کن
عجالت	Ajaalat	ع	جلدی' تیزی
عدید	Adeed	ع	ہم مثل' ہم سر' شمار' ہم پلہ' ہم پایہ
عدیرہ	Adeerah	ع	حصہ' جزء
عدین	Adeen	ع	جذباتی' عیش پسند
عدین	Adin	عبر	بہشت میں رہنے والا
عدالت	Adalat	ع	انصاف' عدل' مساوی' عدل کرنا' انصاف کرنا
عدار	Addar	ع	ملاح
عدبس	Adbuss	ع	قوی' مضبوط' گٹھے ہوئے جسم والا' بداخلاق' بدصورت
عدبی	Adbi	ع	اچھی عادت والا' خوش اخلاق آدمی' بے عیب
عدل	Adal	ع	انصاف' برابری
عدرج	Adrraj	ع	ہلکا اور تیز رو
عدم	Adam	ع	درویش محتاج
عدی	Adi	ع	حاتم طائی کے بیٹے کا نام جو مسلمان ہو گئے تھے
عدیل	Adeel	ع	منصف' عادل' انصاف کرنے والا' برابر' عزت و مرتبہ میں مساوی' نظیر' یکساں' مانند
عدنان	Adnan	ع	بہشت میں رہنے والا' جنت میں رہنے والا
عدیم	Adeem	ع	نایاب' ناپید' گم' معدوم
عدوہ	Adooh	ع	دریا کا کنارہ

marfat.com

Marfat.com

عدول	Adool	ع	سچا' پرہیز گار' بڑا عادل' انصاف کرنے والا
عداد	Adad	ع	ساتھی' رفیق' بخشش' شمار
عذبہ	Uzbah	ع	جھنڈا' علم' پرچم
عذافر	Uzafer	ع	شیر
عذال	Azzal	ع	بہت ملامت کرنے والا' نصیحت کرنے والا
عذرا	Azra	ا' ع	رخسار' چہرہ' گل رخ
عذیر	Azir	ع	عذر کرنے والا' بہانہ کرنے والا
عذبہ	Azbah	ع	جھنڈا' علم' پرچم
عذافر	Uzafir	ع	شیر
عذیر	Azir	ع	عذر کرنے والا' بہانہ کرنے والا
عذار	Azar	ع	رخسار' گال' چہرہ' عارض
عر	Ar	ع	بزرگی
عراق	Iraq	ا' ع	دریا کا کنارہ' ایک راگ' ایک ملک کا نام
عراہیم	Araheem	ع	موٹی اونٹنی' شیر
عرجب	Urjab	ع	سورج کا مائل
عرجت	Arjat	ع	آفتاب کا مائل بہ غروب ہونا
عرزال	Arzaal	ع	شیر کا مسکن
عرزم	Irzm	ع	شیر
عرزم	Irzam	ف	لمبے بال' گیسو دراز
عرصم	Arsam	ع	شیر
عریض	Areez		وسیع' چوڑا' پھیلا ہوا
عریر	Areer	e	نا آشنا' اجنبی' ناواقف
عرین	Areen	ف	جنگل

marfat.com
Marfat.com

عریم	Areem	ع	مصیبت و سختی
عرفی	Urfi	ع	رسمی، مشہور، معروف، ایران کا مشہور شاعر جمال الدین شیرازی عرفی جس کا انتقال لاہور میں ہوا تھا اور اس کو شاہی قلعہ کے پاس دفن کیا گیا تھا
عرفان	Urfan	ع	شناخت، پہچان، معرفت
عرقال	Irqall	ع	کج رو آدمی جو سیدھی راہ پر نہ آئے
عرقیل	Irqeel	ع	انڈے کی زردی
عروج	Urooj	ع	بلندی، ترقی
عروہ	Urwah	ع	ذریعہ، وسیلہ، واسطہ، گوشہ
عروس	Aroos	ع	دولہا
عریس	Urees	ع	دولہا، نوشہ
عرید	Ureed	ع	خصلت، عادت، انداز، طریقہ، اطوار
عریف	Ureef	ع	سردار، رئیس، امیر، قوم
عروف	Aroof	ع	صابر، صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، شناخت کرنے والا
عروض	Arooz	ع	گوشہ، کنارہ، پہاڑ کے اندر کا راستہ
عریش	Arees	ع	چھپر، سائبان، باغ میں بنا ہوا مکان
عرش	Arsh	ع	آسمان، تخت، چھت
عرب	Arab	ع	ملک عرب، عرب کا باشندہ، فصیح خوش بیان
عربی	Arbi	ع	عرب کا رہنے والا، عرب کی زبان، ایک نام غلام عربی
عرابی	Araabi	ع	عرب کا باشندہ، مصر کے ایک رہنما عرابی پاشا
عرباض	Irbaz	ع	سخت، قوی، مضبوط آدمی یا اونٹ قد آور، چوڑے سینہ کا شیر ببر
عربان	Urban	ع	بیعانہ
عربان	Arbaan	ع	فصیح و بلیغ، قادر الکلام

marfat.com

Marfat.com

عربس	Irbiss	ع	آخر شب میں اترنے کے لئے نرم زمین کا بلند و ہموار ٹیلا
عرزال	Arzaal	ع	شیر کا مسکن
عرشی	Arshi	ف	اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہنے والا' فرشتہ
عرفات	Arfat	ع	مکہ مکرمہ سے تقریباً چھ میل کے فاصلے پر ایک میدان کا نام' مشہور فلسطینی رہنما جناب یاسر عرفات
عز	iez	ع	بزرگی' عزت' احترام' شرف
عزبہ	Azbah	ع	پرچم' میٹھا
عزالدین	izuddin	ع	دین کی عزت' دین کا شرف
عزمی	Azmi	ع	عزم والا' ارادے والا' قصد کرنے والا
عزوم	Azoom	ع	شیر
عزیر	Uzair	ع	ایک مشہور پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام
عزیز	Aziz	ع	پیارا' محبوب' لائق' اہل' کمیاب' نادر' زبردست' غالب' اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی اسم مبارک۔ لاہور کے مشہور صوفی بزرگ سید عزیز الدین المعروف پیر مکی صاحبؒ۔ آپ کا وصال سلطان شمس الدین التمش کے زمانہ میں ۱۲۱۵ء میں لاہور میں ہوا۔
عزم	Azm	ع	قصد' ارادہ' نیت' ایک نام عزم الحق
عزم الحق	Azm-ul-haq	ع	پختہ ارادہ
عزت	izzat	ع	تکریم' توقیر' حرمت' آبرو' احترام' مہینوال کا اصل نام مرزا عزت بیگ۔ ترکی کے ایک سیاسی رہنما عزت پاشا
عزلت	Azlat	ع	گوشہ نشینی' علیحدگی' تنہائی
عزیف	Azif	ع	ہوا کی سرسراہٹ
عسکر	Asker	ع	فوج' لشکر' جیش' سپاہ

marfat.com

Marfat.com

عسیف	Asaif	ع	مزدور' محنت ومشقت کرنے والا
عسقلان	Asqalan	ع	شام کا ایک شہر' ایک ندی کا نام' علامہ ابن حجر عسقلانی کی اس شہر میں پیدائش ہوئی تھی
عسکری	Askari	ع	سپاہی' لشکری' فوجی
عسبار	Asbaar	ع	بھیڑیے کا بچہ
عسابر	Asaber	ع	چیتا
عسجد	Asjad	ع	قیمتی پتھر' سونا
عشیر	Ashir	ف	ہمسائے' پڑوسی' کنبہ والا' خاندان والا
عشیب	Ashab	ع	ٹھنگنا آدمی' بہت گھاس والی جگہ
عشیق	Asheeq	ف	باہم محبت کرنے والا' بہت دوست رکھنے والا
عشارب	Asharab	ع	بہادر مرد' جری مرد' دلیر مرد' شیر
عشارم	Usharim	ع	شہر
عشرت	ishrat	ع	خوشی' مسرت' عیش ونشاط
عشیرہ	Asheera	ع	کنبہ' قبیلہ' خاندان
عشرین	Ashreen	ع	بیسواں' بیس
عصفر	Asfer	ع	کسم کا پھول
عصمت	ismat	ع	پاکدامنی' پارسائی' عزت' بے گناہی' ایک نام عصمت کمال پاشا
عصوم	Asuom	ع	بہت کھانے والا
عصیب	Asib	ع	طرفدار' حمایتی' معاون' مضبوط' پائیدار' رشتہ دار
عصار	Assar	ع	نچوڑنے والا
عصام	Assam	ع	بازرکھنے والا' نگاہ رکھنے والا' نظر رکھنے والا
عصفور	Asfoor	ع	چڑیا

marfat.com
Marfat.com

عصم	Asm	ع	ناموس' عزت' احترام
عضاد	izad	ع	بازوبند' کنگن' تعویذ
عضد الدولہ	Azd-Dul-Dola	ع	حکومت کا بازو' سلطنت کا بازو' شیراز کا ایک حکمران عضدالدولہ
عضر	Azar	ع	خوش قسمت' مبارک
عضروط	Uzroot	ع	مزدور' خادم' کسی کے پیچھے دوڑنے والا
عضیض	Azeez	ع	ہم عمر' حریف
عطار	Attar	ع	عطر فروخت کرنے والا' کندھی
عطابخش	Ata Baksh	ف	آزاد' بے قید
عطاءالحق	Ataul Haq	ع	حق کا انعام' حق کی عطاء' مشہور ادیب جناب عطاء الحق قاسمی
عطاء	Ata	ع	بخشش' انعام
عطافت	Atafat	ع	مہربانی' عنایت
عطوف	Atoof	ع	رحم دل' شفیق' مہربان' شفقت کرنے والا
عطاکن	Ataken	ت	بڑا' نیک شخص
عطاط	Atat	ع	دلاور' بہادر' جری' شجاع' جسیم' موٹا' فربہ
عطیہ	Atya	اُ ع	انعام' بخشش' عطا' دی ہوئی چیز
عظمت	Azmet	ع	بزرگی' شان' شوکت' بڑائی' قدر
عظم	Azm	ع	بڑائی' بزرگی' شان
عظیم	Azim	ع	بڑائی' بزرگی' بڑا' لاہور کے ایک صاحب کمال بزرگ شیخ محمد عظیم قادریؒ جن کا مزار مبارک بیگم کوٹ شاہدرہ لاہور میں ہے۔ احمد شاہ ابدالی کے عہد میں ۱۷۶۷ء میں وصال ہوا۔

marfat.com
Marfat.com

عظیم الشان	Azim ushan	ع	بڑی شان والا
عظام	Azaim	ع	بزرگ' بڑا' عظیم
عغر	Ugher	ع	مبارک' مقدر والا' خوش بخت
عفیف	Afif	ع	پاکباز' پارسا' پاکدامن' ایک ولی اللہ حضرت شیخ عفیف الدین تلمسانیؒ جن کا وصال ۶۹۰ھ میں ہوا
عفت	iffat	ع	پاکدامنی' پارسائی' پرہیز گاری' ایک نام عفت اللہ۔
عفو	Afoo	ع	درگزر کرنا' بخش دینا' معاف کرنا
عفاش	Afash	ع	گھنی ڈاڑھی والا
عفاف	Ifaf	ع	پرہیزگار
عفان	Affan	ع	درگزر کرنے والا' معاف کرنے والا' خلیفہ سوم حضرت عثمان غنیؓ کے والد کا نام۔
عفشال	Afshal	ع	شوخ و بے باک آدمی
عقاب	Aqab	اُ ع	مشہور شکاری پرندہ' باز' شاہین
عقد	Aqad	اُ ع	ہار' موتیوں کی لڑی' نکاح
عقلہ	Aqlah	اُ ع	گرہ بند
عقیان	Iqyan	ع	خالص سونا
عقیب	Aqeeb	ع	پیروی کرنے والا' پیچھے آنے والا' پیروکار
عقیل	Aqeel	ع	سمجھدار' عقلمند' دانشمند' سیانا' حضرت علیؓ کے بھائی حضرت عقیل بن ابوطالبؓ
عقیف	Aqeef	ف	سرکش' باغی
عقیق	Aqeeq	ع	یمن کا ایک سرخ بیش قیمت پتھر
عقول	Aqool	ع	سمجھدار' عقلمند' دانشمند

marfat.com
Marfat.com

عکار	Akkar	ا،ع	متواتر حملے کرنے والا
عکاشہ	Ukasha	ع	عنکبوت' مکڑی' حضور نبی کریم ﷺ کے پیارے صحابی حضرت عکاشہ بن محصن اسدی' تمام غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا
عکرمہ	Ukerma	ع	کبوتری' ابوجہل کے بیٹے حضرت عکرمہ جو جید صحابی اور حضور نبی کریم ﷺ کے جانثاروں میں سے تھے۔
عکاس	Akkas	ع	عکس اتارنے والا' تصویر اتارنے والا
عکوف	Akoof	ع	لازم پکڑنا' موتیوں کا لڑی میں منسلک ہونا' روکنا' مقیم ہونا' ٹھہرنا مسجد میں اعتکاف کرنا اور گوشہ نشین ہونا
علم	Ilm	ع	آگاہی' واقفیت' مشہور عاشق رسول غازی علم الدین شہید جنہوں نے گستاخ رسول راج پال کو قتل کر دیا تھا۔ قائداعظم محمد علی جناح نے آپ کا مقدمہ لڑا۔ انگریزوں نے آپ کو پھانسی کی سزا دی۔ مزار مبارک قبرستان میانی صاحب لاہور میں ہے۔
علف	Alif	ع	بہت کھانے والا
علمی	Ilmi	ع	آگاہی رکھنے والا' واقف
علاف	Allaf	ع	چارہ بیچنے والا
علام	Alam	ع	آگاہی رکھنے والا' عالم' بہت جاننے والا' واقف' راہ کا نشان' شناسا
علہب	Alhab	ع	لمبے سینگوں والا بکرا' نیل گائے' بلند قامت آدمی
علی	Ali	ع	بلند' اونچا' ارفع' اعلیٰ' خلیفہ چہارم حضرت علیؓ آپ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں شریک رہے۔ رمضان المبارک ۴۰ھ میں شہادت ہوئی۔ نماز جنازہ امام حسنؓ نے پڑھائی۔

marfat.com
Marfat.com

علیٰ	Alaa	ع	اعلیٰ' اونچا' بلند' خلیفۂ چہارم اور حضور ﷺ کے چچا زاد بھائی حضرت علیؓ
علیق	Aleeque	ع	ایک قسم کا سفید کپڑا جس پر بطور کاغذ لکھتے ہیں
علیون	Alyun	ع	جنت کا بالا خانہ' ساتویں آسمان میں ایک مقام جہاں مومنین کی ارواح رہتی ہیں' بلند مقامات کے باشندے
علاء	Ulma	ع	بزرگی' اعلیٰ' بلند' اونچا
علاؤ الدین	Alauddin	ع	دین کا نام بلند کرنے والا' مشہور خلجی سلطان علاؤ الدین خلجی جو سلطان جلال الدین خلجی کا بھتیجا اور داماد تھا۔
علوج	Alooj	ع	پیغام' پیغمبر
علوان	Ulwan	ع	بلندی' اونچائی' اعلیٰ وارفع' عالی رتبہ
علوی	Alvi	ع' ا	حضرت علیؓ سے منسوب
علیم	Aleem	ع	عالم' جاننے والا' دانا' واقفیت رکھنے والا
علمدار	Alamdar	ع	علم اٹھانے والا' پرچم اٹھانے والا' جھنڈا اٹھانے والا
علامی	Alami	ع	بہت بڑا عالم' بہت زیادہ جاننے والا' خوش مزاج' پھرتیلا' تیز فہم
علیان	Alyan	ع	دراز قامت' بلند لوگ' اعلیٰ وارفع لوگ۔
علامہ	Allama	ع	عالم' بہت زیادہ جاننے والا' بڑا لائق
عمار	Ammar	ع	دستار' پگڑی' تاج' پکا نمازی' صاحب علم و وقار' ایک صحابی حضرت عمار بن یاسرؓ۔ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے والے حضرت عمارؓ کے ماں باپ تھے۔ حضرت عمارؓ جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔
عمار	Amar	ع	ستون' کھمبے
عمامہ	Ammamah	ع	پگڑی' دستار' تاج' خود

marfat.com
Marfat.com

عمیر	Umair	ع	بھرا ہوا' معمور' لبریز
عمر خیام	Umer Khayam	ع	ایک مشہور شاعر کا نام۔
عمران	Imran	ع	آبادی۔ حضور نبی کریم ﷺ کے چچا ابو طالب کا اصل نام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام۔
عمر	Umr	ع	زندگی' عرصہ' مدت' معیاد' سن' خلیفہ دوم مشہور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عمر فاروقؓ۔ آپ ذی الحجہ ۲۳ھ کو شہید ہوئے۔ آپ کے جنازے کی نماز حضرت صہیبؓ نے پڑھائی۔
عمر اللہ	Umer Ullah	ع	خدا کی قسم
عمروط	Umroot	ع	چور' مفلس' مضبوط' اصیل اونٹ
عمری	Umri	ع	زندگی' معیاد' عرصہ' میری عمر' مدت
عمیثل	Amesal	ع	مٹاپے کی وجہ سے سست آدمی' عمدہ گھوڑا' ناز سے دامن گھسیٹ کر چلنے والا چست آدمی
عمیل	Umeel	عبر	محنتی' جفاکش
عمیل	Amil	ع	آڑھتی' بیوپاری
عمیم	Amim	ع	کامل' اکمل' تمام' پورا' مکمل
عمیق	Ameeque	ع	گہرا' لمبا راستہ
عماز	imaz	ع	مہربانی' عنایت' کرم
عمید	Ameed	ع	رئیس' رہنما' لیڈر' سردار' امیر
عمیدر	Ameedar	ع	نازک بدن اور مال دار بچہ
عماد	Amad	ع	کھمبا' ستون' اعتبار' مشہور جرنیل عماد الدین محمد بن قاسم

marfat.com
Marfat.com

عنصر	Ansar	ع	جز' بنیاد
عنفوان	Anfwan	ع	طاقت' تازگی' کسی چیز کا آغاز
عنوان	Unwan	ع	آغاز' شروع' دیباچہ' سرنامہ' سرخی' مشہور ولی اللہ حضرت حاتم کے والد جناب عنوان اصم۔
عمو	Amev	ع	عاجزی' انکساری' ہرات کے ایک مشہور ولی اللہ حضرت شیخ عموؒ۔ مزار مبارک ہرات میں ہے۔
عمول	Amool	ع	محنتی' مزدور' محنت کرنے والا
عمرد	Ammrad	ع	سخت مزاج و طاقت ور آدمی
عمر دراز	UmerDraz	ع	زندگی میں برکت' عمر لمبی ہو بڑی عمر ہو۔
عمش	Amash	ع	بھلائی' یہودی' موافق و برابر
عمدار	Amdar	ع	رخسار
عمدان	Umdan	ع	لشکر کا پیغام لے جانے والا
عمدۃ الملک	Amdah Tulmalak	ع	شاہی دور کے اعلیٰ افسران کا خطاب
عمود	Amood	ع	ستون' سہارا' سپہ سالار' کمانڈر
عمور	Umoor	ع	گھر سے جدا نہ ہونا' آباد رکھنا
عمرط	Amarat	ع	لمبا' دراز
عمرط	Amert	ع	دلیر آدمی' بہادر آدمی' چھریرا جواں
عمران	Umran	ع	زندگی والے' عمر والے
عمان	Amman	ع	حفاظت' پناہ' نگرانی' نگہبانی' گہرا سمندر
عمرس	Amers	ع	طاقتور آدمی' مضبوط شخص' قوی شخص
عنابس	Anabiss	ع	شیر
عنابی	Anabi	ع	عناب کے رنگ کا سیاہی مائل سرخ رنگ کا

marfat.com
Marfat.com

عنایت	Anayet	ع	کرم' توجہ' مہربانی' لطف' مشہور بزرگ حضرت شاہ عنایت قادری شطاری"۔ آپ کے مریدین میں حضرت سید بلھے شاہ" بھی شامل ہیں۔ آپ کا انتقال محمد شاہ رنگیلا کے عہد میں ہوا۔ مزار مبارک کوئنز روڈ لاہور پر واقع ہے۔
عنان	inan	ع	ابر' بادل' اونچائی' آسمان کی بلندی
عنان	Anan	ع	سبقت لے جانے والا' بازی لے جانے والا
عناق	Anaq	ع	معانقہ کرنا' بغل گیر ہونا
عنقاد	Anqad	ع	انگور وغیرہ کا خوشہ
عنیار	Aniar	عبر	روشن
عنید	Anaid	ف	جنگجو' لڑاکا' باغی' سرکش
عُنید	Unaid	ف	جنگجو' لڑاکا' باغی' سرکش
عنیل	Aneel	ع	محنت کرنے والا
عنین	Anneen	ع	نامرد' جو عورت کی خواہش نہ رکھے
عناس	Anas	ع	زبردست' قوی' طاقتور' زور آور' عتاب۔
عنان	Inan	ع	رسی' ڈور' باگ ڈور۔
عندل	Andal	ع	بلبل
عُنصر	Unser	ع	جز' بنیاد' ارادہ' قصد' ہمت
عناس	Inas	ع	شیشہ' آئینہ
عندلیب	Andleeb	ع	بلبل
عنبار	Anbaar	ع	روشنی' چمکدار
عنبر	Anber	ع	ایک خوشبودار موم
عنبس	Anbas	ع	شیر
عنبہ	Anbha	ع	ایک عرب کا نام

marfat.com

Marfat.com

عنیق	Anique	ع	گردن کسی کے گلے میں بانہیں ڈال کر لٹکنے والا
عنیف	Aneef	ف	سرکش باغی تیز
عنادل	Anadel	ع	بلبل
عنیف	Aneef	ع	لڑاکا جھگڑا کرنے والا
عود	Aud	ع	ایک خوشبو واپسی پلٹنا لوٹنا
عودان	Udan	ع	نبیؐ کا ممبر اور عصائے مبارک
عوام	Awam	ع	تیز گھوڑا مشہور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیرؓ کے والد کا نام۔
عون اللہ	Aunallah	ع	اللہ تعالیٰ کی مدد
عواقب	Awaqib	ع	آخر انجام
عوض	iwez	ع	معاوضہ قیمت قائم مقام بدل
عواطف	Awatef	ع	مہربانی کرنے والے عنایت کرنے والے لطف و کرم کرنے والے عنایات مہربانیاں
عویس	Awais	ع	رفیق حمایتی دوست مددگار معاون طرفدار ہنستے ہوئے جس کے رخسار میں گڑھے پڑیں۔
عوزر	Auzer	ت	سچا اصلی خالص
عون	Aun	ع	طرفدار حمایتی مددگار معاون
عوئمر	Auemer	ع	حضرت ابوبکر صدیقؓ کے سسر کا نام
عویص	Awais	ع	قوت طاقت نفس سخی فیاض مشکل
عوید	Awaid	ع	عنایت کرنے والا مہربانی کرنے والا
عوین	Awain	ع	مددگار معاون مدد کرنے والا
عوزر	Ouzar	ت	خالص
عوزل	Auzal	ت	مخصوص خاص مرغوب خاطر

marfat.com
Marfat.com

عوان	Awan	ع	زبردست لڑائی' بارش شدہ زمین
عواد	Awad	ع	مہربانی' کرم' عنایت' بربط
عوز	Auz	ع	انگور کا دانہ
عوارف	Awaref	ع	احسان کرنے والے' عنایت کرنے والے' خوشبویات
عہید	Aheed	ع	ہم عصر' ہم زمانہ' ہم عہد' ایک زمانے کا۔
عیث	Ais	ع	پھول
عیش	Aish	ع	آسائش' خوشی' عشرت' نشاط' آرام' ایک نام عیش بہادر
عیاث	Ayass	ع	شیر
عیاد	Ayad	ع	مٹک مٹک کر چلنے والا گھوڑا یا آدمی
عیاذ	Ayaz	ع	گناہ سے بچنا' پناہ کی جگہ' حفاظت کی جگہ' بچاؤ کا مرکز' ایک نام عیاذ باللہ
عین	Ain	ع	آنکھ' پانی کا چشمہ' اعلیٰ' عمدہ' ہمدان کے ایک مشہور ولی اللہ حضرت عین القضاۃ ہمدانیؒ جو کہ امام احمد غزالیؒ کے ہم عصر تھے۔ ۵۳۰ھ میں وصال ہوا۔
عین الحیات	Ain-ul-hayat	ع	آب حیات کا چشمہ
عین النور	An-ul-Noor	ع	ایک ستارہ
عیص	Ees	ع	گھنا درخت' سایہ دار' طاقت' قوت' زور' نفس' سخی' فیاض' حضرت اسحٰق علیہ السلام کے بیٹے کا نام۔ رومی آپ کی اولاد میں سے ہیں۔
عیصوم	Aysoom	ع	بہت کھانے والا' بڑی خوراک والا
عیار	Iyar	ع	تولنا' سونے اور چاندی کی چاشنی لینا
عیاذ	iyaz	ع	بچاؤ' پناہ' حفاظت

marfat.com

Marfat.com

عیاں	Ayaan	ع	ظاہر' آشکارا
عیسیٰ	Eisa	ع	گناہ سے بچانے والا' مشہور پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب انجیل نازل ہوئی۔
عیون	Uyoon	ع	آنکھیں' چشمے
عیوق	Ayooq	ع	ایک روشن سرخ ستارہ
عیوث	Aydos	ع	شیر
عید	Eid	ع	بار بار آنے والا' خوشی کا تہوار' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت شیخ عیدے شاہ قادری نوشاہی ملکہ وکٹوریہ کے عہد میں ۱۸۹۷ء میں وصال فرمایا۔ مزار مبارک لاہور میں ہے
عیدان	Aydan	ع	بداخلاق اور اکھڑ آدمی
عیزار	Ayzar	ع	مضبوط و سخت چیز' چست اور پھرتیلا لڑکا' ایک درخت
عیمان	Iman	ع	پیاسا' دودھ کا آرزومند

marfat.com
Marfat.com

غ

غازف	Ghazaf	ع	ملاح' کشتی ران
غازہ	Ghazah	ا' ف	ایک قسم کی سرخی جو عورتیں چہرے پر لگاتیں ہیں۔ گل گوز
غازی	Ghazi	ع	فتح مند' جیتا ہوا' فاتح' اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والا' لاہور کے ایک قدیم ولی اللہ حضرت پیر غازی المعروف پیر از غیبؒ مزار مبارک حضرت داتا گنج بخشؒ کے مزار سے آگے ایک گلی میں واقع ہے۔ اس گلی میں ایک مسجد بھی ہے۔
غازی میاں	Ghazi Mian	ا	مسعود غزنوی کے سالار مسعود غازی کا لقب
غامز	Ghamaz	ع	گناہ بخشنے والا
غامیز	Ghamiz	ع	نیزہ کو سیدھا کرنے کا خواہش مند
غامض	Ghamez	ع	جو سمجھ میں نہ آئے' جو عقل میں نہ آئے' ناقابل فہم
غارس	Ghares	ف	باغبان' پودا لگانے والا' درخت لگانے والا
غادر	Ghadir	ع	زوردار
غادف	Ghadef	ع	کشتی چلانے والا' ملاح' ناخدا
غاب	Ghab	ا' ع	غابہ کی جمع' جنگل' بن
غابر	Ghaber	ع	گزشتہ' گزرا ہوا
غاور	Ghawir	ع	فکر کرنے والا' غور کرنے والا' زوردار' زبردست
غایت	Ghayet	ع	غرض' مطلب' مقصد' انجام' جھنڈا' آخر' انتہا
غافر	Ghafir	ع	گناہ بخشنے والا' خطائیں معاف کرنے والا
غارب	Ghareb	ع	کندھا' شانہ

marfat.com

Marfat.com

غالب	Ghalib	ع	غلبے والا' حاوی ہونا' غلبہ پانے والا' قابو پانے والا' لاہور کے ایک ولی اللہ سائیں غالب علی شاہؒ۔ مزار مبارک لاہور نیلی ویژن اسٹیشن کے نزدیک ایبٹ روڈ پر واقع ہے
غازل	Ghazil	ع	غزل کہنے والا
غائب	Ghaib	ع	اوجھل' چھپا ہوا
غائی	Ghai	ع	انتہائی' اخیر' انجام کار
غائر	Ghair	ع	وسیع' گہرا' عریض
غانی	Ghaani	ع	مالدار' گلوکار
غالی	Ghali	ع	گراں قیمت' مہنگا' حد سے تجاوز کرنے والا
غالیہ	Ghalia	ا' ع	عنبر کافور وغیرہ کی خوشبو' مہک
غاسق	Ghasiq	ع	رات' چاند' مہتاب
غاشہ	Ghashah	ا' ع	پردہ' زین پوش' پلان
غاضف	Ghazaf	ع	نرم دل' نازک دل' رقیق القلب
غادی	Ghadi	ع	صبح کے وقت چلنے والا شیر
غازی	Ghazee	ع	اصلاح کرنے والا' مدبر
غابط	Ghabit	ع	رشک کرنے والا
غاصف	Ghasif	ع	خوش وخرم' خوشحال زندگی والا' آسودہ حال
غبیر	Ghabir	ع	کھجور کی ایک قسم
غدفل	Ghidfil	ع	بہت لمبا' بزرگ' حبشہ اونٹ' پرانا کپڑا
غدور	Ghadur	ع	بے وفا
غدیاں	Ghadyan	ع	ناشتا کرنے والا' صبح کے وقت کھانے والا
غدیر	Ghadir	ع	جھیل' تالاب
غداۃ	Ghidah	ع	سحر کا وقت' صبح کا وقت

marfat.com
Marfat.com

غذوان	Ghazwan	ع	تیز رفتار گھوڑا' سخت مزاج اور زبان دراز آدمی
غربان	Gharban	ع	بھوکا
غربیلہ	Gharbeelah	ع	ناز' نخرہ
غرثان	Ghursan	ع	بھوکا
غرائب	Gharaib	ع	نادر اشیاء' عجیب و غریب
غرزت	Gharzat	ع	خصلت' اطوار' سرشت' عادت
غرہ	Ghara	ع	سفیدی' چمک' چاند کی پہلی رات' تکبر' گھمنڈ' مشہور
غریب	Gharib	ع	نادار' عاجز' مسافر' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت بابا غریب شاہؒ۔ مزار مبارک فیروز پور روڈ پر کیمپ جیل لاہور کے نزدیک واقع ہے۔
غریب الدیار	Ghareeb-ul-Diyyar	ا' ع	مسافر' پردیسی' بے وطن' بے گھر
غریب نواز	Ghareebnawaz	ف' ع	غریب پرور' خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ کا خطاب
غریف	Gharif	ع	گنجان' گھنا درخت
غریق	Ghareeq	ع	ڈوبا ہوا' سمایا ہوا' محو
غراز	Gharaz	ا' (قدیم)	سرکش' مغرور' متکبر' شجاع' بہادر
غرام	Gharam	ع	محبت' چاہت' لگاؤ' شیفتگی' انسیت' پیار
غریر	Gharir	ع	اچھے اخلاق والا' خوش اخلاق
غریزہ	Gharazaha	ع	فطرت' عادت
غزال	Ghazal	ع	ہرن' ہرن کا بچہ
غزال چشم	Ghazal-e-Chasham	ف' ا	بڑی بڑی آنکھوں والا ہرن' معشوق

marfat.com

Marfat.com

غزال رعنا	Ghazal-e-rana	ع'ف	معشوق
غزال کعبہ	Ghazal-e-kaba	ا'ع	سونے کا ہرن جو زمانہ جاہلیت میں زم زم میں پایا گیا تھا اور اسے کعبہ میں لٹکا دیا گیا
غزالی	Ghazali	ع	ہرن جیسا' مشہور عالم دین اور دینی کتب کے مصنف امام محمد غزالی جو ایران کے شہر طوس کے رہنے والے تھے۔قبر مبارک بغداد شریف عراق میں ہے۔
غزرت	Ghazret	ع	عادت' خصلت
غزرات	Ghazrat	ع	زیادتی' کثرت' افزوئی
غزنوق	Ghaznooq	ع	حسین وجمیل' خوبصورت' گوراچٹا
غزنوی	Ghaznavi	ف	غزنی کا رہنے والا (کنا پتا) سلطان محمود غزنوی
غزوی	Ghazvi	ع	غزوہ کی طرف منسوب' جنگ کرنے والا
غزی	Ghuzzi	ع	مجاہدین' جنگ کرنے والے
غزار	Ghazar	ع	عزیز واقارب کے ساتھ احسان کرنے والا
غشارب	Ghusharib	ع	بہادر و تجربہ کار آدمی
غشمیر	Ghashmir	ع	فیاض' سخی' سخاوت کرنے والا
غضنفر	Ghasanfer	ع	دلیر' بہادر' شجاع' جری' شیر' سخت مزاج
غضیر	Ghazir	ع	سرسبز وشاداب' ہری رنگت والا' نرم ونازک
غضار	Ghazar	ع	چکنی مٹی سے بنا ہوا
غضبناک	Ghazabnak	ع	غصہ والا
غضبان	Ghazban	ع	غضبناک' خشم ناک
غضفر	Ghazfar	ع'ع	شیر' بہادر
غضیض	Ghaziz	ع	تازہ اور نرم ونازک کلی۔

marfat.com
Marfat.com

غفار	Ghafar	ع	گناہوں کو معاف کرنے والا' بخشش کرنے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت پیر عبدالغفار نقشبندیؒ مزار مبارک میانی صاحب نزد باغ گل بیگم لاہور میں ہے۔
غفکر	Ghafker	ع	چکنی مٹی کا بنا ہوا
غفیر	Ghafir	ع	پردہ پوش' چھپانے والا' ڈھانپنے والا
غفران	Ghafran	ع	معاف کرنا' بخش دینا' معافی دینا
غفور	Ghafoor	ع	بخشنے والا' معاف کرنے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت شیخ عبدالغفور قادری نوشاہیؒ آپ کا انتقال ۱۱۶۰ھ میں لاہور میں ہوا۔
غطریف	Ghatrif	ع	سردار' امیر' بزرگ' رئیس' جوانمرد
غطریق	Ghatreeq	ع	بزرگ' سردار
غطیم	Ghateem	ع	بڑا سمندر' بہت پانی والا
غلگیر	Ghalgeer	ا' ع	معمار' راج' بیل بوٹے بنانے والا
غلمان	Ghilman	ع	غلام کی جمع
غلیفر	Ghaleefer	ع	عمارت تعمیر کرنے والا' معمار
غلام	Ghulam	ع	بندہ' غلام' خدمت گار
غلیان	Ghulyan	ع	جذبہ' جوش
غلیم	Ghaleem	ع	حضرت نوحؑ کے پوتے کا نام
غمار	Ghamar	ع	کثرت' زیادتی' بہتات
غمام	Ghamam	ع	بادل' ابر
غمامہ	Ghamama	ع	بادل' ابر
غموص	Ghimoos	ع	خیبر کا ایک قلعہ

marfat.com
Marfat.com

غموم	Ghumum	ع	چھوٹے چھوٹے پوشیدہ ستارے
غمر	Ghamer	ع	جواں مرد فیاض، سخی
غمزہ	Ghamzah	ا، ع	آنکھوں یا بھوؤں کا اشارہ، ناز معشوق کی ادا
غنجر	Ghanger	ع	ابٹن، غازہ، نازو انداز
غنون	Ghanoon	ع	چھوٹے ستارے
غنی	Ghani	ع	دولت مند، مالدار، بے پرواہ، بے نیاز، مشہور عشرہ مبشرہ صحابی خلیفہ سوم حضرت عثمان غنیؓ حضور نبی کریم ﷺ کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے حبالہ عقد میں آئیں۔
غنا	Ghana	ع	فائدہ، نفع، منافع
غنات	Ghannat	ع	لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں ادب کا اچھی طرح لحاظ رکھنے والا
غنچہ	Ghuncha	ع	کلی
غنچہ گل	Ghunch-E-Gul	ف	پھول کی کلی
غتوم	Ghatoom	ع	چھوٹے ستارے
غوث	Ghaus	ع	ولی اللہ، فریادرس، مددگار، مشہور ولی اللہ حضرت شاہ محمد غوث گیلانیؒ جو کہ محمد شاہ رنگیلا کے دور حکومت میں پشاور سے لاہور آ کر اقامت گزیں ہوئے۔ بے شمار کتب تصنیف فرمائیں۔ مزار مبارک بیرون دہلی گیٹ لاہور میں واقع ہے۔
غوث الاعظم	Ghaus-ul-Azam	ع، ا	بڑا فریادرس، بڑے پیر حضرت عبدالقادر جیلانیؒ کا لقب

marfat.com
Marfat.com

غوری	Ghori	ع	مزاج پرسی کرنے والا' خبر گیری کرنے والا' ہندوستان کا ایک حکمران سلطان محمد شہاب الدین غوری جو کہ غور کے علاقہ کا رہنے والا تھا۔
غورہ	Ghora	ف	کچا انگور' کھٹا انگور
غوزہ	Ghozah	ع	بند کلی' غنچہ
غوشاد	Ghoshad	ع	اونچا درخت' قافلے کے پڑاؤ کی جگہ
غواص	Ghawas	ع	غوطہ لگانے والا' غوطہ خور
غیاض	Ghayaz	ع	جنگل' بن
غیاب	Ghayab	ع	چھپا ہوا' پوشیدہ' پنہاں' پردے میں اوجھل
غیور	Ghayoor	ع	غیرت مند' غیرت والا' اناوالا' شرمیلا
غیوری	Ghorri	ع	ہر چیز کا تھاہ
غیب	Ghaib	ع	چھپا ہوا' پوشیدہ' پردہ میں' پنہاں
غیبہ	Gheebah	ع	ترکش' تیردان
غیرت	Ghairat	ع	شرم' عار' لاج
غیثمان	Ghaisman	ع	جوانی' شباب
غیث	Ghais	ع	بارش' مینہ' باراں
غیاث	Ghayas	ع	فریاد رس' مددگار' فریاد سننے والا' لاہور کے ایک ولی اللہ سید غوث الدین گیلانی جو کہ حضور غوث پاکؒ کی اولاد میں سے ہیں۔ ۲۱ رمضان المبارک ۹۹۰ھ کو وصال فرمایا۔ مزنگ لاہور میں محلہ دولت آباد آپ کے نام پر آباد ہوا تھا۔ دولت شاہ آپ کا لقب تھا۔
غیران	Ghairan	ع	غیرت مند شخص
غیدا	Gheda	ع	نازک اور حسین عورت

marfat.com

Marfat.com

غیداق	Ghaidaq	ع	شریف آدمی، نیک آدمی، ہرا بھرا
غیال	Ghayal	ع	شیر
غیم	Ghaim	ع	آسمان کو ڈھانپ لینے والا
غیض	Ghaiz	ع	شگوفہ، کلی، ان کھلا پھول
غیاف	Ghayaf	ع	لمبی داڑھی والا
غیدان	Ghaidan	ع	شباب، نوجوانی

marfat.com
Marfat.com

ف

فاکر	Fakir	ف	فکر کرنے والا' سوچ بچار کرنے والا' غور کرنے والا
فاکہہ	Fakah	ا'ع	میوہ' پھل' ہر پھل
فاطن	Fatin	ف	دانشمند' عقلمند' سمجھدار' باشعور
فار	Faar	ع	موٹا' تنومند
فارح	Fareh	ف	مسرت و انبساط عطا کرنے والا' فرحت بخشنے والا' خوشی دینے والا
فانق	Faniq	ع	نازک آدمی' آرام و آسائش کے ساتھ رہنے والا
فانک	Faneek	ع	جری' بہادر
فانی	Fani	ع	فنا ہونے والی' ختم ہو جانے والا' مٹ جانے والا' بہت بوڑھا
فانیذ	Faneez	ع	قند سفید' شکر' مصری
فائق	Faiq	ع	اونچا' بلند' ممتاز' برتر' بالا' فوقیت رکھنے والا
فائقہ	Faiqah	ع	دانا' عقل مند
فاروق	Farooq	ع	حق و باطل میں فرق کرنے والا' حضرت عمر بن خطابؓ کا لقب
فاروق اعظم	Farooq-e-Azam	ع	خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کا خطاب' حق و باطل میں فرق کرنے والا
فاروقی	Farooqi	ع	حضرت عمرؓ سے منسوب
فاقد	Faqid	ع	گم کر دینے والا' کھو دینے والا
فاقم	Faqum	ع	رکا ہوا
فاخر	Fakhir	ع	فخر کرنے والا' ناز کرنے والا

marfat.com

Marfat.com

فاحز	Fahaz	ع	فخر کرنے والا، نازاں
فاحم	Fahim	ع	ٹھہرا ہوا پانی، رکا ہوا پانی
فارع	Farey	ع	آسودہ، پرسکون، مطمئن، حسین آدمی
فاسخ	Fasikh	ع	توڑنے والا۔
فارض	Farez	ع	توانا، موٹا، تنومند، مصر کے ایک مشہور ولی اللہ حضرت ابن الفارض مصریؒ قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ جمادی الاول ۶۳۲ھ میں وصال فرمایا۔
فارط	Farit	ع	جو دوسروں سے پہلے پہنچ کر پانی وغیرہ کا انتظام کرے
فادِز	Fadiz	ع	کھلا ہوا راستہ، فراخ راستہ، کشادہ راستہ
فارِس	Faris	ع	شہسوار، صاحب فراست، گھوڑے پر سوار، گھوڑے کا مالک
فارد	Farid	ف	واحد، اکیلا، علیحدہ، الگ، تنہا، ایک
فارز	Faraz	ع	صاف اور واضح کلام
فارز	Farz	ع	علیحدہ کرنا، پرے کرنا، ہٹانا، الگ کرنا
فاضل	Fazal	ع	عالم، جاننے والا، پڑھا ہوا، بزرگ، مغل شہنشاہ، جہانگیر کے عہد کے ایک ولی اللہ حضرت محمد فاضل کابلیؒ۔ آپ کی قبر قبرستان بی بی پاک دامناں لاہور میں ہے
فارق	Faraq	ع	بادلوں کا وہ ٹکڑا جو دوسرے بادلوں سے الگ ہو۔
فارق	Fareq	ع	امتیاز کرنے والا، فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا
فاطر	Fatir	ف	تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، خالق اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
فاتک	Fatek	ع	دلیر، بہادر، نڈر، جری، باہمت، شجاع
فائز	Faiz	ع	منصب دار، بامراد، کامیاب، فتح مند، جیتا ہوا
فالق	Faliq	ع	عیاں کرنے والا، ظاہر کرنے والا، آشکارہ کرنے والا، پہاڑ کا شگاف نکالنے والا، پیدا کرنے والا

marfat.com
Marfat.com

فاطق	Fateq	ع	سمجھدار' ذہین' فہیم' دانشمند
فاطم	Fatam	ع	دوزخ کی آگ سے بچانے والا
فاطمی	Fatimy	ع	حضرت فاطمہؓ کی نسل کا
فاصل	Fasil	ع	جدا کرنے والا' الگ کرنے والا' علیحدہ کرنے والا
فاریاب	Faryab	ع	خراسان کے ایک شہر کا نام
فارابی	Farabi	ع	فاراب شہر کا رہنے والا' ابونصر فارابی جو کہ ترکستان کے ایک نزدیکی شہر فاراب میں پیدا ہوئے۔
فاتح	Fateh	ع	فتح کرنے والا' فتح مند' جیتنے والا
فاعل	Fail	ع	کسی کام کا کرنے والا
فاعلہ	Falah	ع	دانش' عقل' دانائی' حکمت' علم
فاغر	Fagher	ع	چمپا کا پھول
فاز	Faaz	ع	کامیاب' کامران' فتح مند
فازر	Fazer	ع	کھلا لمبا راستہ' فراخ طویل راستہ' کشادہ لمبا راستہ
فاران	Faraan	ع	مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام
فارانی	Farani	ع	چمک' اجالا' روشنی' چاندنی
فبہا	Fabha	ع	بہت خوب' بہتر' مراد حاصل
فتح	Fath	ع	کامیابی' جیت' کامرانی' موصل کے مشہور ولی اللہ حضرت شیخ فتح علی موصلیؒ جو کہ حضرت خواجہ سری سقطیؒ کے ہم عصر تھے۔ عیدالاضحیٰ کے دن ۲۱۹ھ میں وصال فرمایا۔
فتحی	Fathi	ع	جیتا ہوا' فتح کیا ہوا
فتیل	Fatil	ع	دیے کی بتی' چراغ کی بتی
فتیلہ	Fatilah	ا' ع	موٹی بتی' وہ بتی جو زخم پر رکھتے ہیں' بندوق یا توپ کا توڑا

marfat.com
Marfat.com

فتاح	Fatah	ع	جیتنے والا فتح کرنے والا' حکم کرنے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
فتاق	Fataq	ع	سورج کی کرنیں' آفتاب کی شعاعیں
فتاش	Fatash	ع	ڈھونڈنے والا' تلاش کرنے والا
فتال	Fatal	ع	بلبل' بہت بننے والا
فتی	Fataa	ع	بہادر' دلیر' جوانمرد' سخی' فیاض
فتوت	Fatwet	ع	مروت' جوانمردی' بہادری' دلیری' جرأت
فتین	Fateen	ع	ہوشیار' چالاک
فجان	Fajan	ع	گفتگو' کلام' بات چیت' گفت وشنید
فجمت	Fajmat	ع	پانی کا ٹھہراؤ
فجل	Fajal	ع	کھلا' کشادہ' وسیع' فراخ
فجور	Fajoor	ا' ع	فخر' گناہ' جرم
فجار	Fajar	ع	راستے' راہیں
فجر	Fajr	ع	صبح سویرے
فحان	Fahaan	ع	کلام
فحیص	Fahees	ع	کسی چیز کی تفتیش کرنے والا' بہت دانش مند آدمی
فحیل	Faheel	ع	نیک' شریف' اچھے خاندان والا' صاحب نسل
فحل	Fahal	ع	کشادہ' فراخ
فحول	Fahool	ع	عالم وفاضل شخص
فخری	Fakhri	ف	ناز کرنے والا' فخر کرنے والا' انگور کی ایک قسم' ایک نام جمیل فخری
فخراج	Fakhraj	ع	ایک ہیرے کا نام

marfat.com

Marfat.com

فخر	Fakhr	ف	بڑائی ناز بزرگی ہمدان کے رہنے والے ایک ولی اللہ حضرت شیخ فخر الدین عراقیؒ آپ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا کے داماد ہیں۔ ۸۸۸ھ میں وصال فرمایا۔ مزار مبارک دمشق میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ کے مزار کے عقب میں واقع ہے
فخر الدین	Fakhar-ud-Din	ع	دین کے لیے فخر
فخیر	Fakhir	ف	بہت ناز کرنے والا بہت فخر کرنے والا
فخم	Fakham	ع	بڑے مرتبہ والا
فخیم	Fakhim	ف	بہت بڑا بزرگ بڑا آدمی برتر صاحب مرتبہ
فخار	Fakhar	ف	ناز کرنے والا فخر کرنے والا
فداکت	Fidakat	ع	ترازو
فدالک	Fadalik	ع	میزان
فدا	Fida	ف	قربان نچھاور واری نثار
فدر	Fadur	ع	چاندی فربہ لڑکا
فدیان	Fidyan	ع	قربان ہونے والا نثار ہونے والا
فدوی	Fidwi	ع	قربان ہونے والا نثار ہونے والا فدا ہونے والا
فدائی	Fadai	ع	جاں نثار جانباز فریفتہ عاشق
فدغم	FadGham	ع	بڑے قد و قامت کا حسین و جمیل شخص
فراز	Faraz	ف	فراخ کھلا کشادہ اونچا بلند وسیع ایران کے شہر نیشاپور کے مشہور ولی اللہ شیخ ابوبکر کا لقب آپ نے ۶۷۰ھ میں وصال فرمایا۔
فرازم	Frazam	ف	لائق

marfat.com

Marfat.com

فرقان	Farqan	ع	حق و باطل میں فرق کرنے والا امتیاز کرنے والا
فرقت	Furkat	ا ع	جدائی ہجر علیحدگی
فرقد	Farqad	ع	قطب شمالی کے قریب والا ستارہ
فرمان	Farman	ف	شاہی حکم شاہی پروانہ
فریس	Frais	ف	دانشمند فراست مند فہیم سمجھدار دانا عقلمند
فریص	Farees	ا	فراست مند عقل مند
فریغ	Fareegh	ع	چوڑی ہموار زمین
فرجمند	Farjmand	ف	صاحب مرتبہ صاحب عزت ہونا
فرامرز	Framrez	ف	قلعہ کا عہدیدار ایران کے رستم پہلوان کے ایک بیٹے کا نام
فرجاد	Ferjad	ع	سمجھدار دانا عقلمند فہم و فراست والا
فرجام	Ferjam	ف	اونچا بلند و بالا فائق قابل اہل لائق انتہا انجام عاقبت آخیر
فردوسی	Fardosi	ف	بہشتی جنتی جنت الفردوس میں رہنے والا سلطان محمود غزنوی کے دربار کے ایک مشہور شاعر کا لقب جس نے شاہنامہ فردوسی لکھا تھا۔
فرخندہ	Farkhandai	ف	مبارک خوش نصیب کھلا ہوا پھول
فرخی	Farkhi	ف	شادمانی مسرت خوشی انبساط
فراخور	Firakhwer	ف	قابل اہل لائق موزوں شائستہ
فردوس	Firdaus	ع	جنت بہشت
فرمل	Farmel	ف	خوشبودار مہک والا
فراق	Faraq	ع	جدائی علیحدگی ہجر
فرحت	Farhet	ف	شادمانی خوشی مسرت نشاط خرمی انبساط
فرحال	Farhall	ف	خوش مسرور
فرحام	Farham	ف	بلند

marfat.com
Marfat.com

فرحان	Farhan	ف	پُرمسرت' شاداں' مسرور' نشاط' خرمی' خوش
فرزام	Farzam	ف	قابل' اہل' مناسب' لائق' موزوں
فراس	Farrass	ع	شیر
فراست	Farasat	ف	تیز فہمی' سمجھداری' عقلمندی' دانائی' دانشمندی
فراسین	Faraseen	ع	شیر
فریدون	Faridoon	ف	اکیلا ہونا' تنہا ہونا' افراد' ایران کے ایک قدیم بادشاہ کا نام
فرخ تبار	Farekh Tabar	ف	اچھے خاندان والا' نیک خاندان والا' مبارک خاندان والا
فرزند	Farzend	ف	بیٹا' پسر' اولاد
فرخ زاد	Farekhzad	ف	پرمسرت' خوشی' مسرور' شاداں وفرحاں' کامیاب وکامران
فرائد	Fraid	ع	قیمتی پتھر' جواہرات
فرخار	Farkhar	ع	زیب وزینت' سجاوٹ' آرائش وزیبائش
فرمود	Farmood	ف	کہا ہوا' فرمایا ہوا
فرخ اختر	Farakh Akhtar	ف	خوش قسمت' نیک بخت' خوش نصیب' اچھے مقدر والا
فرازون	Farazone	ف	ظاہر کرنا' عیاں کرنا' آشکارا کرنا
فرخ نہاد	Farakh Nihad	ف	نیک طینت' اچھی طبیعت والا' نیک مزاج والا
فرود	Farood	ف	بسیرا' ٹھہراؤ' قیام' پڑاؤ
فروع	Faroo	ف	شعاع' رونق
فروغ	Farogh	ف	چمک' روشنی' اجالا' چاندنی
فریح	Farih	ف	پرمسرت' شاداں وفرحاں' خوش خرم
فرغان	Furghan	ع	موسیقی

marfat.com

Marfat.com

فرغانہ	Farghanah	اُف	ایک سرجمہوریہ ازبکستان کا ایک علاقہ جو بابر کا وطن تھا
فرغان	Farghan	ع	فراخ برتن' کشادہ برتن' کھلا برتن
فرخی	Farkhi	ف	شادمانی' مسرت' خوشی
فرید	Farid	ع	بے مثل' لاثانی' بے نظیر' ایک خوبصورت موتی' ایران کے مشہور ولی اللہ حضرت شیخ فرید الدین عطار آپ تاتاری کافروں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ مزار مبارک نیشاپور، ایران میں واقع ہے۔
فرخاد	Farkhad	ف	قابو پانے والا' غلبہ پانے والا' زبردست' حاوی
فرطاس	Fartas	ع	وسیع وعریض' کشادہ' لمبا چوڑا' فراخ
فرہ	Farah	ع	عزت' رعب' دبدبہ' شان وشوکت
فرہنگ	Farhang	ف	دانائی' سمجھ
فرہاد	Farhad	ف	سچا عاشق' ایران کا ایک مشہور عاشق فرہاد جو ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی ملکہ شیریں پر عاشق تھا۔
فروید	Farweed	ف	شوق' ذوق
فردان	Fardan	ع	ایک خوبصورت موتی' بے مثل' بے نظیر
فریاد	Faryad	ف	دھائی' مدد مانگنے کا شور' آہ و نالہ' ظلم زیادتی کی شکایت
فریاض	Faryaz	ف	فراخ' کشادہ' کھلا
فروز	Feroze	ع	بہادر' شجاع' دلیر' نڈر' جری
فرصاد	Fersad	ع	سرخ رنگ' انگور کے بیج
فرساد	Farsad	ع	دانشمند' عقلمند' حکیم' حکمت والا
فرستادہ	Farstada	ف	ایلچی' سفیر' بھیجا ہوا' قاصد
فرشاہ	Farshah	ع	بے بارش کا بادل
فرخ	Farakh	ف	خوبصورت' حسین' سعید' مبارک

marfat.com
Marfat.com

فرخ سیر	Farakh ser	ف	اچھے مزاج والا' اچھی طبیعت والا
فرخان	Farkhan	ع	خوش ہونے والا' اترانے والا
فرحاں	Farhan	ع	مسرور' خوش' فرحاں وشاداں
فرحاد	Farhad	ع	دانشمند' عقلمند' فہیم' عاقل' دانا
فردال	Fardal	ف	بسیرا' ٹھہراؤ' قیام' پڑاؤ
فراہت	Farahat	ع	دانائی' عقلمندی' دانشمندی
فرح	Farah	ع	مسرت' شادمانی' خوشی' سرور' طرطوس کے ایک ولی اللہ شیخ ابوفرح طرطوسیؒ اپنے وقت کے صاحب کرامت ولی اللہ ہیں۔
فراد	Farad	ع	موتی فروخت کرنے والا
فرال	Faral	ع	شیر کی ایال یا ٹھکانہ
فرزین	Farzin	ف	دانشمند' عقلمند' دانا' فہیم' عاقل
فرناس	Farnas	ف	دلیر شخص' بہادر آدمی
فرزان	Farzan	ف	حکمت' عقل' دانش' علم
فرازی	Farazi	ف	اونچائی' بلندی
فرازیں	Frazeen	ف	بلند' اونچا' عالی مرتبہ
فرعار	Faraar	ع	موتی فروخت کرنے والا
فرعون	Faron	ع	نگرمچھ' مصر کے بادشاہ کا لقب' (زمانہ قدیم میں) سرکش' ظالم
فراغ	Faragh	ع	آرام' بےفکری
فرغابی	Farghabi	ع	ایک ولی اللہ شیخ محمود زاہدؒ کا لقب۔ آپ کا انتقال ماہ ذوالحجہ ۸۷۷ھ میں ہوا تھا

marfat.com
Marfat.com

فسیر	Fasir	ع	چلنا' پھرنا' گھومنا
فسیلہ	Faseela	ع	جانوروں کا غلہ
فساح	Fasah	ع	فراخ' کھلا' کشادہ وسیع
فصیح	Fasih	ع	بلیغ' شیریں بیاں' خوش کلام' ایک نام فصیح احمد جعفری
فصام	Fasam	ع	مضبوطی سے تھامنا' سخت گرفت کرنا
فصیل	Faseel	ع	دیوار' شہر پناہ' حفاظتی دیوار
فسیح	Faseeh	ع	کھلا' وسیع' فراخ' کشادہ
فصاحت	Fasahat	ع	خوش کلامی' بلاغت' شیریں بیانی
فضیل	Fazeel	ع	صاحب فضیلت' مشہور ولی اللہ حضرت فضیل بن عیاضؒ آپ امام اعظمؒ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابراہیم ادھمؒ کے ہمعصر ہیں۔ مزار مبارک مکہ مکرمہ میں ہے۔
فضیلت	Fazilat	ع	برتری' بڑائی' بزرگی
فضل	Fazal	ع	برتری' بزرگی' کرم مہربانی' بخشش' بلخ کے رہنے والے ایک مشہور ولی اللہ شیخ محمد بن فضلؒ۔ آپ کا مزار مبارک سمرقند میں واقع ہے۔
فضال	Fazaal	ع	صلہ پانے کی امید پر لوگوں کی تعریف کرنے والا
فضال	Fazzal	ع	بہت عطا کرنے والا' بہت عنایت کرنے والا
فطین	Fatin	ع	دانشمند' فہیم' زیرک' عقلمند
فطانت	Fatanat	ف	عقلمندی' دانشمندی' فہم و فراست ذہانت
فطرت	Fitrat	ف	سوچ' فکر' غور
فطنت	Fitnat	ف	سمجھداری' عقلمندی' دانائی' دانشمندی
فغان	Faghan	ف	فریاد' چیل' نالہ' واویلہ آہ وزاری
فقیع	Faqih	ع	سرخ رنگت والا مرد' سرخی مائل مرد

marfat.com
Marfat.com

فقید	Faqid	ع	معدوم' نایاب' نادر
فقیہ	Faqih	ع	عالم' دانا' دانشمند
فقیر	Faqeer	ع	نادار' مفلس' لاہور کی ایک بزرگ شخصیت فقیر عزیز الدین قادری نوشاہی"۔ آپ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں گزرے ہیں۔ مزار مبارک کوچہ فقیر خانہ اندرون بھاٹی گیٹ لاہور میں واقع ہے۔
فکیر	Fakeer	ع	بہت غور و فکر کرنے والا
فکر	Fiker	ع	غور' سوچ
فکرت	Fikret	ف	فکر' سوچ
فلزہ	Falzah		لخت جگر' پیارا' عزیز
فلک	Falak	ع	آسمان' چرخ' گردوں
فلکی	Falki	ع	آسمانی' سماوی
فلاح	Falah	ع	نیکی' بھلائی' خیریت' بہتری
فلاطون	Falatoon	یونانی' ا	افلاطون' ایک یونانی حکیم کا نام
فلذہ	Falzah	ع	لخت جگر' پیارا' عزیز
فنان اللہ	FananUllah	ع	خدا کی راہ میں فنا
فندی	Fandy	ع	بڑا پہاڑ' جس زمین پر بارش نہ ہوئی
فوق	Fauq	ع	بلند' بالا' اونچا' سبقت' فضیلت
فوزان	Fozan	ع	فتح پانے والے کامیابی و کامرانی حاصل کرنے والے' کامیاب و کامران
فوات	Fawat	ت	قلب دل
فوقا	Foqa	ع	بلند و بالا' اونچا
فوز	Foze	ع	فتح' کامیابی' رہائی' آزادی' جیت

marfat.com
Marfat.com

فواز	Fawaz	ع	فتح حاصل کرنے والا' کامیابی حاصل کرنے والا
فوار	Fawar	ع	گرم جوش' انتہائی جوشیلا
فواد	Fawad	ع	دل' قلب
فواس	Fawass	ع	بہت جوشیلا
فہیم	Fahim	ف	دانشمند' سمجھدار' عقلمند' دانا' عاقل
فہاد	Fahad	ع	تیندوے والا' جیتنے والا
فہام	Faham	ف	نہایت دانا' بڑا سمجھدار' بہت عقلمند
فہمی	Fahmi	ف	عقلمند' سمجھدار' عاقل' دانا' دانشمند
فہد	Fahd	ع	چیتا' تیندوا' سعودی عرب کے حکمران شاہ فہد بن عبدالعزیز
فہمید	Fahmid	ف	عقل' سمجھ' شعور' دانش' ہوشیار' زیرک
فیضی	Faizi	ع	فیض پانے والا' نفع پانے والا' فیض سے نسبت رکھنے والا' مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دربار کا ایک اہم درباری فیضی
فیاض	Fayaz	ع	سخی' دریا دل' فیض پہنچانے والا' نفع پہنچانے والا' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت خواجہ فیاضؒ۔ مزار مبارک لکھوڈہر سے باہر دریائے راوی کی طرف واقع ہے۔
فیروزنین	Fairoznin	ف	نیک کام' مبارک کام' اچھا کام
فیض	Faiz	ع	فائدہ' نفع' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت بابا فیض علی شاہؒ۔ مزار مبارک مال روڈ پر واقع پنجاب کلب میں ایک کمرہ کے اندر ایک کونہ میں واقع ہے۔
فیاش	Fayash	ع	سردار' بہت مرتبہ والا' بہت بزرگی والا' بڑی فضیلت والا
فیضان	Faizan	ع	بڑا فائدہ' بڑا نفع' بڑی بخشش

marfat.com
Marfat.com

فیصل	Faisal	ع	فیصلہ کرنے والا' حکم' حاکم' سعودی عرب کے سابق فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز
فیوض	Fayooz	ع	نیکیاں' برکات' بخشش' فائدے
فیروز	Feroze	ف	فتح مند' کامیاب و کامران' حضرت غوث اعظمؒ کی اولاد سے لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت شاہ فیروز گیلانیؒ۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے عہد میں وصال فرمایا۔
فیروزہ	Ferozah	ا'ع	ایک نیلے رنگ کے قیمتی پتھر کا نام
فیمان	Faiman	ع	عہد و پیمان' وعدہ' اقرار
فیاد	Fayad	ع	اترا کر چلنے والا' فخر سے چلنے والا
فیلسوف	Fayalsofe	یو	دانشمند' عقلمند' دانا' سمجھدار
فیفا	Fifa	ع	جنگل' بن' بیابان
فیض بخش	FaizBaksh	ف	نفع پہنچانے والا' فائدہ پہنچانے والا
فیروز مند	FerozMand	ف	خوش قسمت' فتح مند' کامیاب' جیتا ہوا
فیروز بخت	FerozBakht	ف	اچھے نصیب والا' خوش قسمت' خوش نصیب

marfat.com
Marfat.com

ق

قائد	Qaid	ع	لیڈر، رہنما، امیر، سردار
قاچار	Qachar	ف	ایران کے قدیم شاہی خاندان کا نام
قارعہ	Qareeah	ع	کوٹنے والا، ٹھو نکنے والی، قرآن
قاری	Qari	ع	قرأت کرنے والا، پڑھنے والا، خوش الحان
قاز	Qaaz	ع	آبی پرندہ، راج ہنس
قاجار	Qajar	ف	شاہان ایران کا ایک خاندان
قاجف	Qajif	ع	شدید آندھی، طوفان
قاحف	Qahif	ع	شدید بارش
قاہر	Qaher	ع	قہر والا، زبردست، شدید، اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
قاہی	Qahi	ع	خوش عیش، فارغ البال اور ذہین آدمی
قاضی	Qazi	ع	جج، منصف، انصاف کرنے والا، تحریک پاکستان کی ایک مشہور شخصیت قاضی عیسیٰ۔
قان	Qaan	ف	عادل، دانا
قانت	Qanat	ع	خاموش، فرمانبردار، تابعدار، چپکا، اطاعت گزار
قانص	Qanis	ع	شکاری
قادری	Qadri	ع	شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے منسوب، قادریہ سلسلہ سے نسبت رکھنے والا، (اردو، مونث) ایک قسم کا سینہ بند
قادرین	Qadrin	ع	قدرت والے، طاقت والے
قادم	Qadam	ع	آنے والا

marfat.com
Marfat.com

قادیانی	Qadyani	ا	مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے مرزائی' منکر ختم نبوت
قاص	Qas	ع	آنے والی خبر دینے والا' پیش گوئی کرنے والا' قصہ خواں
قاصب	Qasab	ع	بانسری بجانے والا
قاصف	Qasif	ع	سخت' تند
قاصی	Qasi	ع	کسی چیز کی انتہا کو پہنچنے والا
قادر	Qadir	ع	طاقت رکھنے والا' قدرت رکھنے والا' اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صفاتی اسم مبارک غوث اعظمؒ کا نام سید عبدالقادر جیلانیؒ۔ مزار مبارک بغداد شریف میں واقع ہے۔
قافت	Qafat	ع	خاموش
قانع	Qafay	ع	صابر' قناعت پسند
قافز	Qafiz	ع	تیز رفتار گھوڑا
قائم	Qaim	ع	موجود' حاضر' پکا' مضبوط' ایک نام قائم نقوی
قائم المزاج	Qaimulmazaj	ع	مستقل مزاج' دھن کا پکا
قائم النار	Qaim-un-Nar	ع	آگ پر ٹھہرنے والا
قاسم	Qasim	ع	تقسیم کرنے والا' بانٹنے والا' حضور نبی کریم ﷺ کے ایک صاحبزادہ کا اسم مبارک۔ آپ کا وصال بچپن ہی میں ہو گیا تھا
قاشم	Qasem	ع	دینے والا' عطا کرنے والا' عنایت کرنے والا
قارت	Qarat	ع	بہتر مشک
قارف	Qaref	ع	قریب آنا' پاس آنا' نزدیک آنا
قابس	Qabas	ع	آگ کا طالب

marfat.com
Marfat.com

قابوس	Qaboos	ع	خوبصورت' گورا' حسین وجمیل گورا آدمی' مسقط آف اومان کے ایک حکمران سلطان قابوس۔
قآن	Qaan	ف	جج' عادل' منصف' فیصلہ کرنے والا' سمجھدار' دانشمند' عقلمند' دانا' عاقل
قابل	Qabel	ع	پسندیدہ' لائق' اہل' موزوں
قاتن	Qatan	ف	عادل' عدل کرنے والا
قاصر	Qaser	ع	مجبور' لاچار' پشاور کے ایک ادیب کا تخلص غلام محمد قاصر
قاعف	Qaaf	ع	شدید بارش' موسلا دھار بارش' سیلاب
قادس	Qades	ع	بڑی ناؤ' بڑی کشتی
قاصد	Qasid	ع	ایلچی' ارادہ کرنے والا' ایک نام قاصد الاسلام
قابض	Qabez	ع	قبض کرنے والا' اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی اسم مبارک
قانی	Qani	ع	انتہائی سرخ' بہت زیادہ سرخ
قارب	Qareb	ف	چھوٹی ناؤ' کشتی
قانع	Qaney	ع	صابر' صبر کرنے والا' قناعت کرنے والا
قاموس	Qamoos	ع	گہرا دریا
قالب	Qalib	ع	جسم' بدن' ڈھانچہ' سانچہ' رنگ
قاطر	Qatir	ع	ٹپکنے والا
قاطع	Qatay	ع	کاٹنے والا
قاطن	Qatin	ع	خادم' باشندہ
قاضب	Qazib	ع	انتہائی تیز تلوار' بہت زیادہ کاٹنے والی تلوار
قارن	Qaren	ف	مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دربار کا ایک درباری عبدالرحیم خانخاناں کے بیٹے کا نام۔

marfat.com
Marfat.com

قارون	Qaroon	ا ع	موسیٰ کی قوم کا کنجوس مالدار آدمی جو اپنے مال سمیت غرق ہو گیا تھا (مجازاً) مالدار اور بخیل آدمی
قابیل	Qabeel	ع	حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام۔
قبول	Qabool	ع	تسلیم کرنا، ماننا
قبیل	Qabeel	ع	خاندان، گروہ، کنبہ، کفیل، ضامن، نسل، قسم
قباد	Qabad	ف	بڑا بادشاہ، ایران کے بادشاہ نوشیرواں کے والد کا نام
قباس	Qabas	ع	سورج، آفتاب
قتیل	Qateel	ع	شہید، مقتول، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والا
قتین	Qateen	ع	جوش دیا ہوا ریشم، خوبصورت عورت، خوار و ذلیل آدمی
قثم	Qosum	ع	بہت انعام و اکرام دینے والا، بہت فیض، بھلائی جمع کرنے والا، ایک صحابی کا نام
قثول	Qasool	ع	نیکی جمع کرنے والا، عیال جمع کرنے والا، سخی
قحطان	Qehtan	ع	حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے کا نام
قتادہ	Qatadeh	ع	حضور نبی کریم ﷺ کے ایک جانثار صحابی حضرت قتادہ بن نعمان انصاریؓ۔ قبیلہ اوس کی شاخ بنوظفر سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں وصال فرمایا۔ نماز جنازہ حضرت عمرؓ نے پڑھائی۔
قدح	Qadha	ا ع	جام، ساغر، بڑا پیالہ
قدور	Qadoor	ع	طے شدہ معاملہ
قدوم	Qidoom	ع	بڑا اقدام اٹھانے والا، جری، دلیر، شجاع، بہادر
قدس	Quds	ع	پاک
قدسی	Qudsi	ع	پاک، نیک، مقدس
قدیس	Qadees	ع	سوتی [illegible]

marfat.com
Marfat.com

قدوس	Quddoos	ع	ہر عیب سے منزہ، ہر نقص سے پاک، اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک۔
قدوسی	Qudoosi	ع	نیک بندے، فرشتے
قدیر	Qadeer	ع	طاقت والا، قدرت رکھنے والا، زور آور، طاقتور، قادر، صاحب قدرت، اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک، ایک نام عبدالقدیر رشک
قدرت	Qudret	ع	طاقت، زور، ''شہاب نامہ'' کے مصنف قدرت اللہ شہاب
قداف	Qidaf	ع	تیز چلنے والا، تیز رفتار، سبک رفتار
قدر	Qadr	ع	اندازہ، حکم، وقعت، حیثیت
قدرم	Qadram	ع	بہادر، دلیر
قدریہ	Qadriyah	ا،ع	ایک فرقہ جو قضا و قدر کا منکر ہے
قدار	Qadaar	ع	ہر شے کی انتہا، آخری حد
قدوہ	Qidwah	ع	رہنما، پیشوا، رہبر، سردار، امیر، امام، برگزیدہ
قدام	Qadam	ع	سردار، بزرگ، امیر، برگزیدہ، ہمیشگی
قذافی	Qazafi	ع	کشادہ جنگل کا رہنے والا
قرور	Qirwah	ع	یخ پانی، ٹھنڈا پانی
قرۃ	Qurrat	ع	ٹھنڈک
قرۃالعین	Qura-tul-Ain	ا،ع	وہ چیز جس سے آنکھوں میں طراوت اور ٹھنڈک پیدا ہو (مجازاً) بیٹا، نور چشم
قربان	Qarban	ع	صدقہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا، ایک نام قربان جیلانی
قربانی	Qurbani	ا،ع	خیرات، صدقہ، داروی، فدا
قربص	Qarbas	ع	کشتی کا لنگر
قربیٰ	Qurba	ا،ع	رشتہ، تعلق، قربت

marfat.com
Marfat.com

قرآن	Quran	ا'ع	دو سیاروں کا ایک برج میں ہونا' قربت
قراب	Qarab	ع	غلاف' میان' تلوار رکھنے کا خول
قرحان	Qarhan	ع	جس کے چیچک وغیرہ نہ نکلی ہو' جو میدان جنگ میں کبھی نہ گیا ہو اور کبھی زخم نہ کھایا ہو
قریحہ	Qaryah	ع	ہر چیز کا اول' عمدہ اور بہتر مال
قریش	Quresh	ع'ا	عرب کے ایک جلیل القدر قبیلے کا نام' حضورؐ اسی قبیلے سے تھے
قریشی	Qureshi	ع	قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والا
قریب	Qarib	ع	پاس' نزدیک
قرطاس	Qartas	ع	کاغذ' صفحہ
قرین	Qarin	ع	ہم نشیں' رفیق' دوست' ہم عمر' ساتھی
قریص	Qaris	ع	کشتی کا لنگر
قریر	Qareer	ع	خوش وخرم' سرسبز وشاداب' ٹھنڈا' یخ
قروط	Qaroot	ع	چھوٹے قدم اٹھانے والا
قرمز	Qirmiz	ع	لال رنگ' سرخ رنگ
قِراول	Qiradul	ت	شکار کرنے والا' شکاری' امیر لشکر
قراح	Qurah	ع	صاف پانی' خالص' منزہ
قرام	Qaram	ع	ہلکا' منقش اور رنگین پردہ
قرن	Qaran	ا'ع	ستاروں کا ملاپ' زمانہ دراز' سینگ
قرنی	Qarni	ع	گیسوؤں والا' زمانہ شناس' قرن سے تعلق رکھنے والا۔ حضرت اویس قرنیؓ آپ کو سہیل یمنی بھی کہا جاتا ہے
قزافی	Qazafi	ع	کھلے جنگل کا باسی' کشادہ جنگل کا رہائشی
قزح	Qazha	ا'ع	وہ چیز جس پر رنگا رنگ لکیریں ہوں زرد' سرخ' سبز رنگ

marfat.com

Marfat.com

قزلباش	Qazalbash	ت	سرخ سر' لال سر والا' قدیم ایران کی اس فوج کا نام جو بار گوشوں کی سرخ ٹوپی پہنتی تھی۔ یہ شاہ اسماعیل صفوی کی فوج کے سپاہی تھے۔ ان کی اولاد قزلباش کہلاتی ہے۔
قزل	Qazel	ت	سرخ' لال
قزاز	Qizaz	ع	ریشم فروخت کرنے والا
قزاق	Qazaque	ا' ت	قزاقستان کا باشندہ' ڈاکو' بٹ مار
قسورہ	Qasoorah	ع	غلبہ پانے والا' غالب' شیر
قسام	Qasaam	ع	تقسیم کرنے والا' قسم کھانے والا' بانٹنے والا
قسامت	Qasamat	ع	حسن' جمال' خوبصورتی
قسقاس	Qasqas	ع	رہبر' رہنما' بھوک کی سختی' جاڑے کی سختی' شیر
قسیس	Qasees	ا' ع	دین نصاریٰ کا عالم
قسیم	Qaseem	ع	تقسیم کرنے والا' بانٹنے والا' قسمت بنانے والا' مقدر چمکانے والا' خوبصورت' حسین' حصہ دار۔
قشم	Qasham	ع	فیاض' سخی' نفیس کپڑے' چرخ
قشقہ	Qashqa	ا' ف	تلک' ٹیکا' صندل وغیرہ نشان جو ہندو ماتھے پر لگاتے ہیں
قشلاق	Qashlaq	ا' ع	وہ گرم مقام جہاں بادشاہ اور امیر سردیوں کا موسم گزاریں
قشون	Qishun	ت	فوج کا گروہ' رسالہ
قصیر	Qasir	ع	چھوٹے قد والا' ناٹے قد والا' پستہ قد' کوتاہی کرنے والا
قصیل	Qaseel	ع	سبز چارہ' گروہ' جماعت
قصیب	Qasib	ع	موصل کے ایک ولی اللہ حضرت شیخ قصیب البان موصلیؒ۔ حضرت غوث اعظمؒ کے مرید تھے۔ 570ھ میں وصال فرمایا۔ مزار مبارک موصل عراق میں ہے۔

marfat.com
Marfat.com

قصار	qasaar	ع	ایک ولی اللہ حضرت حمدون قصارؒ آپ کا مزار مبارک ہرات میں ہے۔
قضیب	Qazib	ع	تیز تلوار
قضاب	Qazab	ع	تیز تلوار
قضارا	Qazara	ع'ف	اتفاقاً' اچانک' یکایک
قطم	Qatim	ع	خواہش رکھنے والا
قطمیر	Qatmeer	ا'ع	اصحاب کہف کے کتے کا نام بہت چھوٹا
قطن	Qatan	ا'ع	کپاس روئی
قطیف	Qatif	ع	منتخب شدہ پھول' چنا ہوا پھول
قطب	Qutb	ع	ولی اللہ' بزرگ' سردار' افضل' اعلیٰ' مشہور ولی اللہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ جو کہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکرؒ کے مرشد تھے۔
قعید	Qaeed	ع	ساتھی' دوست' ہم نشین۔
قفال	Qaffal	ع	تالے بنانے والا' ایک عالم کا نام
قلندر	Qalander	ف	آزاد آدمی' سندھ کے مشہور ولی اللہ قلندر لعل شہبازؒ۔ مزار مبارک سیہون شریف میں واقع ہے۔
قلب	Qalb	ع	دل' ایک نام قلب عباس۔
قلوب	Qalub	ا'ع	قلب کی جمع' دل
قلیچ	Qalich	ف	شمشیر' تلوار
قلقان	Qulqan	ف	سپر' ڈھال
قلاوز	Quladz	ت	رہبر' رہنما' راستہ بتانے والا
قلاس	Qallas	ع	ٹوپیاں بنانے والا' دریا جس میں پانی کثرت سے ہو
قلاص	Qallass	ع	بلندی پر چڑھنے والا

marfat.com
Marfat.com

قلزم	Qalzum	ع	بحیرہ قلزم' گہرا دریا' گہرا کنواں
قلیب	Qalib	ع	کنواں
قیمت	Qeemat	ع	دام' بھاؤ
قیمن	Qamin	ع	قابل' لائق' اہل' موزوں' تیز رفتار
قمر	Qamer	ع	چاند' مہتاب' تاریخی ناول نگار قمر اجنالوی
قمرین	Qamrin	ع	سورج اور چاند
قمیس	Qamis	ع	سمندر' بحر
قمین	Qamin	ع	قابل' لائق' تیز رفتار
قمران	Qamran	ع	چاند اور سورج' آفتاب و مہتاب
قمقام	Qamqam	ع	قوم کا پیشوا' قوم کا سردار' دریا
قمروش	Qamrosh	ف	چاند جیسا حسین
قندیل	Qandil	ع	فانوس' ترکش' ایک نام قندیل حسن
قندیلا	Qandila	ا	مستحکم' استوار' کاغذ یا ابرک کا بڑا فانوس' تیز رفتار' بجلی کی طرح تیز
قنور	Qanur	ع	بڑے سر والا' بد مزاج' اکھڑ' سرکش
قنوع	Qanoo	ع	صابر و شاکر' صبر کرنے والا' قناعت کرنے والا
قنطر	Qantar	ع	اونچی عمارت' پل
قنبات	Qanbat	ع	قاصد' ایلچی
قنبر	Qanber	ع	پروں کی کلغی' حضرت علیؓ کے ایک غلام کا نام
قنبل	Qunbel	ع	ایک درخت کا نام' سخت آدمی' خوش مزاج اور پھرتیلا لڑکا
قوی	Qawi	ع	مضبوط' توانا' طاقتور' قوت والا' ایک نام محمد قوی خان۔
قویم	Qawim	ع	پائیدار' مضبوط' استوار' سیدھا
قوسی	Qosi	ع	کمان والا
قوت	Quwwat	ع	طاقت' زور

marfat.com
Marfat.com

قوسین	Qosain	ع	دو کمانیں
قہار	Qahar	ع	قہر کرنے والا
قہرمان	Qehrman	ف	خزانچی، خازن، حاکم
قہری	Qahri	ع	غصے والا
قیس	Qais	ع	دیوانہ، مجنوں، عاشق، مشائخ کبار میں سے ایک ولی اللہ حضرت شیخ حیوۃ حرانی کے والد کا نام۔ آپ حضرت غوث اعظمؒ کے دور میں گزرے ہیں۔ 551ھ میں وصال فرمایا۔ قبر مبارک موضع حران میں واقع ہے۔
قیص	Qais	ع	بلبلانے والا اونٹ
قیصر	Qaiser	ع	حکمران، والی سلطنت، حکومت کرنے والا
قیرمان	Qairman	ا ع	بہادر، حکمران، نڈر، حاکم، صاحب
قینات	Qainat	ع	ایلچی، پیغامبر، قاصد
قیوم	Qayyum	ع	قائم رہنے والا، قائم کرنے والا، حفاظت کرنے والا، نگہبان، نگران، منتظم، زندہ، اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی اسم مبارک۔
قیماز	Qimaz	ت	خدمتگار، غلام
قیم	Qaim	ع	نگاہ رکھنے والا، قائم کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام
قیافہ	Qayafah	ا ع	فال، شگون
قیام	Qayam	ع	ٹھہرنا، رہنا، قائم ہونا، سکونت، پائیداری، مضبوطی، استقلال، بھروسہ، اعتماد
قیاس	Qyass	ا ع	اندازہ، خیال، انکل، تخمینہ
قیفال	Qaifal	ع	سردار

marfat.com
Marfat.com

ک

کامران	Kamran	ع	کامیاب' فاتح' جیتا ہوا' فتح مند' ایک مغل شہزادہ کامران جس نے دریائے راوی کے کنارے بارہ دری بنوائی تھی۔
کامن	Kaman	ا	پوشیدہ' چھپا ہوا
کاظمین	Kazmin	ع	غصے کو پی جانے والے
کاثر	Kasir	ع	کثرت پر غلبہ پانے والا' کثیر پر قابو پانے والا
کاظم	Kazim	ع	غصے کو ضبط کرنے والا' غصے کو پی جانے والا' ساتویں امام موسیٰ کاظمؒ آپ کا انتقال خلیفہ ہارون الرشید کے قید خانہ میں ہوا تھا۔ مزار مبارک بغداد شریف عراق میں ہے
کابد	Kabed	ع	مشقت برداشت کرنے والا
کادح	Kadah	ع	کوشش کرنے والا
کاذب	Kazib	ع	جھوٹ بولنے والا
کاذی	Kazie	ع	کیوڑہ' کادی
کارب	Karab	ع	قریب ہونا
کارز	Karz	ع	خطیب' واعظ' وعظ کرنے والا
کارم	Karam	ع	کرم کرنے والا
کاعب	Kaab	ع	نزدیک ہونا' پاس ہونا' قریب ہونا
کاسف	Kasif	ع	ترش رو' کھنا' چھپانے والا
کاکا	Kaka	اف	بڑا بھائی' چچا' چھوٹا بچہ' بہت بوڑھا اور قدیم غلام
کاکل	Kakal	ف	زلف' گیسو' لٹ

marfat.com
Marfat.com

کاہن	Kahan	ع	فال بتانے والا' کوشش کرنے والا' جو دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہو
کائب	Kaib	ف	پاس ہونا
کاؤس	Kaoos	ف	ایران کے ایک بادشاہ کیکاؤس کا نام جو کہ مشہور پہلوان رستم کا آقا تھا۔
کاتب	Kateb	ع	لکھنے والا' محرر' خوش نویس
کافل	Kafel	ع	برداشت کرنے والا' غصہ پی جانے والا' غصہ ضبط کرنے والا' تحمل کرنے والا' بردبار
کافیہ	Kafia	ع	فوج کا سردار
کاتف	Katef	ع	ناپسند کرنے والا
کاجب	Kajeb	ع	کثیر' بہت' کافی' وافر
کاشف	Kashif	ع	آشکارا کرنے والا' عیاں کرنے والا' ظاہر کرنے والا
کاشی	Kashi	ع	منسوب بہ کاشان' نقاشی کا کام
کاشر	Kasher	ع	آپس میں ہنسنے والا' ایک نام سلیم کاشر
کاردار	Kardar	ف	عہدہ دار' منصب دار' پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان عبدالحفیظ کاردار۔
کانس	Kanes	ع	ہمیشہ حفاظت میں رہنے والا' ہمیشہ پناہ میں رہنے والا
کابر	Kaber	ع	سردار' بلند مرتبہ
کانب	Kanb	ع	آسودہ' خوشحال
کاشد	Kashed	ع	محنت سے روزی کمانے والا
کامود	Kamood	اُ ہ	مالکوس' راگ کی ایک قسم جسے رات کو گاتے ہیں
کامور	Kamur	ع	بسیط' وسیع' فراخ
کاموس	Kamus	اُ ع	ایک بادشاہ کا نام

marfat.com
Marfat.com

کامل	Kamel	ع	مکمل' تمام' پورا' اکمل' ایک ولی اللہ حضرت سید کامل شاہ قادریؒ۔ مزار مبارک بابو صابو لاہور میں واقع ہے۔
کامگار	Kamgar	ف	کامیاب و کامران
کاشان	Kashan	ف	ایک مشہور شہر کا نام
کاشانی	Kashani	ف	ایران کے شہر کاشان کا رہنے والا
کاسر	Kasir	ع	توڑنے والا
کارسنج	Karsenj	ف	صاحب لیاقت' کام سے واقف معاملہ فہم
کارسیخ	Karsikh	ف	عقلمند' دانشمند' قابل' صاحب لیاقت
کاتم	Katem	ع	چھپانے والا
کبریا	Kibria	ع	عظمت' بڑائی' بزرگی
کبیر	Kabir	ع	بڑا' بزرگ' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت شیخ کبیر قادری نوشاہیؒ۔ مزار مبارک لاہور میں ہے۔
کبار	Kabar	ع	بزرگ' بڑا' برگزیدہ
کباش	Kabash	ف	کی جمع
کبشہ	Kabshah	ع	حضور نبی کریم ﷺ کے ایک غلام کا نام ابوکبشہؓ۔ تمام غزوات میں شریک رہے۔ جس دن حضرت عمر فاروقؓ خلیفہ منتخب ہوئے اسی روز ۱۳ھ میں وصال فرمایا۔
کبوس	Kaboos	ع	زین پوش
کیش	Kash	اف	دین' مذہب' عادت' فطرت' ترکش
کتیب	Kateeb	ع	مکتوب' تحریر شدہ' لکھا ہوا
کتوم	Katoom	ع	راز چھپانے والا' بھید کی حفاظت کرنے والا
کتمان	Kitman	ع	پردے میں' چھپا ہوا' پوشیدہ' پوشیدگی
کتیف	Katif	ع	چوڑی شمشیر' چوڑی تلوار

marfat.com

Marfat.com

کسیب	Kaseeb	ع	ریت کا ٹیلہ
کثیف	Kaseef	ف	پردہ کرنے والا
کثیم	Kasim	ع	نزدیک ہونا' قریب ہونا' پاس ہونا
کثاب	Kasab	ع	بہت کثیر' وافر
کثار	Kasar	ع	گھنی داڑھی والا
کحال	Kahal	ا' ع	آنکھوں میں سرمہ لگانے والا
کحلت	Kahlat	ع	آنکھ کا سرگیں ہونا
کحیل	Kahil	ع	جس نے آنکھوں میں سرمہ لگایا ہوا ہو
کذاب	Kazab	ع	جھوٹ
کذافہ	Kazafah	ع	بے حساب' بے شمار
کراب	Karab	ع	وادی میں پانی کے نالے
کرامت	Karamet	ع	انوکھی بات' بڑائی' بزرگی' نوازش' حیرت انگیز' وہ حیران کن فعل جو انسانی عقل میں نہ آئے اور کسی ولی اللہ سے سرزد ہو۔
کریا	Karya	ف	بزرگی' عظمت
کریم	Karim	ع	مہربانی کرنے والا' کرم کرنے والا' سخی' اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی اسم مبارک۔ لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت سید کریم شاہ سہروردیؒ۔ قبر مبارک باغبانپورہ لاہور نزد کوٹھی میاں معراج دین واقع ہے۔
کریمان	Kareman	ع	حج اور جہاد
کرار	Karar	ع	بار بار حملہ کرنے والا' حضرت علیؓ کا لقب مبارک
کران	Kiran	ف	سرا' کنارہ' بربط
کرانی	Krani	ا	عیسائی' نصرانی' کرسچن' انگریزی دفتر کا کلرک' محرر

marfat.com

Marfat.com

کروبی	Karobi	ع	مقرب فرشتہ
کرم	Karem	ع	ہمت' مہربانی' لطف وعنایت' جوانمردی' لاہور کے ایک ولی اللہ سید کرم شاہ ولیؒ۔ مزار مبارک جی ٹی روڈ پر شاز دلیبارٹریز کے سامنے بائیں ہاتھ ریلوے کی کوٹھیوں کے ساتھ واقع ہے۔
کرمی	Kurmi	ہ	پورب کے ہندو زمینداروں کی ایک ذات
کرخی	Karkhi	ع	کرخ کا رہنے والا' منسوب بہ کرخ' مشہور ولی اللہ حضرت شیخ معروف کرخیؒ۔ آپ کا مزار مبارک بغداد شریف عراق میں ہے۔
کرام	Karam	ع	بلند مرتبہ' ذی مرتبہ لوگ' جوانمرد' سخی' مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور کے ایک ولی اللہ حضرت سید کرام الدین قادریؒ۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت غوث اعظمؒ سے چند واسطوں سے جاملتا ہے۔ مزار مبارک جیل روڈ پر ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہے۔
کرمانی	Kermani	ع	مہربانی کرنے والا' کرم کرنے والا' کرمان کا رہنے والا' ایک مشہور ولی اللہ شاہ شجاع کرمانی۔ وقت کے قطب اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کے والد کرمان کے بادشاہ تھے۔ 270ھ کو وصال فرمایا۔
کردک	Kurdek	ف	طاقتور' زور آور' قوی' پہلوان
کردگار	Kardgar	ف	خالق' خدا تعالیٰ
کردم	Kardam	ع	پستہ قد' بہادر
کسریٰ	Kasri	ع	بادشاہ
کسام	Kasam	ع	کھلا ہوا' شگفتہ

marfat.com

Marfat.com

کسوم	Kassoom	ع	تجربہ کار، چالاک آدمی
کثیف	Kaseef	ف	نشر، متی
کشف	Kashaf	ع	کھلنا
کشفی	Kashfi	ع	فاش کرنا، کھولنا، ظاہر کرنا، انکشاف کرنا، ایک نام ابوالخیر کشفی
کشاف	Kashaf	ع	عیاں کرنے والا، ظاہر کرنے والا، پردہ اٹھانے والا
کشود	Kashood	ف	کامیابی، کامرانی، فائدہ، نفع، پھیلنا
کظام	Kazam	ع	وادی کا دہانہ، بردبار
کظیم	Kazeem	ع	غمگین آدمی، غصہ پی جانے والا
کعب	Kaab	ع	بزرگی، تختہ، حضور نبی کریم ﷺ کے جانثار صحابی حضرت کعب بن مالک انصاریؓ۔ آپ نے ۷۷ برس کی عمر میں حضرت امیر معاویہؓ کے دور حکومت میں وصال فرمایا۔
کعیب	Kaeeb	ع	بلبل، عندلیب
کفایت	Kafayat	ع	کافی ہونا، بچت، ضامن ہونا، ذمہ دار
کفاح	Kafah	ع	جدوجہد، کوشش، کشمکش، محنت
کفیل	Kafil	ع	ضامن، ذمہ دار
کفات	Kafayat	ت	شیر
کفالت	Kafalat	ع	ضمانت، ذمہ داری، بار اٹھانا، پرورش
کلبار	Kalbar	ت	ایک تورانی پہلوان کا نام
کلج	Kalj	ع	بہادر لوگ
کلیم اللہ	Kalim-Ullah	ع	اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا، رب تعالیٰ سے گفتگو کرنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب۔
کلام	Kalam	ع	قول، بات، سخن، گفتگو

marfat.com

Marfat.com

کلال	Kalal	ع	ایک ولی اللہ کا نام حضرت سید امیر کلالؒ ۔ آپ خواجہ محمد بابا سماسیؒ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کا وصال بروز جمعرات ۸ جمادی الاول ۷۷۲ھ کو ہوا۔ مزار مبارک سوخار میں واقع ہے۔
کلاں	Kalan	ف	اونچا' بزرگ' بڑا' طویل
کلیم	Kalim	ع	بات کرنے والا' گفتگو کرنے والا' کلام کرنے والا' ہم سخن
کلف	Kilf	ع	چاہنے والا' عاشق' محبت کرنے والا
کلمانی	Kalmani	ع	بہت بات کرنے والا' فصیح زبان والا
کلید	Kalid	ف	چابی' کنجی
کمال	Kamal	ع	قابلیت' ہنر' اہلیت' لیاقت' انوکھی بات' سہروردی سلسلہ کے صاحب کرامت بزرگ حضرت شاہ کمال سہروردیؒ ۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں کے عہد میں آپ کا وصال ہوا۔ مقبرہ رحمان پورہ اچھرہ لاہور کے نزدیک راواں میں ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہے۔
کمانڈر	Kamander	ف	کمانڈر' کمان رکھنے والا
کمل	Kamal	ع	کامل ہونا' پورا ہونا' مکمل ہونا
کماچ	Kamach	ت	موٹی روٹی
کماۃ	Kamat	ع	مسلح سپاہی' بہادر لوگ' دلیر لوگ
کمیل	Kamil	ع	مکمل' کامل' صفات سے بھرپور
کناف	Kannaf	ع	ساحل' سمندر کا کنارہ
کنام	Kunam	ع	چراگاہ' گھونسلا' محل
کنٹھ	Kanth	ہ	ہار' تسبیح' مالا' گلا' ایک ولی اللہ حضرت شاہ کنٹھ قادری نوشاہیؒ ۔ آپ مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر کے عہد میں افغانستان سے لاہور آئے اور یہیں قیام اختیار فرمایا۔ آپ کا مزار شاہ کنٹھ سٹریٹ گوالمنڈی لاہور میں واقع ہے۔

marfat.com

Marfat.com

کنبور	Kanboor	ف	کڑک، گرج
کنور	Kanwer	ع	گرج، کڑک، رعد، بجلی کا چمکنا
کنور	Kanwar	ہ	راجہ، بادشاہ کا جانشین
کنول	Kanwel	ا	نیلوفر کا پھول، کول ڈوڈا
کنول نین	Kanwelnane	ا	کنول اسی آنکھوں والا
کنوم	Kunum	ع	بھید کی پورے طور پر نگہداشت کرنے والا
کنوز	Kanooz	ع	خزانے، کنز کی جمع
کنف	Kanaf	ع	کنارہ، ساحل، سرا، پناہ، جانب
کنیف	Kanif	ع	پردہ کرنے والا
کنعان	Kanaan	ع	حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام جو نافرمان تھا۔
کنیش	Kanish	ف	عمل، کردار، کام، فعل
کنہیا	Kan Hayya	ا ہ	سری کرشن جی، خوبصورت لڑکا معشوق
کنزالرحمن	Kanzurehman	ع	رحمن کا خزانہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ
کوشک	Koshek	ف	محل، قصر
کوشیار	Koshyar	ف	ایران کے ایک مشہور حکیم کا نام
کوفان	Kufan	ع	ریت کا تودہ، عزت، سرداری، بلندی، رنج و سختی
کوکب	Kokeb	ع	روشن ستارہ، تارا، تلوار، قوم کا سردار، لمبی گھاس، لوہے کی چمک
کوثر	Koser	ع	بہشت کی ایک نہر کا نام، ایک حوض کا نام جو جنت میں ہے۔ پاکستان کے ایک عالم دین اور سیاسی رہنما مولانا کوثر نیازی۔
کولاب	Kolab	ف	تالاب
کوشار	Koshar	ع	جدوجہد کرنے والا، کوشش کرنے والا، سامی
کوہچہ	Kohcha	ف	چھوٹا سا پہاڑ، ٹیلا

marfat.com

Marfat.com

کونین	Konain	ع	دونوں جہان' دین اور دنیا' پاکستان کے ایک مشہور نعت خواں جناب منظور الکونین۔
کوکلتاش	Kokeltash	ت	دودھ شریک کا بھائی۔
کوردین	Kordin	ف	موٹی چادر' کمبل
کودک	Kodek	ف	بچہ' لڑکا
کوتک	Kotek	ف	ڈنڈا' چھڑی' لاٹھی
کہین	Kaheen	ف	بہت چھوٹا
کیخسرو	Ke-Khusro	ف	فارس کے ایک مشہور بادشاہ کا نام
کیازند	Kiazend	ف	بزرگ' حاکم' بادشاہ
کیاف	Kiaf	ف	فطرت
کیاں	Kian	ع	فطرت' طبیعت
کیدان	Kadaan	ع	ستارہ زحل
کیف	Kaif	ف	سرور' نشہ' خمار' مستی
کیف الاسلام	Kaif-ul-islam	ع	اسلام کا سرور
کیانی	Kayani	ع	خصلت والا' عادت والا' فطرت والا' سرشت والا
کیانی	Kyani	ف	وہ چیز جو عظیم الشان بادشاہوں کے لائق ہو
کیفی	Kaifi	ع	مست' مخمور' سرشار' ایک شاعر کا نام کیفی اعظمی۔
کیہان	Kehan	ف	زمانہ' جہان' دنیا' کائنات
کیان	Kian	ع	فطرت' طبیعت
کیان	Kayan	ف	پورا ہونا' کامل ہونا' مکمل ہونا

marfat.com

Marfat.com

کیوان	Kewan	ع	ساتواں آسمان' زحل ستارہ
کیس	Kas	ع	ہوشیار' زیرک' دانشمند' عقلمند
کیکاؤس	Kaikaus	ف	دہلی کے حکمران معزالدین کے بھائی کا لقب' فارس کے ایک قدیم بادشاہ کا نام
کیقباد	Keqbad	ف	دہلی کے حکمران معزالدین کا لقب' فارس کے ایک قدیم بادشاہ کا نام۔
کیاست	Keyasat	ع	دانشمندی' عقلمندی' معاملہ فہمی' دانائی

marfat.com
Marfat.com

گ

گابانگ	Gabang	ف	نعرہ جنگ، بلبل کے چہکنے کی آواز
گاذرونی	Gazroni	ف	ایک ولی اللہ کا نام۔ حضرت ابواسحٰق بن شہریار گاذرونیؒ۔ آپ ایران کے رہنے والے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخشؒ کے ہم عصر ہیں۔ ۴۲۶ھ میں وصال فرمایا۔
گارز	Garz	ف	دھوبی
گالاسا	Gallasa	ا	بہت، زیادہ، سفید، ملائم
گان	Gaan	ف	اہل، قابل، سزاوار، لائق، موزوں، مناسب
گاوعنبر	Gau Amber	ا ف	وہ سمندری گائے جس کی نسبت لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ عنبر اگلتی ہے۔
گرد آفریدی	Gardafreed	ف	ایک ایرانی شہزادی کا نام
گرزین	Gerzin	ف	عرش، آسمان، فلک، مرصع، تاج
گراحی	Garàhi	ف	محترم، مکرم
گرامی	Garami	ف	معظم، مکرم، محترم
گرگین	Gurgin	ف	ایران کے ایک مشہور پہلوان کا نام
گرزم	Gurzem	ف	ایک ایرانی نام
گرازی	Garazi	ف	بہادر، دلیر، جری، نڈر
گرگانی	Gargani	ف	ایک ولی اللہ حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانیؒ۔ آپ حضرت داتا گنج بخشؒ کے دور میں گزرے ہیں۔ 450ھ میں وصال فرمایا۔

marfat.com
Marfat.com

گریز	Guraiz	ف	چارۂ علاج
گرین	Grain	ف	ناپسند
گزین	Guzien	ف	پسند کرنے والا، عمدہ، پسندیدہ
گزیر	Guzir	ف	چارہ علاج، تدبیر
گزیدہ	Guzida	ف	منتخب کیا ہوا، پسند کیا ہوا، چنا ہوا، پسندیدہ
گسیل	Gasil	ف	روانہ کرنا، رخصت کرنا، بھیجنا
گستہم	Gustehem	ف	فارس کے بادشاہ منوچہر کے پوتے کا نام، ایک ایرانی پہلوان کا نام
گل زیبا	Gull-e-Zaba	ف	دو رنگ کا پھول، گل رعنا
گل عذرا	Gull-e-azra	ف	پھول جیسے رخساروں والا
گل کوکب	Gulkokab	ف	ڈیلیا کا پھول
گل ہاشم	Gulhasham	ف	چنبیلی کا پھول
گلیم	Galim	ف	موٹی چادر، دھسہ، کمبل
گلیم پوش	Galeemposh	اُف	کمبل پوش جو کمبل اوڑھے رکھے
گل آفتاب	Gull-e-Aftab	ف	سورج مکھی کا پھول
گل ابر	Gullabar	ف	بادل کا ٹکڑا
گل احمر	GulAhmer	ف	گلاب کا پھول
گلریز	Gulraiz	ف	پھول چھڑنے والا۔ پھلجھڑی
گلستان	Gulsitan	ف	باغ، پھلواڑی، چمن، گلزار، رونق، ایک نام امیر گلستان
گلشن آراء	Gulshan Ara	ف	مالی، باغ کو سجانے والا
گل شگفتہ	Gullshaguftah	ف	کھلا ہوا پھول، آگ کا انگارہ

marfat.com

Marfat.com

گل صنوبر	Gull-e-Sanober	ف	پھول
گل لالہ	Gull-e-lala	اُف	ایک قسم کا سرخ پھول
گل مالا	Gullmala	اُہ	گجرا' گلے کا ہار
گل مان	Gulman	ف	پھول کی جان
گلنار	Gulnar	ف	انار کا پھول' سرخ رنگ
گل نسرین	Gull-e-nasreen	اُف	جنگلی پھول' سیوتی
گل رخ	Gulrukh	ف	گلاب کے پھول جیسے گال والا
گل رعنا	Gull-e-rana	اُف	ایک قسم کا سرخ' زرد' پھول' معشوق
گل جان	Guljan	ف	پھول کی جان
گلچین	Gullcheen	ف	پھول چننے والا' مالی
گل	Gill	ف	مٹی۔ خاک
گلفام	Gulfam	ف	پھول جیسے چہرے والا
گلفشاں	Gullfishan	اُف	پھول بکھیرنے والا' خوش گفتار
گل	Gull	ف	پھول
گلاب	Gulab	ف	پھولوں کی ایک قسم کا نام۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک مشہور اداکار گلاب چانڈیو۔
گلالا	Galala	اُ(قدیم)	پھول کا زیرہ
گل خندہ	Gullkhandah	اُف	منہ کھول کر ہنسنا' قہقہہ
گلدم	Gulldam	اُف	بلبل کی ایک قسم کا پرندہ جس کی دم سرخ پھول جیسی ہوتی ہے
گلزار	Gulzar	ف	گلستان' چمن' باغ' پھلواڑی
گلبار	Gulhaar	ف	پھول برسانے والا
گلباز	Gulbaz	ف	پھولوں سے کھیلنے والا
گلبار	Gulbar	ف	پھول برسانے والا

marfat.com
Marfat.com

گلبن	Gulban	ف	گلاب کا پودا
گل برگ	Gullbargh	اُف	گلاب کی پنکھڑی' مجازاً لب معشوق سفید رنگ کا ایک خوشبودار پھول جس کے پودے کا رنگ ہلدی کی طرح ہوتا ہے
گلبزار	Gulbazar	ف	چمن
گل بکاؤلی	Gull Bakauli	اُف	سفید رنگ کا ایک خوشبودار پھول جس کے پودے کا رنگ ہلدی کی طرح ہوتا ہے
گلفشاں	GulFishan	ف	پھول برسانے والا' پھلجھڑی
گلزمین	Gulzamin	ف	زمین کا خوبصورت ترین حصہ۔
گل جعفری	GullJafri	ف	پیلے رنگ کا گیندے کی طرح کا پھول۔
گل انداز	Gulandaz	ف	پھول توڑنے والا
گل اندام	Gull-e-Andam	ف	نازک بدن' پھول جیسے جسم والا محبوب
گنج بخش	GunjBaksh	ف	خزانہ بخشنے والا' فیض پہنچانے والا' سخی' مشہور ولی اللہ حضرت سید علی ہجویری المعروف حضرت داتا گنج بخشؒ۔ مزار مبارک لاہور میں واقع ہے۔
گھلن	Guillan	ف	ایک ولی اللہ کا نام۔ حضرت گھلن شاہ قادریؒ۔ مزار مبارک موری گیٹ لاہور کے باہر باغ میں واقع ہے
گدا	Gada	ف	طلب کرنے والا' مانگنے والا' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت شاہ گدا قادری شطاریؒ۔ مزار مبارک گڑھی شاہو لاہور میں واقع ہے۔
گنج	Ganj	ف	خزینہ' گنجینہ' خزانہ
گنجینہ	Ganjeenah	ف	خزانہ' دفینہ' ذخیرہ' مال گودام

marfat.com
Marfat.com

گنجور	Ganjoor	ف	خزانے کا مالک' خزانچی' خازن
گنیس	Ganees	ا و	شوجی اور پاربتی کا بیٹا' جسے ہندو دانائی اور مشکل کشائی کا دیوتا مانتے ہیں
گوتل	Gotal	ت	روشن
گولنداز	Golandaz	ف	برتوپچی
گوناب	Gonaab	ف	سنہری سرخی' گلگونہ
گونداز	Gondaz	ف	توپ چلانے والا' توپچی
گونل	Gonal	ت	منور' روشن' تاباں
گوزیل	Gozil	ت	دلیر' جری' نڈر' شجاع' بہادر
گوہری	Gohri	ف	جوہری' موتی والا' جواہرات والا
گونسل	Gonsel	ت	مقدس یوم' متبرک دن' پاکیزہ روز
گوہربار	Goharbar	ف	سخی' موتی برسانے والا
گوہرتاب	GoherTab	ف	موتی کی مانند چمکنے والا
گوندز	Gondz	ت	سورج۔ آفتاب۔ صاف چمکنا
گوہر	Goher	ف	موتی' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت سید گوہر علی شاہ۔ مزار مبارک حضرت میاں میر صاحب کے مزار کے قریب ہی واقع ہے۔
گورکھ	Gorkh	ف	ایک ولی اللہ کا نام۔ حضرت دیوان گورکھ قادریؒ۔ مزار مبارک چار دیواری مقبرہ حضرت شاہ حسینؒ باغبانپورہ میں واقع ہے۔
گویر	Goair	ف	میدان' جنگل' سیراب
گونش	Gonish	ت	سورج' آفتاب' شمس
گیتی آراء	Geeti Ara	ف	دنیا کو سجانے والا' دنیا کو زینت دینے والی

marfat.com

Marfat.com

گیتی آفرین	Geeti Afrin	ف	عالم کا پیدا کرنے والا' خدائے تعالٰی
گیتی فراز	Geeti Fraz	ف	دنیا کو روشن کرنے والا' سورج
گیتی فروز	GaitiFeroz	ف	دنیا کو روشن کرنے والا' دنیا کو منور کرنے والا
گیہان	Gehan	ف	جہاں' دنیا' زمانہ
گیتی بان	Getiban	ف	دنیا کا محافظ' دنیا کا رکھوالا' دنیا کا نگہبان
گیر	Gair	ف	تھامنے والا' پکڑنے والا
گیسودراز	Gaisu Draz	ف	جس کے بال بہت لمبے ہوں۔ سلسلہ چشتیہ کے مشہور ولی اللہ حضرت سید محمود گیسودرازؒ۔ مزار مبارک دکن بھارت میں ہے۔
گیش فروز	Gaishfroz	ف	دنیا کو منور کرنے والا
گیلانی	Gilani	ف	پھلجڑی' خزاں کا موسم' گلدستہ' عراق کے ایک صوبہ یا نواح بغداد کے ایک گاؤں کا نام' حضرت عبدالقادر جیلانیؒ سے نسبت رکھنے والا

marfat.com
Marfat.com

ل

لابد	Laabid	ع	سیر
لاتب	Latab	ع	چمٹنے والا' اپنی جگہ قاوم رہنے والا
لاجورد	Lajward	ف	ایک قیمتی نیلا پتھر
لامر	Lamar	ع	گونگا
لامز	Lamz	ع	اشاروں سے بات کرنے والا
لاعب	Laib	ف	کھیلنے والا' کھلاڑی
لامس	Lames	ع	چھونے والا
لامع	Lamay	ع	چمکنے والا' تاباں
لائق	Laiq	ع	اہل' قابل' مناسب' موزوں
لارب	Laarab	ف	چمٹنے والا
لاریب	Laraib	ع	بلاشبہ' بے شک' یقیناً
لازق	Laziq	ف	چپکنے والا
لازب	Lazib	ف	لگنے والا' چمٹنے والا
لاحظ	Laahiz	ع	انتظار
لاحف	Lahef	ع	مدد کرنا' ساتھ رہنا' امداد کرنا' حمایت کرنا
لاہب	Laheb	ف	بلند شعلوں والی آگ
لاہز	Lahiz	ع	پہاڑ اور ٹیلہ جو راستے کو تنگ بنا دے
لاہف	Lahef	ف	مظلوم' فریادی
لاچین	Lachin	ت	ترکوں کے ایک قبیلہ کا نام' شاہین پرندہ
لائم	Laim	ع	ملامت کرنے والا

marfat.com
Marfat.com

لافظ	Lafiz	ع	دُنیا' سمندر
لاگم	Laagam	ع	عنان حکومت
لائح	Laih	ع	چمکنے والا' تاباں' ظاہر' روشن
لال	Laal		سرخ' احمر' سوہا' دہکتا ہوا' خشمناک' پیارا' غصے میں بھرا ہوا' لاڈلا بیٹا' فرزند ناز پروردہ
لالہ فام	Lala Fam	ف	سرخ چہرے والا' لال
لالہ	Lalah	ف	سرخ رنگ کا پھول' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت لالہ بیگ قادری نوشاہیؒ۔ آپ کا انتقال 1143ھ میں ہوا۔ قبر مبارک لاہور میں ہے۔
لادن	Laden	ف	عنبر' ایک خوشبو
لاثانی	Lasani	ع	یگانہ' یکتا' بے مثل' بے نظیر' جس کی مانند کوئی نہ ہو' مشہور ولی اللہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ کا لقب
لاڈا	Lada	ہ	پیارا' معشوق' ناز و نعمت سے پالا ہوا' عاشق' دولہا
لبری	Labree	انگریزی	آزاد خیال' خود مختار' مطلق العنان سب کا بھلا چاہنے والا' جمہوری اور معاشرتی اصطلاحات کا حامی اور خیر خواہ
لبیب	Labib	ع	دانا' عقلمند' دانشمند' زیرک
لبق	Labq	ع	ہوشیاری' چالاکی' دانائی' سمجھداری' شعور
لبیق	Labiq	ع	دانا' دانشمند' عقلمند
لبین	Labin	ع	پرورش کیا ہوا' پالا ہوا' دودھ پلایا ہوا
لبید	Labid	ع	مشہور صحابی اور شاعر حضرت لبید بن ربیعہؓ۔ آپ کی کنیت ابو عقیل ہے۔

marfat.com
Marfat.com

لُبیہ	Lubih	ع	ایک صحابی حضرت عبداللہؓ کے والد کا نام۔ حضرت عبداللہ بن لُبیہؓ کو حضور نبی کریم ﷺ نے صدقات وصول کرنے پر عامل مقرر کیا تھا۔
لَتاف	Lataaf	ع	مہارت' کمال' ہوشیاری
لقب	Laqab	ا'ع	وہ نام جو کسی خاص مدح یا خرم کے سبب پڑ گیا ہو۔ جمع القاب
لقس	Laqis	ع	لوگوں کے لقب رکھنے والا' مسخرا' حریص' غیر مستقل مزاج
لقیط	Laqit	ع	حضور نبی کریم ﷺ کے ایک غلام حضرت ابولقیطؓ۔ آپ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت تک حیات رہے۔
لُبابہ	Lubabah	ع	حضور نبی کریم ﷺ کے جانثار صحابی حضرت ابولبابہ رفاعہؓ۔ آپ نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا۔ آپ نے حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں وصال فرمایا
لُجین	Lajin	ع	خالص چاندی
لَجاف	Lajaaf	ع	پہاڑ کا غار
لَجام	Lajam	ع	عنان' باگ' لگام
لبان	Luban	ع	دودھ بیچنے والا
لُحام	Luham	ع	سونے چاندی کا ٹکڑا
لحیانی	Lihyani	ع	لمبی داڑھی والا آدمی
لحیم	Laheem	ع	موٹا' فربہ
لخشان	Lakhshan	ع	نہایت صاف ستھری چیز
لرگیماس	Largamass	ع	زعفران' کیسر
لزاز	Lizaz	ع	دروازہ کا پشتیبان' سریش' بہت چپکنے والی چیز' حضورؐ کے گھوڑے کا نام
لزوق	Luzuq	ع	چپکنا

marfat.com

Marfat.com

لزیق	Luziq	ع	پاس، نزدیک، قریب، ساتھی، رفیق
لزیر	Luzir	ع	متقی، پرہیزگار، پارسا
لزم	Luzm	ع	منصف، حاکم، فیصلہ کرنے والا
لسان	Lisan	ع	اسلام کی زبان
لدھے شاہ	LadheShah	ع	لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت شیخ لدھے شاہ قادریؒ۔ آپ نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں وصال فرمایا۔ قبر مبارک حضرت شاہ محمد غوث قادریؒ کے مزار بیرون دہلی گیٹ لاہور کے قریب ہے۔
لشکر	Lashker	ف	فوج، ہجوم، سپاہ، جیش
لشکری	Lashkeri	ف	فوجی، سپاہی
لضیف	Lazeef	ع	مخلوط گروہ، گھنے درخت، درختوں کا جھنڈ
لطفان	Lutfan	ع	نرمی کرنے والا، کرم کرنے والا، مکرم، مہربان
لطافت	Latafat	ع	قابلیت، خوبی، عمدگی، اہلیت
لطیف	Latif	ع	نرم، نازک، باریک بین، ملائم، مشہور ولی اللہ حضرت بری امام کا اصلی نام حضرت شاہ عبداللطیف قادریؒ۔ مزار مبارک اسلام آباد سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلہ پر نوپور شاہاں میں واقع ہے۔
لطاف	Lataf	ع	بہت نرمی برتنے والا
لطف	Lutf	ع	عمدگی، نرمی، لذت، لاہور کے ولی اللہ حضرت لطف اللہ قادریؒ۔ 1155ھ میں وصال ہوا۔
لعل	Laal	ع	لال، سرخ نگینہ، لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت شیخ لعل خیاط قادری نوشاہیؒ۔ آپ کا وصال 1187ھ میں لاہور میں ہوا
لصیف	Lasif	ع	تابندگی، درخشندگی، چمک، روشنی

marfat.com
Marfat.com

لصیق	Laseeq	ع	پہلو میں بیٹھنے والا' برابر بیٹھنے والا
لعلین	Lalin	ع	سرخ نگینے کی مانند
لعلی	Lali	ع	سرخ رنگ
لعین	Laeen	ع	ملعون' مردود' بدبخت' دوزخی
لفیظ	Lafeez	ع	پھینکا ہوا
لفیف	Lafif	ع	درختوں کا جھنڈ' گھنے درخت' لپٹا ہوا' دوست
لفاظ	Lafaz	ع	خوش بیاں' بہت باتیں کرنے والا' خوش گو
لقا	Laqa	ع	شکل' صورت' دیدار
لقمان	Luqman	عبر	ایک مشہور حکیم کا نام' عقلمند' دانا' تجربہ کار' دانشمند' ذہین' فہیم' زیرک
لقاف	Laqaf	ع	کمال' مہارت' ہوشیاری
لقن	Laqan	ع	جلد سمجھنے والا' بہت سمجھدار
لقانہ	Laqah	ع	حاضر جواب' حاضر دماغ
لقانت	Laqanat	ع	دانشمند ہونا' فہیم و فراست مند ہونا
لقاط	Laqat	ع	گرے ہوئے خوشوں کو اکٹھا کرنا
لقاعت	Laqat	ع	حاضر جواب ہونا
لمیح	Lamyah	ع	بہت کھانے والا' بہت جماع کرنے والا
لمیک	Lamik	ع	سرگیں آنکھوں والا
لماز	Lamaz	ع	آنکھ سے اشارہ کرنے والا
لمع	Lama	ع	روشنی' چمکنا' چمکنے والا' منور' تاباں و درخشاں
لماز	Lamaaz	ع	آنکھوں کے اشارے کرنے والا
لمعان	Lamaan	ع	چمکیلا' چمکنے والا
لموع	Limoo	ع	روشن ہونا' منور ہونا' چمکنا

marfat.com

Marfat.com

لودھی	Lodhi	اُ ہ	ہندوستان کے مشہور افغان' شادی خاندان کا نام' پٹھانوں کا ایک قبیلہ
لوشا	Losha	ف	روم کے ایک مشہور مصور کا نام
لوط	Loot	ع	دل کو بھانے والی چیز' ایک پیغمبر علیہ السلام کا نام
لواز	Liwaz	ف	باہم ایک دوسرے کی حفاظت میں آنا
لواز	Lawaz	ع	نزدیک' پاس' قریب
لوقا	Luqa	ع	حضرت عیسیٰ کے ایک حواری کا نام
لوید	Laweed	ف	دیگ' بڑا پتیلہ
لوزعی	Loozie	ع	دانشمند' عاقل' دانا' عقلمند' جلد سمجھنے والا' سمجھدار
لواش	Lawash	ت	باریک اور نرم چپاتی
لہری	Lehri	ہ	زندہ دل' منچلا' ظریف' ہنسانے والا' من موجی' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت بابا لہری شاہ قادری نوشاہیؒ۔ آپ کا وصال 1336ھ میں ہوا۔ مزار مبارک پیر غازی روڈ اچھرہ لاہور میں واقع ہے۔
لہنا	Lahna	اُ ہ	قسمت' نصیب' بھاگ' بخت فائدہ
لہوم	Lahum	ع	بہت کھانے والا
لہیم	Lahim	ع	سبقت لے جانے والا' بازی لے جانے والا
لہاق	Lahaaque	ع	سفید بیل ہر سفید چیز
لہام	Liham	ع	الہام
لہراسپ	Luhr Asp	ف	ایران کے اسفندیار کے دادا کا نام
لئیق	Laeeque	ع	نزدیک' پاس' قریب
لئیق	Laeeq	ع	قابل' لائق' اہل' موزوں' مناسب
لئیم	Laeem	ع	سبقت لے جانے والا

marfat.com

Marfat.com

لیست	Laeest	ع	مشکل
لیلوفر	Lilofar	ف	نیلوفر' کنول کا پھول
لیمان	Leman	ت	کھٹا' ترش
لیت	Lait	ع	مشکل' ناممکن
لیث	Lais	ع	ببر شیر' خوش بیاں
لیاقت	Liaqat	ع	اہلیت' قابلیت' خوبی' سمجھ' پاکستان کے سابقہ وزیراعظم نواب زادہ لیاقت علی خان جن کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔
لیزم	Laizm	ع	نرم کمان' لچکدار کمان

marfat.com
Marfat.com

م

مانج	Manaj	ف	سخی، فیاض
مانع	Maney	ع	منع کرنے والا، باز رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک۔
مانک	Mank	ہ	یاقوت، لعل
ماح	Mah	ع	محو کرنے والا، حضور اکرم ﷺ کا اسم مبارک۔
مادخ	Madekh	ع	معزز، محترم، برگزیدہ، مکرم
ماعون	Maoon	ع	بارش، پانی
ماسد	Masid	ع	جہاں بہت شیر ہوں، شیر والا
ماہد	Mahid	ع	بچھانے والا
ماہر	Maher	ع	استاد کامل، ماہر، مہارت رکھنے والا
ماہِ کنعان	Mah-e-kanan	ف	کنایۃً حضرت یوسف علیہ السلام
مامون	Mamoon	ع	محفوظ، بے خوف، حفاظت میں، عباسی خلیفہ مامون عبداللہ ابوالعباس جو ہارون الرشید کا بیٹا تھا۔
ماشاءاللہ	Mashallah	ع	اللہ تعالیٰ جو چاہے
مالک	Malik	ع	آقا، فقہ مالکی کے امام "مالک"
مانت	Mant	ع	مانند، مثل، مشابہ
ماجد	Majid	ع	برگزیدہ، قابل عزت، قابل احترام، بزرگ، ایک ولی اللہ حضرت شیخ ماجد کردی۔ آپ کا وصال 561ھ کو ہوا۔ قبر مبارک جبل حمرین میں ہے۔
ماجل	Majal	ع	وادی یا پہاڑ کے دامن کا پانی
ماحل	Mahal	ع	جھگڑالو، لڑاکا

marfat.com

Marfat.com

ماخر	Makhar	ع	کشتی ناؤ
مارب	Marb	ف	ضرورت
مارد	Mared	ع	بلندو بالا' اونچا' باغی' سرکش
ماروت	Maruat	ع	ایک فرشتہ کا نام
ماموں	Mamoon	ع	بارش' پانی' مینہ
مارِب	Marib	ع	مطلب' مقصد' ضرورت' حاجت
ماشد	Mased	ع	پہچاننے والا' شناخت کرنے والا
ماثر	Mair	ع	نیک کام کرنے والا
مانح	Manih	ف	فیاض' سخی' سخاوت کرنے والا
ماب	Maab	ع	لوٹ کر آنے کی جگہ' ٹھکانا
مابوت	Mabuat	ع	تیز مزاج آدمی' غصیلا
مابور	Maboor	ع	حضور نبی کریم ﷺ کے صحابی اور آزاد کردہ غلام حضرت مابورؓ۔ آپ حضرت ماریہ قبطیہؓ کے عزیز ہیں۔ آپ کو متوقس شاہ اسکندریہ نے سیدہ ماریہؓ کے ساتھ مدینہ میں بھیجا تھا۔
ماثر	Masir	ع	نیک لوگ' نشانیاں' علامات' اچھے آثار
ماثل	Masil	ع	صفت والا
ماثیل	Maseel	ع	مجسمہ ساز
ماہن	Mahin	ع	خادم' خدمت کرنے والا
ماصف	Masif	ع	صاف وشفاف
ماراب	Marab	ف	جو نیا نیا دولت مند ہوا ہو
ماری	Mari	ع	سینٹ' عیسائی' ولی
ماریا	Marria	ع	بلند' سرفراز' تیز
ماہچہ	Mahicha	ف	جھنڈے پر لگانے والا چھوٹا چاند

marfat.com

Marfat.com

ماہتاب	Mahtab	ف	چاند
مانی	Mani	ف	ایک مشہور رومی نقاش کا نام
مانستہ	Manesta	ف	مانند' مشابہ' مثل
مالوف	Maloof	ع	مانوس' محبوب' جانا پہچانا
ماطر	Matir	ع	ابر' بادل' برسنے والا
مازق	Maziq	ع	میدانِ جنگ
مازن	Mazin	ع	اجازت دیا ہوا' پروانگی دیا ہوا
مازنی	Mazni	ع	علم نحو کے ایک مشہور عالم کا نام
ماذن	Mazan	ع	میدان جنگ
ماذون	Mazun	ع	مامور' مقرر' متعین' اجازت دیا گیا
مادح	Madeh	ع	تعریف کرنے والا' صفت بیان کرنے والا
ماشد	Mashad	ع	جہاں بہت شہر ہوں
ماہی	Mahi	ف	مچھلی' برج حوت' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت ماہی شاہ قادری۔ آپ کا مزار مبارک ہال روڈ لاہور پر برلب سڑک دکانوں کے ساتھ واقع ہے۔
ماحی	Mahi	ع	مٹانے والا' محو کرنے والا
ماہیر	Mahir	ع	دلیر' شجاع' بہادر
مادھو	Madho	ہ	لاہور کے ایک مشہور بزرگ حضرت شیخ مادھو قادری۔ آپ شاہ حسین کے مرید خاص اور خلیفہ تھے۔ آپ کا وصال مغل شہنشاہ شاہجہان کے عہد میں 72 سال کی عمر میں 1056ھ کو ہوا۔ مزار مبارک باغبانپورہ میں ہے۔
مبازر	Mubazer	ع	لڑنے والا' جنگجو
مبارز	Mubarez	ع	فوجی' سپاہی' جنگجو

marfat.com
Marfat.com

مبتور	Mabtur	ع	رئیس' مالدار' بہت امیر' دولتمند
مبثور	Mabsoor	ع	بڑا دولت مند
مبلغ	Mubligh	ع	تبلیغ کرنے والا' پہنچانے والا' حضور سرورکائنات ﷺ کا صفاتی اسم مبارک۔
مبرم	Mubrem	ع	پائیدار' پکا' مستحکم' مضبوط
مبسام	Mibsam	ع	بہت مسکرانے والا
مبغم	Mabgham	ع	مالدار
مبین	Mubin	ع	روشن' واضح' عیاں' صاف' ظاہر ہونے والا
مبارک	Mubarek	ع	خوشخبری' مژدہ' تہنیت' خوش آئند' باعث برکت
مبشر	Mubashar		جس کی خوشخبری دی گئی ہو
مبشر	Mubasher	ع	خوشخبری دینے والا
مبرد	Mabrud	ع	سرد
مبدہ	Mibdah	ع	فی البدیہہ بولنے والا
مبروک	Mabruk	ع	مبارک' مژدہ' خجستہ' خوشخبری
مبدی	Mubdi	ع	پیدا کرنے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
مبصر	Mubsir	ع	پرکھنے والا' جانچنے والا' دیکھنے والا
مبرا	Mobrra	ع	پاک' بے عیب
مبہج	Mubhaj	ع	خوش' پرمسرت' مسرور' شاداں' فرحاں
مبقی	Mubqi	ع	باقی رکھنے والا
مبرور	Mabrur	ع	مقدس' پاکیزہ' پاک' منزہ' قبول کیا ہوا
مبرز	Mubrez	ع	تاباں' درخشندہ' منور' روشن' ظاہر' عیاں' واضح' نامور' مشہور
مبدع	Mubdeh	ع	ایجاد کرنے والا' موجد
مبدرق	Mubrezq	ع	رہنما' رہبر' راستہ بتانے [illegible]

marfat.com
Marfat.com

متبسم	Mutbesem	ع	ہنسنے والا' مسکرانے والا
مبادِر	Mubadir	ع	عجلت کرنے والا' جلدی کرنے والا' جرأت کرنے والا
مباح	Mubah	ع	ٹھیک' جائز' روا
متانت	Matanat	ع	سنجیدگی' پائیداری' مضبوطی
متوسط	Mutwast	ع	میانہ رو' حضور سرور کائنات ﷺ کا صفاتی اسم مبارک
متیم	Mutim	ع	حکم ماننے والا' فرمانبردار' تابع فرمان
متعمد	Mutamid	ع	قصد کرنے والا' بالقصد کوئی کام کرنے والا
متعال	Mutaal	ع	بلند مرتبہ' عالی
متقی	Mutaqi	ع	عبادت گزار' پرہیزگار' صالح
متعالی	Mutaali	ع	بزرگ' برگزیدہ' برتر
متین	Mutin	ع	مضبوط' سنجیدہ' مستحکم' پائیدار' استوار
متناعم	Mutnaam	ع	نازک' ملائم' نرم' کومل
متادی	Mutadi	ع	پہنچانے والا
متالہ	Mutali	ع	اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا' عابد و زاہد
متبادر	Mutbadir	ع	فوری سمجھ میں آنے والا
متبسم	Mutbasam	ع	مسکرانے والا
متدین	Mutidin	ع	نیکوکار' ایماندار' دیندار' امانتدار
مترقب	Mutraqib	ع	انتظار کرنے والا
مترصد	Mutrasid	ع	آس رکھنے والا' امید رکھنے والا
متسع	Mutsey	ع	کھلا' کشادہ' فراخ' وسیع
متعبد	Mutabid	ع	عبادت کرنے والا۔ عابد و زاہد
متقاتی	Muttaqati	ع	بزرگ
متقارِب	Mutqarib	ع	ایک دوسرے کے قریب' ایک دوسرے کے نزدیک

marfat.com

Marfat.com

متکبر	Mutakabir	ع	خود پسند' مغرور
متکفل	Mutkafil	ع	ضامن' کفیل' ذمہ دار' ذمہ لینے والا
متمائل	Mutmail	ع	آرزو کرنے والا' خواہش کرنے والا
متمم	Mutmam	ع	مکمل کرنے والا' پورا کرنے والا
متوکل	Mutwakkal	ع	اعتماد کرنے والا' بھروسہ کرنے والا' عباسی خلیفہ متوکل جو کہ خلیفہ ہارون الرشید کا پوتا تھا' واثق باللہ کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھا' 5 شوال 247ھ میں قتل کر دیا گیا تھا۔
مثیل	Musil	ع	شبیہ' ہم مثل' مانند' ہو بہو' عمدہ' ہم شکل
مثاب	Musab	ع	صلہ کے لائق' اجر کے لائق
مثابت	Masabut	ع	مانند' ہم مثل' مشابہ' شبیہ
مثیب	Musib	ع	بدلہ دینے والا' عوض دینے والا' اچھائی کا بدلہ دینے والا
مثنیٰ	Musna	ع	دوسرا' ثانی' حضرت علیؓ کے پوتے اور امام حسنؓ کے صاحبزادہ حضرت حسن مثنیٰؒ۔
مثمر	Musmer	ع	پھل رکھنے والا' فائدہ مند
مثمور	Musmur	ع	بہت زیادہ' وافر' لاتعداد' بے انتہا
مثقال	Musqal	ع	سونے کا ایک سکہ
مجدد	Mujaddad	ع	نیا پیدا کیا گیا
مجدد	Majaddad	ع	نیا کام کرنے والا' تجدید کرنے والا' بغداد کے ایک مشہور ولی اللہ شیخ مجد الدین بغدادیؒ۔ آپ حضرت نجم الدین کبریٰؒ کے خلیفہ تھے۔
مجاز	Mujaz	ع	راستہ' رہ گزر' خلاف حقیقت' جس کو اختیار دیا گیا ہو' ایک نام سرور مجاز۔
مجتہد	Mujtahid	ع	اجتہاد کرنے والا' کوشش کرنے والا

marfat.com
Marfat.com

مجیب	Mujib	ع	قبول کرنے والا' جواب دینے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک' مشہور ادیب اور صحافی مجیب الرحمٰن شامی۔
مجاہد	Mujahid	ع	اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والا
مجیر	Mujir	ع	مددگار' معین' دستگیر' حفاظت کرنے والا' پناہ دینے والا معاون
مجیز	Mujeeze	ع	ولی' سرپرست' یتیم کی نگرانی کرنے والا' وہ غلام جسے تجارت کرنے کی اجازت ہو
مجمل	Mujmal	ع	مختصر' اختیار' خلاصہ' انتخاب
مجید	Mujid	ع	پاک' بڑا' بڑا اعظیم
مجتبیٰ	Mujtaba	ع	برگزیدہ' منتخب' چنا ہوا' حضور نبی کریم ﷺ کا ایک صفاتی اسم مبارک۔
مجی	Muji	ع	آنا' وارد ہونا' ایک فائیٹر کا نام مجی شاہ۔
مجوز	Majuz	ع	رائے دینے والا' فیصلہ دینے والا' مشورہ دینے والا
مجنون	Majnoon	ع	احامبد
مجنوں	Majnoon	ع	عاشق' دیوانہ' ایک شاعر کا نام مجنوں گورکھپوری۔
مجلیٰ	Mujla	ع	روشن' صاف' منور' تاباں' درخشندہ
مجدود	Majdood	ع	خوش بخت' خوش قسمت' مقدر والا
مجاہز	Mujahiz	ع	سامان ٹھیک کرنے والا' اسباب درست کرنے والا
مجاور	Mujawer	ع	ہمسایہ' پڑوسی' خدمت کرنے والا
محب	Muhib	ع	پیار کرنے والا' محبت کرنے والا' مغل شہنشاہ شاہجہاں کے دور کے ایک ولی اللہ حضرت شیخ محب اللہؒ۔ شرح فصوص الحکم آپ کی بہترین تصنیف ہے۔ مزار مبارک اکبر آباد میں ہے۔
محتان	Muhtan	ع	بہت بھلائی کرنے والا' بہت احسان کرنے والا

marfat.com
Marfat.com

محتشم	Muhtasham	ع	امیر' دولت مند' رئیس' عزت والا' جاہ و جلال والا
محتضر	Muhatzar	ع	شہر میں آنے والا
محلل	Muhlal	ع	حلال کرنے والا
محستان	Muhstan	ع	بہت احسان کرنے والا' بہت بھلائی کرنے والا' بہت نیکی کرنے والا
محدث	Muhaddas	ع	وہ آدمی جس کا گمان بچا ہو
محرم	Muharram	ع	پہلا اسلامی مہینہ' صلح کرنے والا' وہ عزیز جس سے شرعی طور پر پردہ کرنا ضروری نہ ہو' خانہ کعبہ کی چاردیواری
محاد	Mahaad	ع	مقابلے کی جگہ' میدان
محاقل	Mahaqel	ع	کسان' کھیتی کرنے والا
محامل	Muhamil	ع	عمدگی' نیکیاں' بھلائیاں' اچھائیاں
محرور	Mahrur	ع	حرارت والا' گرم
محروس	Mahruse	ع	حفاظت کیا ہوا
محاص	Muhas	ع	آسمانی بجلی' چمکنے والی بجلی
محاصب	Muhasib	ع	حساب کرنے والا
محسن	Mohsin	ع	احسان کرنے والا' بھلائی کرنے والا' پاکستان کے ایک مشہور کرکٹر محسن حسن خان۔
محسنان	Mohsinan	ع	بھلائی کرنے والا
محمر	Mehmer	ع	بوجھ اٹھانے والا گھوڑا' لوہے کا کوئی اوزار جس سے کھال یا بال اتارے جائیں
محمود	Mahmood	ع	تعریف کیا گیا' پسندیدہ' سلسلہ چشتیہ کے ایک ولی اللہ سید محمود گیسو دراز۔ آپ نے 104 برس کی عمر میں وصال فرمایا۔
محود	Mahood	ع	تعریف کیا گیا

marfat.com
Marfat.com

محی	Mohi	ع	زندگی عطا کرنے والا' حیات بخشنے والا' زندہ کرنے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک۔ ایک مشہور بزرگ حضرت شیخ محی الدین عربی۔ آپ کی تصانیف کی تعداد پانچ سو سے زیادہ ہے۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔
محیث	Mahees	ع	بادشاہ
محیط	Muhit	ع	گھیرا ہوا' احاطہ کرنے والا
محکم	Mohkam	ع	قائم' مضبوط' استوار' پکا' ایک نام محکم الدین۔
محترم	Mohtrem	ع	مغلیہ دور کے ایک مشہور حضرت شیخ محترم نقشبندی۔ آپ شہنشاہ اکبر کے زمانہ میں لاہور تشریف لائے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مقبرہ سوان نگر جی ٹی روڈ لاہور میں واقع ہے۔
محاصر	Mahasir	ع	گھیرنے والا' محاصرہ میں لینے والا
محیر	Muhayyur	ع	حیران کرنے والا' حیرت میں ڈالنے والا
محی الدین	Muhayyudin	ع	دین کو زندہ کرنے والا' مغل شہنشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر۔
محمد	Muhammad	ع	بہت تعریف کیا ہوا' حضور سرور کائنات ﷺ کا اسم مبارک۔
محفوظ	Mahfooz	ع	جس چیز کی حفاظت کی جائے' مامون' باحفاظت
محظوظ	Mahzooz	ع	خوش قسمت' خوش بخت' بختاور' مزہ اٹھانے والا' مالدار' بہرہ مند
محصن	Muhsin	ع	متقی' پرہیزگار' عبادت گزار
محسود	Mahsood	ع	جس سے رشک کیا جائے' رشک کیا ہوا
محذور	Mahzoor	ع	ڈرانے والا
محذورہ	Mahzooraa	ع	ایک صحابی حضرت اوس بن مغیرہ کی کنیت۔ ابو محذورہ۔ آپ حضور نبی کریم ﷺ کے دور میں مؤذن تھے۔ آپ مکہ مکرمہ میں اذان دیا کرتے تھے۔

marfat.com

Marfat.com

محراک	Mihraq	ع	حرکت کرنے والا' حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام
محتسب	Muhtasib	ع	حساب کرنے والا' محاسبہ کرنے والا
محتجب	Muhtajib	ع	پردہ کرنے والا' چھپنے والا' پوشیدہ
محبوب	Mahboob	ع	دوست' پیارا' رفیق' حبیب
محبوس	Mahabuss	ع	اپنے زمانہ کا معزز آدمی جس کا سب حکم مانتے ہوں
محافظ	Muhafiz	ع	نگہبان' رکھوالا' نگرانی کرنے والا' حفاظت کرنے والا
محافل	Mahafil	ع	محفل' انجمن
محمش	Mahmish	ع	نیشاپور ایران کے ایک مشہور بزرگ عالم دین کا نام
محشف	Mahshaf	ع	راہبر' ولیہ
محشم	Mahsham		رئیس' حشمت والا' دولت مند
محشود	Mahashud	ع	وہ آدمی جس کا لوگ حکم مانیں اور اس کی خدمت میں دوڑ کر آئیں
محشور	Mahshoor	ع	قیامت میں اٹھایا گیا
محشر	Mahshar	ع	قیامت
محمت	Muhamt	ت	محمد (ﷺ) بہت تعریف کیا ہوا۔
محاسب	Muhasib	ع	حساب کرنے والا' محاسبہ کرنے والا
محصد	Muhzid	ع	خالص' اصل
محضر	Mahzar	ع	شاہی حاضری' درخواست' حاضر ہونے کی جگہ
محترس	Muhtris	ع	چوکنا' ہوشیار' خبردار' چوکس
محارب	Muhareb	ع	جنگ کرنے والا
محسان	Muhsaan	ع	بہت زیادہ احسان کرنے والا' بہت بھلائی کرنے والا
مخزن	Mukhzen	ع	خزینہ' خزانہ' جہاں پر خزانہ رکھا ہوا ہو۔
مخدوم	Makhdum	ع	قابل عزت' قابل احترام' قابل تعظیم' برگزیدہ' بزرگ

marfat.com
Marfat.com

مخشف	Mukhaf	ع	راہبر' دلیر
مخراق	Mukhraq	ع	خوبصورت جسم والا' حسین بدن والا
مختار	Mukhtar	ع	آزاد' مرضی کا مالک' با اختیار
مخشف	Mukhshaf	ع	رہنما' رہبر' راستہ دکھانے والا' دلیر' بہادر
مخل	Makhal	ع	کشادہ ہونے والا' کھلنے والا
مخلد	Mukhlid	ع	ہمیشہ' سدا' دائمی' مدام
مختوم	Makhtum	ع	سربمہر' مہر لگا ہوا' ہنرمند' مہر شدہ
مخیل	Mukhayal	ع	جس کا خیال کیا جائے
مخضر	Mukhzir	ع	ہرا بھرا' سرسبز و شاداب' بابرکت' مبارک' سعد
مدثر	Madshar	ع	وہ جس کے کمبل لپیٹا ہوا حضور ﷺ کا لقب
مدون	Madoon	ع	مرتب' جمع کیا ہوا' منظم
مدعم	Madam	ع	حضور نبی کریم ﷺ کے ایک غلام کا نام۔ان کو حضرت رفاعہ بن زید بن جذامیؓ نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا تھا۔
مدبر	Mudabbir	ف	عقلمند' دانشمند' صاحب تدبیر' دانا
مدیان	Madyaan	ع	بہت قرض دینے یا لینے والا
مدید	Mudid	ع	لمبا' دراز' طول
مدینہ	Madinah	ع	ایک مشہور شہر
مدحت	Midhet	ع	توصیف' ستائش' تعریف' صفت
مدین	Mudin	ع	جس سے حساب لیا گیا ہو' شیر
مدثر	Madasser	ع	کمبل پوش' جس نے کمبل لپیٹا ہوا ہو' حضور نبی کریم ﷺ کا صفاتی اسم مبارک۔
مدیح	Madih	ع	جس کی تعریف کی گئی ہو
مدنی	Madni	ع	مدینہ طیبہ کا رہنے والا

marfat.com
Marfat.com

مدمن	Madammin	ع	کسی شے کو ہمیشہ کرنے والا
مدرب	Mudarrab	ع	تجربہ کار آدمی' شیر' سدھایا ہوا سواری کا اونٹ
مدرک	Mudriq	ع	دانشمند' عقلمند' فہیم' دانا' عاقل
مدام	Mudam	ع	ہمیشہ' سدا' دائمی
منذر	Mandar	ع	ڈرانے والا
منذیب	Mandeeb	ع	پگھلانے والا
مذکر	Muzkir	ع	یاد دلانے والا
مذنب	Maznab	ع	گنہگار
مرزاب	Murzab	ف	میزاب' پرنالہ
درشح	Dursheh	ف	پانی لگانا' سیراب کرنا
مرام	Muram	ع	مقصد' مراد' مطلب' مدعا' غرض
مربی	Murabbi	ع	پرورش کرنے والا' پالنے والا
مراتب	Muratib	ع	بلندیاں' درجات' بلند مقام
مرزوق	Merzuk	ع	خوش قسمت' نیک بخت' خوش نصیب
مریان	Meryaan	ع	رات کو چلنا ایک شے کا دوسری شے میں ضم ہونا
مرید	Mureed	ع	پیروکار' معتقد' شاگرد
مرتسم	Murtasam	ع	نقش پکڑنے والا
مرتضیٰ	Murteza	ع	پسندیدہ' مقبول' حضرت علیؓ کا لقب
مرتمور	Martmoor	ت	افسر
مریح	Mareeh	ع	رہا کرنے والا' آزاد کرنے والا
مرتاض	Murtaz	ع	عبادت کرنے والا' ریاضت کرنے والا

marfat.com

Marfat.com

مراد	Murad	ع	تمنا' خواہش' آرزو' ایک مسلمان حکمران سلطان مراد خان اول جو سلطان ارخان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ 761ھ میں چالیس سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ یہ تیسرا عثمانی سلطان تھا۔
مرصاد	Mursad	ف	امیدگاہ' انتظار کرنے والا
مرصد	Morsed	ف	انتظار کرنے والا' منتظر
مرسل	Mursel	ع	ارسال کیا ہوا' بھیجا ہوا
مرتاج	Murtaj	ف	عیش کرنے والا
مرشح	Murshah	ف	سیراب
مرشد	Murshed	ع	ہدایت کرنے والا' استاد' پیر
مریر	Marir	ع	دلیر' بہادر' جری' مضبوط' قوی
مروح	Marooh	ع	خوشبودار' خوش' راضی' پُر مسرت
مروت	Murwat	ع	بہادری' دلیری' اخلاق
مرصود	Mursood	ف	جانچا ہوا' پرکھا ہوا
مرصوص	Marsus	ع	مستحکم' مضبوط' پائیدار
مرزا	Mirza	ف	امیرزادہ' رئیس' دولت مند' خاندان تیموریہ کے شہزادگان کا لقب
مرتقی	Murtaqa	ع	بلند ہونے والا' اوپر چڑھنے والا
مرتعش	Murtaish	ع	کانپنے والا' بغداد کے ایک ولی اللہ حضرت مرتعشؒ۔ آپ کا وصال 328ھ میں ہوا۔ حضرت جنید بغدادیؒ کے خلیفہ تھے۔
مرتضوی	Murtezvi	ع	حضرت علیؓ سے منسوب
مُربح	Murbeh	ع	فائدہ مند' سود مند
مراح	Mirah	ع	مسرت' راحت' خوشی' شادمانی
مرابط	Murabit	ع	آپس میں لگاؤ رکھنے والا

marfat.com
Marfat.com

مرغوب	Marghoob	ع	پسندیدہ' پاکستان کے مشہور نعت خواں حافظ مرغوب احمد ہمدانی
مراشد	Murashid	ع	سیدھی راہیں' سیدھے راستے
مروان	Mervan	ع	حضرت عثمان غنیؓ کے چچازاد بھائی کا نام۔
مرات	Merat	ع	خواہش' تمنا' آرزو' مراد
مزئر	Muzear	ع	دھاڑنے والا شیر
مزیز	Maziz	ع	وافر' کثیر' بہت' فاضل
مزلل	Muzalil	ع	بہت خیر و احسان کرنے والا آدمی
مزاحم	Mazaham	ع	روکنے والا' باز کرنے والا' ایک ولی اللہ حضرت شیخ ابومزاحم شیرازیؒ۔ آپ نے چالیس برس تک مکہ مکرمہ کی مجاوری کی۔ تیس برس تک حضرت جنید بغدادیؒ کی خدمت میں رہے۔ 348ھ میں وصال فرمایا۔
مزین	Mazzayan	ع	سجانے والا' زیبائش کرنے والا' آرائش کرنے والا
مزہد	Mazhad	ع	کم مال والا
مزہر	Muzher	ع	مہمان نواز
مزاحم	Muzaham	ع	روکنے والا' ہجوم کرنے والا
مزمل	Muzzamil	ع	حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لقب مبارک۔
مزار	Muzar	ع	کھیتی باڑی کرنے والا' کسان
مزبور	Mazboor	ع	لکھا ہوا' تحریر شدہ' قلم بند
مزکی	Muzzaki	ع	زکوٰۃ ادا کرنے والا' پاک کرنے والا
مزیل	Muzzayal	ع	مٹانے والا' دور کرنے والا
مستور	Mastoor	ع	پوشیدہ' پردے میں' چھپا ہوا' پنہاں
مسالک	Musalik	ع	راہیں' راستے
مستبد	Mustabid	ع	مرضی کا مالک' خود مختار' بااختیار

marfat.com
Marfat.com

مسلم	Muslim	ع	مسلمان' اسلام کا پیروکار' امام حسینؓ کے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیلؓ آپ کو عبیداللہ بن زیاد کے حکم سے کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔
مساہر	Masahir	ع	جاگنے والا' بیدار رہنے والا
مساہز	Masahiz	ع	بیدار کرنے والا
مسہد	Mashed	ف	بیدار کیا ہوا' جگایا ہوا۔
مسہر	Mashar	ف	جگایا ہوا
مستان	Mastan	ع	دیوانہ' مجنوں' متوالا' مستانہ
مستجاب	Mustajab	ع	منظور کیا گیا' قبول کیا گیا' ایک نام احمد مستجاب۔
مستطاب	Mustatab	ع	پرمسرت' خوش' مسرور' مزیدار' صاف' پاک' منزہ' پاکیزہ
مسیح	Masih	ع	زندہ کرنے والا' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مبارک
مستقیم	Mustaqeem	ع	سیدھا
مستعین	Mustaeen	ع	مدد کا طلب گار' مدد طلب کرنے والا' ایک عباسی خلیفہ مستعین باللہ جو خلیفہ ہارون الرشید کا پوتا تھا' یہ منتصر باللہ کے بعد تخت خلافت پر بیٹھا تھا۔
مسبح	Musbeh	ع	اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والا
مستقیم	Mustaqim	ف۔ع	سیدھا' صحیح' ٹھیک' درست
مستقسم	Mustaqassim	ع	بدلہ لینے والا
مسیب	Musayyab	ع	بااختیار' خودمختار' مرضی کا مالک
مسیر	Maseer	ع	سیر کرنے کا مقام' سیر کرنا
مسعود	Masood	ع	نیک' مبارک' سودمند' اچھا' سعد' حضور نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی حضرت مسعود بن رجیلؓ حضور ﷺ نے آپ کو بنی عبس پر عامل مقرر فرمایا تھا۔

marfat.com

Marfat.com

مساعد	Masaad	ع	معاون' مددگار' مدد کرنے والا
مسطور	Mastoor	ع	تحریر شدہ' لکھا گیا
مسکین	Maskeen	ع	نادار' غریب' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت مسکین شاہ امری قادریؒ۔ آپ مغل شہنشاہ شاہجہاں کے عہد میں وصال کر گئے۔ آپ کا مزار مبارک لاہور کینٹ میں واقع ہے۔ مزار مبارک شہزادہ داراشکوہ قادریؒ نے بنوایا تھا۔
مسکور	Maskoor	ع	نرم آواز
مستنصر	Mastanser	ع	مدد طلب کرنے والا' ایک عباسی خلیفہ کا نام جو بہت انصاف پسند تھا پورا نام مستنصر باللہ۔
مستکفی	Mustakfi	ع	کفایت کا خواہاں' ایک عباسی خلیفہ جو صفر 333ھ کو اکتالیس سال کی عمر میں بغداد کے تخت پر بیٹھا' ایک سال چار ماہ تک برائے نام خلافت کی اور قید کی حالت میں 338ھ میں انتقال کر گیا۔
مسرشع	Musrashay	ف	پانی لگانا
مسرور	Masroor	ع	خوش' پرمسرت' شادمان' پاکستان کے ایک مشہور شاعر مسرور انور محبت کرنے والا' انس کرنے والا' چاہت کرنے والا' مانوس' خوگر' عادی
مستاہل	Mustahil	ع	قابل' لائق' اہل' سزاوار' موزوں' مناسب
مستبشر	Mustabsher	ع	خوشخبری چاہنے والا' خوشی کا خواہاں
مستبصر	Mustabser	ع	باطنی بینائی کا طلب گار' دل کی بینائی کا خواہاں
مستجیر	Mustajir	ع	امان طلب کرنے والا' پناہ مانگنے والا
مستبین	Mustabin	ع	روشن' ظاہر' عیاں' آشکارا
مسفر	Musfer	ع	منور' روشن' سفید
مستنیر	Mustanir	ع	روشنی' روشنی کا خواہاں

marfat.com
Marfat.com

مستظہر	Mustezher	ع	مدد کا طلب گار' ایک عباسی خلیفہ مستظہر باللہ جو سولہ سال کی عمر میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ چوبیس سال تین مہینے خلافت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔
مستمر	Mustimer	ع	مضبوط' پکا' دائمی' سدا' ہمیشہ
مستمد	Mustamad	ع	مدد مانگنے والا' امداد کا طلب گار
مستکرم	Mustekrim	ع	معافی طلب کرنے والا' بخشش مانگنے والا
مستفسر	Mustafsir	ع	پوچھنے والا' تحقیق کرنے والا' جستجو کرنے والا' محقق
مستغنی	Mustaghni	ع	مالدار' دولت مند' رئیس' آزاد' بے پرواہ
مستطاع	Mustataa	ع	تابعدار' مطیع' فرمانبردار
مستفی	Mustafi	ع	روشنی طلب کرنے والا' ایک عباسی خلیفہ مستفی بامر اللہ۔ اس نے ساڑھے نو سال تک خلافت کی۔
مستشیر	Mustashir	ع	مشورہ مانگنے والا' رائے طلب کرنے والا
مسترشد	Mustershud	ع	ہدایت کا طلب گار' مرید' ایک عباسی خلیفہ مسترشد باللہ جو 27 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ 529ھ سولہ ذیقعدہ میں قتل ہو گیا۔
مستحسن	Mustehsin	ع	نیک' پسندیدہ' بہتر' خوب
مستحکم	Mustahkam	ع	پائیدار' مضبوط
مستفید	Mustafeed	ع	فائدہ چاہنے والا' فائدہ اٹھانے والا
مستنجد	Mustanjid	ع	ایک عباسی خلیفہ مستنجد باللہ' اس خلیفہ کے عہد میں حضرت غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانیؒ کا وصال ہوا۔
مشدار	Mashdar	ع	منظر
مشیت	Mushiyat	ع	رضامندی' مرضی' خواہش' منشاء
مشارب	Musharib	ع	سبیل' طریقے

marfat.com
Marfat.com

مشام	Masham	ع	دماغ' سونگھنے کی قوت
مشاہد	Mushahid	ع	دیکھنا' دید' معائنہ
مشاہدہ	Mushahadah	ع	معائنہ کرنا
مشرب	Mashrab	ع	پانی پینے کا برتن
مشرب	Mushrab	ع	نہر' چشمہ' مذہب' دین
مشرف	Musharaf	ع	اونچا' شرف یافتہ' بلند و بالا
مشعر	Musher	ع	خبر دینے والا' عیاں کرنے والا' آشکارا کرنے والا' اطلاع دینے والا' ظاہر کرنے والا۔
مشہود	Mashhood	ع	حاضر کیا ہوا' موجود' گواہ' شاہد
مشوار	Mishwar	ع	نظارہ' منظر
مشید	Mushayed	ع	پکا کیا ہوا' مضبوط کیا ہوا' اونچا' بلند و بالا
مشکاۃ	Mashkat	ع	طاق' چراغ رکھنے کا طاق
مشکور	Mashkoor	ع	پسندیدہ' عنوان' ایک ادیب کا نام مشکور حسین یاد
مشرف	Mushraf	ع	جس کو عزت سے نوازا گیا ہو۔
مشتاق	Mushtaq	ع	خواہاں' آرزومند' چاہنے والا' سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ حضرت صوفی محمد مشتاق چشتی صابریؒ۔ 670ھ میں وصال فرمایا۔ مزار مبارک میلہ رام روڈ دربار مارکیٹ لاہور میں واقع ہے۔
مشمر	Mashmar	ع	کام میں چستی پیدا کرنے والا
مشین	Mushayan	ف	شاندار' عالی شان
مشیر	Mushir	ع	مشورہ دینے والا' رائے دینے والا
مشواذ	Mishwaz	ع	دستار' پگڑی
مشعوف	Mashoof	ع	محبت کرنے والا' فریفتہ' عاشق' چاہنے والا

marfat.com
Marfat.com

مشحون	Mashhoon	ع	بھرا ہوا لبریز
مشاق	Mashaaq	ع	ماہر' تجربہ کار' مہارت رکھنے والا
مشفق	Mushfiq	ع	دوست' مہربان' شفیق' شفقت کرنے والا
مصید	Museed	ع	اعادہ کرنے والا
مصیر	Museer	ع	واپس آنا' لوٹنے والا
مصیر	Masir	ع	واپس آنے والا' لوٹنے والا' پلٹنے والا' رجوع کرنا
مصوان	Miswan	ع	مددگار
مصور	Mussawer	ع	نقاش' تصویریں بنانے والا
مصغر	Musghir	ع	مختصر کیا ہوا' چھوٹا کیا ہوا
مصبح	Musabbay	ع	تسبیح بیان کرنے والا
مصباح	Misbah	ع	چراغ' دیا
مصخر	Maskhar	ع	مختصر
مصعب	Masab	ع	تکلیف برداشت کرنے والا' ایک صحابی کا نام حضرت مصعب بن عمیرؓ۔ آپ غزوہ اُحد میں شہید ہوئے۔ حضور نبی کریم ﷺ کے ہم شکل تھے۔
مصدق	Mussdaq	ع	تصدیق شدہ' تصدیق کیا ہوا' مانا ہوا
مصدِق	Masdiq	ع	یقین کرنے والا' صدقہ لینے والا
مصیطر	Masyattar	ع	نگرانی کرنے والا' نگہبان' رکھوالی کرنے والا
مصون	Masoon	ع	محفوظ' بچا ہوا' حفاظت میں
مصیب	Musayyab	ع	بھلائی پانے والا' اچھائی پانے والا
مصلح	Musleh	ع	درست کرنے والا' ٹھیک کرنے والا
مصلحت	Maslahat	ع	اچھا مشورہ' خوبی

marfat.com
Marfat.com

مصطفیٰ	Mustafa	ع	منتخب' برگزیدہ' پاکیزہ' چنا ہوا' پسندیدہ حضور نبی کریم ﷺ کا ایک صفاتی اسم مبارک۔
مضمیر	Muzmir	ع	جلد' تیز' فوری' سرعت
مضمر	Muzmer	ع	مخفی' پوشیدہ' پردے میں' پنہاں' چھپا ہوا
مضری	Muzri	ع	حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک اسم مبارک۔
مضطر	Muztar	ع	بے چارہ' بے بس
مضیف	Muzzayef	ع	مہمانی کرنے والا' مہمان نواز
مضیاف	Muzyaf	ع	بڑا مہمان نواز
مضمار	Mizmar	ع	میدان جنگ
مطیع	Motie	ع	تابعدار' فرمانبردار' خادم
مطیق	Mateeq	ع	تیز رفتار' سبک رفتار
مطرب	Mutarrab	ف	گانے والا
مطرف	Mutraf	ع	نیا حاصل کردہ
مطرز	Muterz	ف	زیبائش کیا ہوا' سجایا ہوا' زینت دیا ہوا
مطاف	Mutaf	ع	طواف کی جگہ
مطبرز	Mutbarz	ف	سجایا ہوا
مطیب	Mutib	ع	اچھی مہک دینے والا' اچھی خوشبو دینے والا
مطلب	Mutlib	ع	مانگا ہوا' طلب کیا گیا' حضور نبی کریم ﷺ کے دادا جان کا نام عبدالمطلب۔
مطلوب	Matloob	ع	مانگا ہوا' محبوب
مطرب	Mutreb	ع	راضی کرنے والا' خوش کرنے والا
مطہر	Muther	ع	پاک کرنے والا
مطائر	Matair	ع	مل کر اڑانا

marfat.com

Marfat.com

مطیر	Matiar	ع	بارش کرنے والا' برسنے والا
مطعم	Mutiem	ع	کھانے کی چیز' خوراک' غذا
مظفر	Muzaffar	ع	کامیاب' فتح مند' ظفریاب' ایک ولی اللہ حضرت شیخ مظفر بلخی۔ وصال مبارک 788ھ میں ہوا۔
مظہر	Mazher	ع	ظاہر ہونے کی جگہ' آشکارا ہونے کی جگہ' عیاں ہونے کی جگہ
مظہر	Mazhir	ع	گواہ' شاہد' بیان کرنے والا
مظاہر	Mazahir	ع	گواہ' بیان کرنے والا
مظل	Muzil	ع	سایہ کرنے والا
مظل	Muzal	ع	سائبان' چھت
معین	Moueen	ع	مدد کرنے والا' مشہور ولی اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ مزار مبارک اجمیر شریف بھارت میں ہے۔ مزار مبارک کی تعمیر سب سے پہلے خواجہ حسین ناگوری نے کرائی۔
معافر	Muafir	ع	ہمراہ چلنے والا' ساتھ چلنے والا
معارف	Muarif	ع	شناسا لوگ' جاننے والے لوگ' مشہور لوگ' نامور لوگ
معجزات	Muajzaat	ع	معجزے
معرض	Muariz	ع	اعتراض کرنے والا
معترض	Muatriz	ع	اعتراض کرنے والا
معتضد	Mutazid	ع	مدد کا طلب گار' اعانت چاہنے والا' مدد مانگنے والا' امداد [illegible] کرنے والا' ایک عباسی خلیفہ معتضد باللہ احمد۔ اس [illegible] 8 ربیع الثانی 289ھ کو ہوا۔
معطی	Muati	ع	دینے والا' عطا کرنے والا' اللہ تعالی کا صفاتی اسم مبارک۔
معراج	Meraj	ع	زینے' سیڑھی
معاد	Muad	ع	آخرت' واپس جانے کی جگہ

marfat.com
Marfat.com

معاذ	Maaz	ع	بچاؤ کی جگہ جائے پناہ
معزز	Muaziz	ع	شریف باوقعت باعزت
معید	Mueed	ع	دہرانے والا اعادہ کرنے والا
معتصم	Mutasim	ع	پناہ لینے والا توکل کرنے والا عباسی خلیفہ معتصم باللہ بن ہارون الرشید۔20 ربیع الاول 227ھ کوانتقال ہوا۔اس کی نماز جنازہ اس کے بیٹے واثق باللہ عباسی نے پڑھائی۔
معبر	Muabir	ع	خواب کی تعبیر بتانے والا
معاذ	Mouaz	ع	جائے پناہ پناہ کی جگہ حضور نبی کریم ﷺ کے جانثار صحابی حضرت معاذ بن جبل انصاریؓ۔چھتیس برس کی عمر میں وصال فرما گئے۔آپ کو دریائے اردن کے کنارے مشہور شہر بیسان میں دفن کیا گیا۔
معمار	Memar	ع	تعمیر کرنے والا
معرف	Muarif	ع	اقرار کرنے والا اعتراف کرنے والا
معرفت	Muarfat	ع	ذریعہ خداشناس
معمور	Mamoor	ع	بھراہوا آباد
معوان	Muwaan	ع	مدد کرنے والا معاون مددگار
معوذ	Maooz	ع	بچایا گیا نیز جنگ بدر کے ایک کمسن مجاہد کا نام
معصوم	Masoom	ع	پاک وصاف مبرا منزہ بے گناہ لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت سید معصوم شاہ ولیؒ۔آپ کا مزار مبارک مسجد حزب الاحناف کے اندر داتا دربار روڈ لاہور میں واقع ہے۔
معان	Muan	ع	عارضی چمک منزل
معاون	Muawin	ع	مددگار
معیذ	Mueez	ع	معاون مددگار مدد کرنے والا

marfat.com
Marfat.com

معہود	Muhhood	ع	اقرار کیا ہوا' عہد کیا ہوا' وعدہ کیا ہوا' پرانا' قدیم
معشوق	Mashooq	ار	پیارا' محبوب' جس سے محبت کی جائے
معز	Muiz	ع	عزت دینے والا' اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد کے ایک ولی اللہ حضرت حافظ میاں معز الدین سہروردیؒ۔ آپ کا مزار مبارک حضرت میاں وڈاؒ کی چار دیواری سے باہر لاہور میں واقع ہے۔
معظم	Muazzam	ع	بزرگ' بڑا' عظیم' شریف
معادل	Muadil	ع	انصاف کے ساتھ' عدل کے ساتھ
معاقل	Muaqil	ع	سرحدیں' قلعے
معالم	Mualim	ع	نشانیاں' علامات' عالم' دنیا' جہان
معانق	Muaniq	ع	بغلگیر ہونے والا' گلے ملنے والا
معتبر	Mutabir	ع	سچا' درست' ٹھیک' اعتماد والا' بھروسہ والا
معتد	Mutatid	ع	شمار کیا ہوا' گنا ہوا
معتمد	Mutamid	ع	جس پر اعتماد کیا جائے' ایک عباسی خلیفہ معتمد علی اللہ بن متوکل علی الدین معتصم باللہ بن ہارون الرشید۔
معروف	Maroof	ع	مشہور' ظاہر' عراق کے شہر بغداد شریف کے نزدیک قصبہ کرخ کے ایک مشہور ولی اللہ حضرت معروف کرخیؒ
معتز	Mutiz	ع	گوشہ نشین' ایک عباسی خلیفہ معتز باللہ۔ محرم 251ھ میں خلیفہ بنایا گیا۔ ماہ رجب 255ھ کو معزول کر کے ایک تہہ خانہ میں بے آب و دانہ بند کر دیا گیا وہیں اس کا دم نکل گیا اور 8 شعبان 255ھ میں انتقال کر گیا۔
معیل	Maeel	ع	شیر' بھیڑیا
معوق	Maooq	ع	روکنے والا' منع کرنے والا

marfat.com
Marfat.com

معنبر	Muanber	ع	خوشبودار
مغبر	Mughabber	ع	خواب کی تعبیر کرنے والا
مغنی	Mughni	ع	بے نیاز کرنے والا
مصفر	Musaffer	ع	کسنبھ کی مانند ایک پھول
معیقب	Mueeqab	ع	حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت معیقب بن ابی فاطمہ دوسیؓ۔ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دور خلافت میں مدینہ طیبہ میں بیت المال کے عامل مقرر کیے گئے۔ حضرت علیؓ کی خلافت کے آخری دور میں وصال فرما گئے۔
مغیر	Mugheer	ع	جلدی کرنے والا' عادت والا' عادی' خوگر
مغازی	Mughazi	ع	اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والوں کے اوصاف
مغافر	Maghafir	ع	مغفر' لوہے کا خود
مغرق	Mughriq	ع	چمکدار' روشن' منور
مغیث	Mughis	ع	فریادرس
مغنی	Mughni	ع	بے نیاز کرنے والا' بے پرواہ کرنے والا
مغمیر	Mughmeer	ع	جلد باز' ڈاکو
مغمد	Mughmed	ع	پنہاں۔ پوشیدہ۔ چھپا ہوا۔ نیام میں رکھی ہوئی تلوار
مغیر	Mugheer	ع	عادت والا' جلدی کرنے والا
مغیرہ	Mughira	ع	مشہور صحابی حضرت مغیرہؓ بن شعبہ۔ آپ کا شمار کاتبان بارگاہ رسالت میں ہوتا ہے۔ آپ پاسبان بارگاہ رسالت بھی ہیں۔ 50ھ میں وصال فرمایا۔
مفاذ	Mufaaz	ع	جائے پناہ
مفتح	Muftah	ع	کھولنے کی جگہ' خزانہ

marfat.com

Marfat.com

مفتون	Muftoon	ع	فتنہ میں پڑا ہوا
مفتی	Mufti	ع	فتویٰ دینے والا' شرعی حاکم
مفضال	Mifzal	ع	بہت فضل والا' بہت کرم والا' بہت احسان کرنے والا
مفسر	Mufassir	ع	تفسیر کرنے والا' بیان کرنے والا' کلام پاک کے معنی و مطلب بیان کرنے والا
مفصیص	Mufsees	ع	سخاوت والا
مفید	Mufid	ع	سود مند' فائدہ مند
مفیض	Mufiz	ع	فیض پہنچانے والا' فائدہ پہنچانے والا' سخاوت کرنے والا
مفتاح	Muftah	ع	چابی' کنجی' کلید
مفضل	Mufzal	ع	فضل کیا ہوا' کرم کیا ہوا' فوقیت دینے والا
مفکر	Mufakker	ع	دانا' غور و فکر کرنے والا' دانشمند
مفتخر	Muftakhir	ع	فخر کرنے والا' ناز کرنے والا
مفترع	Muftaraa	ع	نتیجہ' ثمر' نکلنے والا
مفخم	Mufkhan	ع	معزز' بزرگ' عظیم شخص
مفیق	Mufiq	ع	ہوشیار' زیرک' چالاک' ہوشمند
مفطن	Muften	ع	سمجھانے والا
مفرح	Mafreh	ع	خوشی کی جگہ
مُفروح	Mufrooh	ع	مسرت دینے والا' خوشی دینے والا' فرحت دینے والا
مفلح	Mufleh	ع	کامیاب و کامران کرنے والا
مقسط	Muqsit	ع	انصاف کرنے والا' عدل کرنے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
مقباس	Muqbaas	ع	جس چیز سے زیادہ آگ لی جائے

marfat.com
Marfat.com

مقبل	Muqbel	ع	اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والا' صوفی بزرگ پیر وارث شاہؒ سے بہت پہلے "ہیر رانجھا" تصنیف کرنے والے ایک مصنف کا نام۔
مقصود	Maqsood	ع	مطلب' مراد' غرض
مقترف	Muqtrif	ع	کمانے والا' کسب کرنے والا
مقتضا	Muqtaza	ع	جسے چاہا گیا' جس کو پسند کیا گیا
مقیت	Muqeet	ع	روزی عطا کرنے والا' روزی رساں
مقیث	Muqees	ع	روزی دینے والا
مقیط	Maqeet	ع	عدل کرنے والا جج
مقتدا	Muqtida	ع	رہنما' امام' پیشوا' رہبر
مقتدی	Muqtadi	ع	اقتداء کرنے والا' اتباع کرنے والا' پیروی کرنے والا' ایک عباسی خلیفہ مقتدی بامر اللہ' 5 محرم 487ھ کو خلیفہ مقتدی کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو زہر دیا گیا تھا جس سے موت واقع ہوگئی۔
مقیت	Muqayyat	ف	تندرست' توانا' طاقتور' قوی
مقارب	Muqareb	ع	متوسط
مقیم	Muqim	ار	ٹھہرنا' قیام کرنا' رہنا' اترنا' بسنا
مقیم	Muqayyem	ع	ٹھہرنے والا' قیام کرنے والا' رہنے والا
مقوقس	Maqooqes	ع	مصر کے ایک حاکم کا نام جو حضور نبی کریم ﷺ پر ایمان لے آیا تھا۔
مقضی	Muqzi	ع	ارادہ کیا ہوا' تمام کیا ہوا
مقری	Muqari	ع	پڑھانے والا
مقرب	Muqarrab	ع	ہمراز' نزدیک بیٹھنے والا' مصاحب' خاص دوست

marfat.com
Marfat.com

مقدر	Muqaddar	ع	تقدیر
مقدس	Muqqadas	ع	پاک' پاک کیا گیا' معصوم' بے گناہ
مقدور	Maqdoor	ع	تدبیر' بہادری' دلیری' سہارا' گنجائش' زور
مقصد	Maqsad	ع	مراد' مطلب
مقدم	Muqadim	ع	دلیر' بہادر' جری' پیش قدمی کرنے والا
مقدم	Maqaddam	ع	بزرگ' بڑا' اونچا' بلندوبالا' ضروری' پہلا
مقدام	Miqdam	ع	دلیر' بہادر' شجاع' جری' دلاور
مقتنی	Muqtani	ع	سرمایہ دار' دولت مند' رئیس' امیر
مقتدر	Muqtadir	ع	طاقتور' قدرت رکھنے والا' زور آور' اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک۔ ایک عباسی خلیفہ مقتدر باللہ۔ 27 شوال بروز بدھ 320ھ کو قتل کر دیا گیا تھا۔
مقتصر	Muqtasir	ع	تھوڑے پر قناعت کرنے والا' تھوڑے پر صبر کرنے والا
مقتضی	Muqtazi	ع	خواہش مند' آرزومند' چاہنے والا
مقتصد	Muqtasid	ع	میانہ رو' میانہ روی اختیار کرنے والا
مقبول	Maqbool	ع	قبول کیا گیا' پیارا' پسندیدہ' محبوب' مانا گیا
مقبس	Maqbas	ع	فائدہ اٹھانے والا' روشنی لینے والا' نفع لینے والا
مقتفی	Maqtazi	ع	ایک عباسی خلیفہ مقتفی الامر اللہ جو 12 ربیع الاول 489ھ کو پیدا ہوا۔ 12 ذوالحجہ 530ھ کو تخت خلافت پر بیٹھا۔ 2 ربیع الاول 555ھ کو 24 برس 4 مہینے خلافت کر کے انتقال کر گیا
مکرام	Mikram	ع	لوگوں کی عزت کرنے والا' احترام کرنے والا

marfat.com
Marfat.com

مکی	Makki	ن	مکہ مکرمہ کا رہنے والا' خاندان غزنویہ کے آخری بادشاہ خسرو ملک تاج الدولہ غزنوی کے عہد کے ایک مشہور ولی اللہ حضرت سید عزیز الدین المعروف پیر مکیؒ۔ مزار مبارک لاہور میں واقع ہے۔
مکرم	Makram	ع	کرم' عنایت' فضل
مکاشف	Makashif	ع	بھید ظاہر کرنے والا' راز کھولنے والا' عیاں کرنے والا
مکثار	Miksar	ع	مکثیر' بہت بولنے والا آدمی
مکیث	Makis	ع	صابر' صبر کرنے والا' سنجیدہ' قناعت کرنے والا
مکین	Makin	ف	رہنے والا' رہائشی' صاحب مکان
مکینث	Makeenas	ع	سنجیدہ
مکتوم	Maktoom	ع	پوشیدہ' چھپا ہوا' مخفی' پردے میں' ایک صحابی ابن مکتومؓ' آپ کو حضور نبی کریم ﷺ نے غزوہ احد پر جانے سے پہلے مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔
مکشوف	Makshoof	ع	واضح' صاف' ظاہر کیا گیا۔
مکارم	Makarem	ع	نوازش' بزرگی
مکتسب	Muktaseb	ع	فائدہ اٹھانے والا' نفع اٹھانے والا' کمانے والا
مکھن	Makhan	ہ	کچا گھی' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت مکھن شاہؒ۔ آپ کا مزار نزد حویلی کسواں چاہ میراں لاہور میں واقع ہے۔
مکنون	Maknoon	ع	خفیہ' چھپا ہوا' پوشیدہ' پنہاں
مکفی	Mukfi	ع	کفایت کرنے والا
مکحول	Makhool	ع	سرمہ لگی ہوئی آنکھ' حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خادم حضرت مکحولؒ۔
مکنوز	Maknooz	ع	خزینہ' خزانہ' پوشیدہ' چھپا ہوا

marfat.com

Marfat.com

مکنت	Muknat	ع	طاقت' توانائی' قوت' مالداری' دولت مندی' قدرت
مکتفی	Muktafi	ع	پورا' کافی' بس کرنے والا' ایک عباسی خلیفہ مکتفی باللہ جس نے ساڑھے چھ برس تک خلافت کی۔ ماہ جمادی الاول 295ھ میں بغداد میں فوت ہوا۔
مکتسی	Muktasi	ع	کمبل اوڑھنے والا
مکسار	Muksar	ع	بہت بولنے والا شخص
ملبوب	Malboob	ع	دانشمند' عاقل' اچھی سمجھ والا' اچھی عقل والا
ملجا	Malja	ع	جائے پناہ' پناہ گاہ
ملق	Maliq	ع	تیز رفتار' سبک رفتار
ملنگ	Malang	ف	بے خود' ایک نام ملنگ خاں
ملک	Malak	ع	سردار' مالک' صاحب' ایک اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان۔ تابعین میں سے ہیں۔ رمضان میں پیدا ہوئے۔ رمضان میں ہی دودھ چھوڑا۔ رمضان ہی میں قرآن پاک ختم کیا۔ رمضان ہی میں بالغ ہوا۔ رمضان ہی میں ولی عہد ہوا۔ رمضان ہی میں خلیفہ بنا۔ شوال 86ھ میں 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔
ملاث	Malas	ع	شریف آدمی' نیک آدمی' بلند مرتبہ والا
ملاح	Mulah	ع	نمکین اور خوبصورت
ملاذ	Malaaz	ع	جائے پناہ
ملیح	Malih	ع	خوبصورت' سانولا' حسین
ملوک	Malook	ہ	حسین وجمیل' خوبصورت
ملتبس	Multabas	ع	پوشیدہ' چھپا ہوا' پنہاں
ملت	Millat	ع	دین' مذہب

marfat.com
Marfat.com

ملاطف	Milataf	ع	مہربانی کرنے والا' نیکی کرنے والا' بھلائی کرنے والا
ممیز	Mamayyaz	ع	فرق کیا ہوا' امتیاز کیا ہوا
ممتاز	Mumtaz	ع	عادل رتبہ' بلند و بالا' برتر' بلند مرتبہ
ممنیر	Mamneer	ع	اختیار کیا گیا
ممنون	Mamnoon	ع	احسان مند' شکر گزار
ممیت	Mamayyat	ع	مارنے والا' اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک
ممدوح	Mamdooh	ع	جس کی تعریف کی گئی ہو۔
ممہد	Mumhed	ع	سجایا ہوا' آراستہ کیا ہوا
ممد	Mamid	ع	مدد کرنے والا' معاون' مددگار' ساتھی
ممجد	Mumjad	ع	عزت و احترام والا' نیک' شریف' بزرگ
منازل	Manazil	ع	مقامات' مکانات' ایک مشہور ولی اللہ حضرت عبداللہ منازلؒ۔ حضرت شیخ حمدون قصارؒ کے مرید تھے۔ 331ھ میں وصال فرمایا۔
منطیق	Mantiq	ع	فصیح الکلام' فصیح و بلیغ' خوش کلام
منذر	Manzer	ع	ڈرانے والا' حضرت ابوبکر صدیقؓ کے نواسے کا نام' آپ فاتح عراق ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت اسماءؓ ہے۔
منیر	Munir	ع	چمکدار' روشن' منور' ایک ادیب اور شاعر منیر نیازی۔
منفتح	Munqateh	ع	فراخ' کھلا ہوا' کشادہ
منصف	Mansif	ع	عادل' جج' انصاف کرنے والا
منہاج	Minhaj	ع	راستہ' شاہراہ' رہگزر' شارع
منتہی	Muntahi	ع	انتہا کو پہنچنے والا

marfat.com
Marfat.com

منتصر	Muntasir	ع	ایک عباسی خلیفہ منتصر باللہ۔ اپنے والد متوکل کو قتل کروا کر تخت خلافت پر بیٹھا۔ چھبیس سال کی عمر میں چھ مہینے سے بھی کم مدت خلافت کر کے فوت ہو گیا۔
منصوص	Mansoos	ع	آشکارا' عیاں کیا گیا' ظاہر کیا گیا' تحقیق کیا ہوا
منضود	Manzood	ع	مرتب' تہہ بہ تہہ لگا ہوا
منقاد	Minqad	ع	مطیع' فرمانبردار' اطاعت گزار
منتسب	Muntasib	ع	انس رکھنے والا' لگاؤ رکھنے والا' تعلق رکھنے والا
منعام	Minaam	ع	بڑا فیاض' بڑا سخی' بہت سخاوت کرنے والا
منصوب	Mansoob	ع	کھڑا' قائم' سیدھا
منار	Minar	ع	روشنی کا مرکز' جائے روشنی' چراغ داں
منتہی	Muntahi	ع	انتہا کو پہنچنے والا
منور	Munawwer	ع	روشن' چمکیلا' درخشاں' تاباں' مہاراجہ دلیپ سنگھ کے عہد کے ایک ولی اللہ حضرت سید منور شاہ نقشبندیؒ۔ آپ کا مزار مبارک قبرستان میانی صاحب لاہور میں احاطہ حضرت طاہر بندگیؒ کے اندر واقع ہے۔
منشا	Mansha	ع	بلند جھنڈا' بلند نشان والا
منشاء	Mansha	ع	پیدا ہونے کی جگہ
منشاء	Mansha	ع	مرضی' نیت' ارادہ' سبب
منشد	Manshad	ع	شعر پڑھنے والا
منجد	Munjad	ع	معاون' مددگار' معین' مدد کرنے والا
منجم	Munajjam	ع	نجومی' ستاروں کی رفتار پہچاننے والا
منحار	Minhaar	ع	شریف آدمی' مہمان
منحل	Munhal	ع	کشادہ ہونے والا' کھلنے والا

marfat.com

Marfat.com

مناظر	Munazir	ع	مباحثہ کرنے والا' بحث کرنے والا
منیم	Munim	ع	منیب کا بگڑا ہوا' محاسب' محرر' حسب رکھنے والا
منیف	Munif	ع	برتر' پاک' بزرگ' پاکیزہ
منہل	Munhel	ع	منبع' چشمہ' سرچشمہ
منزہ	Munazza	ع	برائیوں سے پاک' نقائص سے مبرا
منعم	Munam	ع	امیر' نعمت عطا کرنے والا
منعمام	Munamaam	ع	بڑا فیاض
مناظر	Manazir	ع	نظارے
منان	Manan	ع	نعمت عطا کرنے والا' نیکی کرنے والا' بھلائی کرنے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک۔
منہب	Manhib	ع	حق کی جانب پلٹنے والا
منتظر	Muntazir	ع	انتظار کرنے والا
منجی	Munajji	ع	نجات دلانے والا
منصور	Mansoor	ع	مدد کیا ہوا' فتح مند' مظفر' کامیاب وکامران۔ ایک عباسی خلیفہ منصور ابوجعفر عبداللہ۔ یہ مکہ مکرمہ سے چھ کلومیٹر دور مقام بطن میں انتقال کر گیا۔ اس کو حجون اور بیر میمون کے درمیان مقبرہ معلاۃ میں دفن کیا گیا۔ ایک ہفتہ کم بائیس برس خلافت کی۔
منعد	Munid	ع	چمکیلا' روشن' منور' تاباں' درخشاں
منظور	Manzoor	ع	قبول' تسلیم کیا ہوا' مقبول' پسندیدہ
مخار	Mikhar	ع	نیک آدمی' شریف آدمی' مہمان
منظار	Minzar	ف	دوربین

marfat.com
Marfat.com

مناف	Munaf	ع	ضد کرنے والا' نفی کرنے والا' حضور نبی کریم ﷺ کے دادا کا نام عبدالمناف۔
منائم	Munaam	ع	نازک' نرم' ملائم
منظر	Manzer	ع	نظارہ' جائے نظر
منصب	Manseb	ع	عہدہ' کام
منتقم	Muntaqim	ع	بدلہ لینے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
منیب	Munib	ع	حق کی طرف پھرنے والا
منہمر	Munhemer	ع	چمکنے والا' روشن' تاباں' بارش
منوچہر	Manoo Cheher	ف	ایران کے ایک فرمانروا کا نام
منفتح	Munfatah	ع	کشادہ
منفرح	Munfarah	و	خوش وخرم' خوش کرنے والا
منفق	Munfiq	ع	خرچ کرنے والا
منصرم	Munsaram	ع	انتظام کرنے والا' بندوبست کرنے والا' منتظم
منصبدار	Munsabdar	ع	عہدیدار' حاکم
منشرح	Munsharah	ع	خوش وخرم' مسرور
مند	Mand	ف	صاحب' والا
منبسط	Munbisat	ع	خوشحال' خوش وخرم' مسرور' پھیلنے والا
موسیٰ	Musa	ع	پانی سے نکالا ہوا' ساتویں امام موسیٰ کاظمؒ۔ آپ کے والد کا نام امام جعفر صادقؒ ہے۔ آپ کا وصال ہارون الرشید کے قید خانہ میں ہوا۔ قبر مبارک بغداد شریف عراق میں ہے۔
مورث	Mooras	ع	وراثت کرنے والا' وارث جسے ورثہ یا ترکہ ملے
مورق	Mooriq	ع	تاجر' سامان نوشت وخواند

marfat.com
Marfat.com

موعود	Maood	ع	اقرار کیا گیا، وعدہ کیا گیا، عہد کیا گیا
موقر	Muaqqar	ع	جس کو وقعت دی گئی ہو
موفر	Mofar	ع	حلیم
موفور	Mofoor	ع	بہ افراط، پورا، مکمل
موفق	Muaffiq	ع	توفیق دینے والا، عباسی خلیفہ معتمد باللہ کا بھائی موفق جو بہادری اور دانائی کے سبب تمام امور سلطنت پہ حاوی اور قابض و متصرف تھا اور معتمد باللہ برائے نام خلیفہ تھا۔
مؤید	Moayyed	ع	تائید کیا ہوا
موقن	Muaqqan	ع	اعتبار کرنے والا، یقین کرنے والا، اعتماد کرنے والا
مولا	Mola	ع	مدد کرنے والا، مالک، مددگار
مولا بخش	MolaBaksh	ار	اللہ تعالیٰ کا بخشا ہوا
مولا علی	Mola Ali	ع	حضرت علیؓ کا لقب
مودود	Modood	ع	دوست، رفیق، حبیب، سلسلہ چشتیہ کے ایک ولی اللہ حضرت مودود چشتیؒ۔ آپ کا مزار مبارک چشت میں واقع ہے۔
موحد	Muwahhed	ع	اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا۔
موقر	Muaqqar	ع	بزرگ، معزز، حلیم، باوقار
مومن	Momen	ع	امن دینے والا، ایمان لانے والا
موید	Mueed	ع	مددگار، حمایتی، مدد کرنے والا، حمایت کرنے والا
مونس	Munas	ع	انس دینے والا، آرام دینے والا، ساتھی، دوست، رفیق
موظف	Muazzif	ع	وظیفہ دینے والا، کسی کام پر ہمیشگی کرنے والا
موصوف	Mosoof	ع	تعریف کیا ہوا
موصف	Muassif	ع	تعریف کیا گیا
موثق	Mozzaf	ع	عہدیدار

marfat.com
Marfat.com

مورد	Muwerd	ع	گلاب کے پھول جیسا
مورد	Murd	ف	درخت' شجر' پیڑ
موثق	Museq	ع	مستحکم' مضبوط' استوار' اعتماد' بھروسہ
موتمر	Motamar	ع	حکم ماننے والا' فرمانبردار' مشورہ کرنے والا
موتمن	Mutemen	ع	امانت دار' امن' امین' خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا موتمن اس کو 186ھ میں خلیفہ ہارون الرشید نے ولی عہد بنایا۔
موخر	Moakhir	ع	چیزوں کو پیچھے چھوڑنے والا' ہر چیز کو اس کی جگہ رکھنے والا
مویہبہ	Moweebah	ع	حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام مویہبہ۔ آپ مزینہ کے رہنے والے تھے اور غزوہ مریسیع میں حاضر ہوئے تھے۔
مہلب	Mehlab	ع	حسین وجمیل' شکیل' نہایت خوبصورت
مہشید	Mehshid	ف	چاند' ماہتاب
مہتدی	Mohtidi	ع	ہدایت یافتہ' ہدایت پانے والا' ایک عباسی خلیفہ مہتدی باللہ۔ 37 سال کی عمر میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ پندرہ دن کم ایک سال خلافت کی اور 38 سال کی عمر میں قتل ہو گیا یہ خلیفہ نہایت دین دار تھا' تخت نشین ہونے کی تاریخ سے قتل ہونے کے دن تک برابر ہر روز روزہ رکھتا۔
مہتدیٰ	Mohtida	ع	ہدایت کیا گیا' ہدایت یافتہ
مہتاب	Mahtab	ف	چاند
مہیب	Moheeb	ع	بھیانک' خوفناک
مہین	Maheen	ف	عظیم' بڑا' بزرگ' برگزیدہ

marfat.com
Marfat.com

مہدی	Mehdi	ع	پیشوا' رہنما' صراط مستقیم دکھانے والا' عباسی خلیفہ مہدی بن منصور جو نہایت سخی تھا۔ 158ھ میں اپنے والد کے انتقال کے بعد بغداد میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید کا باپ تھا۔ خلیفہ مہدی کے جنازہ کی نماز ہارون الرشید نے پڑھائی تھی۔
مہروز	Mahrose	ف	چاند' مہتاب' چاند جیسی شکل
مہد	Mehd	ع	ہدایت والا' ہادی' حضور سرور کائنات ﷺ کا صفاتی اسم مبارک۔
مہر	Mehr	ف	رفاقت' پیار' دوستی' وفا
مہابت	Mahabet	ف	شان و شوکت' جاہ و جلال' غصہ' مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا ایک جرنیل مہابت خان۔ اس کے نام پر پشاور شہر میں مسجد مہابت خان ہے۔
مہجر	Mehjer	ع	عزت والا' بڑا آدمی' ہر عمدہ اور خوبصورت چیز دوسروں پر فضیلت اور بڑائی رکھنے والا
مہلب	Mohlab	ع	بنو امیہ خاندان کے ایک خلیفہ عبدالملک بن مروان کے ایک سپہ سالار کا نام۔
مہران	Mehran	ف	ایک دریا کا نام' ایک بادشاہ کا نام
مہیمن	Mahmeen	ع	نگہبان' مہربان' گواہ' سچا' اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک۔
مہربان	Mehrban	ف	محبت کرنے والا' رفیق
میمون	Memoon	ع	خوشی' مبارک' سعید' خوش بخت
میکائیل	Mikaeel	ع	رزق پہنچانے والا فرشتہ
میغام	Meegham	ع	بڑا' سخی
میران	Miran	ف	بڑا' بزرگ' حضرت غوث اعظم کا لقب
میمور	Majmur		[illegible]

marfat.com

Marfat.com

میر	Mir	ف	سردار، ہادی، افسر، لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت میاں میرؒ۔ جو حضرت عمر فاروقؓ کی اولاد میں سے ہیں۔ 88 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ مزار مبارک لاہور میں ہے۔
میلک	Mielk	ت	فرشتہ
میرام	Miram	ت	خواہش، آرزو، مقصد
میثاق	Misaq	ع	معاہدہ، عہد، قول، اقرار
میراب	Mirab	ف	پانی کا نگران، پانی کی نگرانی کرنے والا
میسرہ	Misra	ع	بائیں جانب، بائیں جانب کی فوج، مالداری، دولت مندی، حضرت خدیجہؓ کے ایک غلام کا نام۔
میزاب	Mizab	ع	پرنالہ
میرزا	Mirza	ف	امیر کا بیٹا

marfat.com
Marfat.com

ن

نابغ	Nabigh	ع	فصیح، خوش بیان
نابغہ	Nabegha	ع	خوش بیان، فصیح و بلیغ، ظاہر، عیاں، حضور نبی کریم ﷺ کے زمانہ اقدس کے مشہور شاعر نابغہ جعدیؓ۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 180 برس کی عمر پائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے زمانہ تک حیات رہے۔
ناسط	Nasat	ع	رحمت کا فرشتہ
ناسق	Nasiq	ف	تنظیم کرنے والا، منتظم
ناصی	Nasi	ع	نامور
ناصیہ	Nassia	ا،ع	پیشانی کے بال، ماتھا، پیشانی
ناصف	Nasif	ع	خادم، خدمت کرنے والا، نصف کرنے والا
ناعش	Naish	ع	زندگی عطا کرنے والا، حیات بخشنے والا
نائب	Naib	ع	قائم مقام
نافح	Nafah	ع	پرکھنے والا
نافر	Nafir	ع	بھاگنے والا، غالب
نافل	Nafil	ع	نفل پڑھنے والا
ناجز	Najeez	ع	نقد، موجودہ، تیار
ناجی	Naji	ع	نجات پانے والا، ایک ادیب کا نام نذیر ناجی
ناشاد	Nashad	ف	غمزدہ، ناخوش، غمگین
ناشب	Nashib	ع	تیروں والا
ناشد	Nashad	ع	طلب کرنے والا

marfat.com

Marfat.com

ناشق	Nashiq	ف	تنظیم کرنے والا
ناشی	Nashi	ا'ع	پیدا ہونے والا' شروع ہونے والا' ظاہر ہونے والا' ظاہر
نائف	Naif	ع	بہتات' زیادتی' کثرت' زائد
ناثر	Nasir	ع	لکھنے والا' مضمون نگار' لکھاری' مصنف
نامداد	Namdad	ع	نامور' عزت والا' مشہور
نامی	Nami	ع	نامور' مشہور' شہرت یافتہ
ناخدا	Nakhuda	ا'ف	ناخدا کا مخفف' کشتی چلانے والا ملاح' رہنما
ناخل	Nakhil	ع	ناصح' نصیحت کرنے والا' اچھی بات کہنے والا
ناقد	Naqid	ع	پرکھنے والا' امتیاز کرنے والا
ناقر	Naqar	ع	نشانہ پر جا لگنے والا تیر
ناقوس	Naqus	ا'ع	سنکھ جو ہندو پوجا کرتے وقت بجاتے ہیں
نایاب	Nayab	ع	کمیاب' ناپید' نادر
نادر	Nadir	ع	انوکھا' نایاب' فارس کا ایک بادشاہ نادر شاہ درانی۔
نادم	Nadim	ع	شرمندہ' پشیمان
ناسخ	Nasikh	ع	منسوخ کرنے والا' رد کرنے والا' تحریر کرنے والا
ناز	Naaz	ف	فخر' پیار
نازاں	Nazaan	ع	فخر کرنے والا
نازش	Nazish	ع	ناز' فخر' ایک شاعر کا نام نازش نقوی۔
نازل	Nazil	ع	اترنے والی چیز
نابل	Nabil	ع	تیرانداز' تیر بردار' تیر ساز' تیر چلانے والا
ناظم	Nazim	ع	انتظام کرنے والا' بندوبست کرنے والا' منتظم

marfat.com

Marfat.com

ناظر	Nazir	ع	دیکھنے والا' رکھوالا' نگہبان' دھیان رکھنے والا' مغل شہنشاہ شاہجہاں کے دور کے ایک مشہور ولی اللہ حضرت شیخ ناظر۔ آپ کا مزار مبارک اکبرآباد بھارت میں واقع ہے۔
ناسک	Nasik	ع	پرہیز گار' عابد' زاہد' متقی' اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا' ایک نام محمد یعقوب ناسک۔
ناضل	Nazil	ع	تیراندازی میں غالب
ناطق	Natiq	ع	بولنے والا' دانا' عقلمند' دانشمند' سمجھدار
ناعم	Naim	ع	اچھی زندگی بسر کرنے والا' آسودہ زندگی والا' خوشحال زندگی والا
نازید	Nazid	ف	ناز کیا ہوا' فخر کیا ہوا
ناصح	Nasayh	ف	نصیحت کرنے والا
ناصح الحبیب	Naseh-ul Habeeb	ع	امین' صادق
ناصر	Nasir	ع	مدد دینے والا' مددگار' معاون' حضور سرور کائنات ﷺ کا صفاتی اسم مبارک۔
ناشط	Nashit	ع	چاک و چوبند' چوکس' پھرتیلا' چست
نافع	Nafayh	ع	نفع دینے والا' اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک' حضور نبی کریم ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع
نائل	Nail	ع	پانے والا' حاصل کرنے والا' پہنچانے والا
ناطر	Natir	ع	تاکستان کا نگہبان
ناصب	Nasib	ف	قائم کرنے والا' نصب کرنے والا
ناضر	Nazir	ع	شگفتہ چہرہ' تروتازہ چہرہ' خوش شکل
نابت	Nabit	ع	اگانے والا

marfat.com

Marfat.com

ناجل	Najil	ع	نیک آدمی' شریف آدمی
نازندہ	Nazinda	ف	فخر کرنے والا' ناز کرنے والا
ناجی	Nahij	ع	نجات پانے والا' خلاصی حاصل کرنے والا
ناطع	Natay	ع	کھرا رنگ' خالص رنگ
ناصع	Nasay	ف	کھرا' خالص
ناجد	Najed	ع	مددگار' معاون' مدد کرنے والا
نابر	Naber	ع	انکار کرنے والا' عذر کرنے والا' بہانہ کرنے والا
ناحی	Nahi	ع	ارادہ کرنے والا' نیت کرنے والا' کنارہ پکڑنے والا
ناجو	Najoo	ع	صنوبر کا درخت' ایک ولی اللہ حضرت میر ناجو کشمیریؒ۔ آپ کا وصال 1111ھ میں ہوا۔
نادی	Nadi	ع	آواز دینے والا' پکارنے والا' ندا دینے والا
ناسی	Nasi	ع	بھولنے والا
ناعس	Nais	ع	اونگھنے والا
ناموس	Namoos	ع	عزت' نیک نامی' شریعت' شرم' رواج' دستور
ناموس	Namouss	ع	راز دار' بھید کا جاننے والا' وحی جبرئیل کا نام ہوشیار اور عقلمند آدمی' شکاری کا جال' چھپا ہوا
نائم	Naim	ع	سونے والا
ناہ	Naah	ع	رسول اکرم ﷺ کا لقب' منع کرنے والا
ناہی	Nahi	اُف	منع کرنے والا
نبراس	Nibras	ع	بہادر' جری' دلیر' شجاع
نبار	Nibar	ع	خوش بیان' شیریں بیان' فصیح و بلیغ' بولنے والا
نبوت	Naboowat	ع	پیغمبری' خبر رساں
نبیغ	Nabigh	ف	جاہ و جلال والا' بڑی شان و شوکت والا

marfat.com

Marfat.com

نبالت	Nabalat	ف	بزرگی' عظمت' فضیلت' بلند مرتبہ
نبالف	Nabalif	ف	عظمت
نبی	Nabi	ع	خبر دینے والا' خبر پہنچانے والا
نبیل	Nabil	ع	نیک' معزز' شریف' سمجھدار' ہوشیار' باشعور' ذہین
نبیلہ	Nabila	ع	بزرگ' دانا' نیک
نباہت	Nabahat	ع	شہرت' ناموری' شان و شوکت' جاہ و جلال
نبیذ	Nabiz	ف	پھلوں کا تازہ جوس
نبع	Naba	ع	پانی کا چشمہ پھوٹنا
نبان	Naban	ع	واسط کے رہنے والے ایک ولی اللہ حضرت شیخ نبان بن محمد جمالؒ۔ آپ کا وصال 316ھ میں ہوا۔ قبر مبارک مصر میں واقع ہے۔ آپ مشہور ولی اللہ حضرت شیخ ابوالحسن نوریؒ کے پیروں میں سے تھے۔
نبید	Nabid	ف	مژدہ' نوید' خوشخبری' بشارت
نتھا	Natha	ہ	مغل شہنشاہ نورالدین جہانگیر کے عہد کے ایک باکرامت ولی اللہ حضرت میاں نتھا المشہور تھے شاہ دیوان قادریؒ۔ مزار مبارک حضرت میاں میرؒ کے روضہ کی چاردیواری کے سامنے ہے
نثار	Nisar	ع	نچھاور کرنا' قربان' صدقہ' واری
نثار	Nasar	ع	مصنف' نثر لکھنے والا
نجرت	Najrat	ع	دلیری' شجاعت
نجی	Niji	ع	ذاتی
نجیح	Najeeh	ع	صبر کرنے والا' صابر
نجیف	Najeef	ع	چوڑی پیکان کا تیر' پرانی مشک
نجید	Najid	ع	بہادر' دلیر' شجاع' جری' شیر

marfat.com
Marfat.com

نجم	Najam	ع	ستارہ' بغداد کے مشہور ولی اللہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰؒ۔ آپ 10 جمادی الاول 618ھ کو چنگیزی لشکروں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس وقت عمر مبارک ساٹھ سال سے زیادہ تھی۔
نجابت	Nijabat	ع	شرافت' اصالت
نجام	Najjam	ع	نجومی' ستاروں کی گردش اور وقت پہچاننے والا
نجات	Nijat	ع	رہائی' خلاصی' چھٹکارہ۔
نجمی	Najmi	ع	ستاروں کو سمجھنے والا
نجم الثاقب	Najam Ulsaqib	ع	روشن ستارہ' چمکیلا ستارہ
نجیب	Najib	ع	شریف' نیک' بھلا مانس' بزرگ' سپاہی' اپنے وقت کے مشہور ولی اللہ حضرت نجیب الدین فردوسیؒ۔ آپ کا وصال 733ھ میں ہوا۔
نجدت	Najdet	ع	دلیری' بہادری' جرأت' شجاعت
نجیع	Najee	ع	صابر' صبر کرنے والا' تیز رفتار' درست رائے والا
نجاہ	Nijah	ع	نگاہ' نظر
نجاح	Najah	ع	کامیاب و کامران
نجف	Najaf	ع	اونچا ٹیلا' بلند و بالا ٹیلا
نجاشی	Najashi	ع	حبشہ کے ایک مشہور بادشاہ کا نام جس نے اسلام قبول کرلیا تھا
نحاس	Nihas	ع	عادت' خصلت' طبیعت' سرشت
نحر	Nehar	ع	مدد
نحریر	Nahrir	ع	دانشمند' عقلمند' معاملہ فہم' عالم' زیرک

marfat.com

Marfat.com

نخشب	Nakhshab	ع	ترکستان کے ایک شہر کا نام
ندیم	Nadim	ع	دوست' ساتھی' رفیق
ندین	Nadin	ع	امید' آس' توقع
نداحل	Nidahel	ف	صدا دینے والا' آواز دینے والا
ندمان	Nadman	ف	شرمندہ' پشیمان
ندیر	Nadir	ف	نادر' نایاب' انوکھا' کمیاب
ندرت	Nudrat	ع	نادر ہونا' انوکھا پن
ندیر	Nadeer	ع	مسکین' اکیلا' تنہا
ندید	Nadid	ع	مانند' مثل' برابر' نظیر
نزار	Nazar	ع	دبلا پتلا' نحیف' ایک فاطمی خلیفہ کا نام
نذیر	Nazir	ع	ڈرانے والا' اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے والا' حضور نبی کریم ﷺ کا ایک صفاتی اسم مبارک
نذیل	Nazeel	ع	قیام کرنے والا' مسافر
نذر	Nazar	ع	منت' عہد' پیمان' صدقہ' ایک ولی اللہ حضرت سید نذر محی الدین قادریؒ جو بٹالہ شریف سے لاہور اقامت گزیں ہوئے۔ لاہور میں آپ کا مزار حضرت شیخ محمد طاہر بندگیؒ کی درگاہ عالیہ کے قریب ہے
نذارت	Nazarat	ع	خوف' ڈر
نزیل	Nazeel	ع	مسافر' پڑاؤ ڈالنے والا' قیام کرنے والا
نرگس	Nargess	ف	پھول کا نام
نریم	Narim	ف	فارس کے مشہور پہلوان رستم کے دادا کا نام
نروان	Nirwan	س	خلاصی' نجات
نرجس	Nargis	ف	نرگس' آنکھ کی مانند

marfat.com
Marfat.com

نرالا	Nirala	ہ	عجیب' انوکھا
نزال	Nazal	ع	نازل ہونا' منزل' گھر
نزاہت	Nazahat	ف	طہارت' پاکی' صفائی' پاکیزگی
نزاکت	Nazakat	ف	لطافت' نرمی' باریکی' نخرہ
نژادہ	Nazadah	ف	اصیل' نجیب' خاندانی
نسیم	Nasim	ع	بادصبا' صبح سویرے کی ٹھنڈی ہوا' نرم ٹھنڈی ہوا
نسیق	Naseeq	ع	ترتیب کے ساتھ' آراستہ
نساج	Nisaj	ع	کپڑا بننے والا' سخن باز' اپنے وقت کے مشہور ولی اللہ حضرت خیر نساجؒ۔ آپ حضرت سری سقطیؒ کے مرید تھے۔ حضرت ابراہیم خواص اور حضرت ابوبکر شبلیؒ نے آپ ہی کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ آپ بغداد شریف کے کامل ترین بزرگ تھے
نسیب	Naseeb	ع	عالی نسب' اچھے خاندان والا' اعلیٰ نسب والا
نشر	Nashar	ف	زخم کھولنا
نشیم	Nashim	ف	راحت کردہ' آرام گاہ
نشید	Nasheed	ع	گیت' نغمہ' سرود
نشاج	Nishaj	ع	کھوئے ہوئے کو تلاش کرنے والا
نشور	Nashoor	ع	قیامت میں اٹھنا' زندہ ہونا
نشتر	Nishter	ف	زخم کھولنا' پاکستان کے نامور قومی رہنما سردار عبدالرب نشتر
نشاط	Nishat	ع	مسرت' انبساط' خوشی' شادمانی' راحت
نشیل	Nishil	ع	باریک تلوار' تازہ پانی
نشیط	Nashit	ع	پرمسرت' خوش' ہشاش بشاش' چست' پھرتیلا
نشق	Nashaq	ع	مہک' خوشبو
نشان	Nishan	ف	شاہی فرمان' علامت' نشانی

marfat.com

Marfat.com

نصرانی	Nasrani	ا٬ع	دین مسیح کا پیروٗ عیسائی
نصرت	Nusret	ع	مددٗ حمایتٗ دستگیریٗ پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ قوال نصرت فتح علی خان
نصیب	Naseeb	ع	قسمتٗ مقدرٗ حصہ
نصیح	Naseeh	ع	نصیحت کرنے والاٗ اچھی بات کہنے والا
نصوح	Nasooh	ع	پاکٗ سچاٗ خالص
نصر	Nasar	ع	خالص چیزٗ سوناٗ زر
نصر	Nasr	ع	مددگارٗ معاونٗ مدد کرنے والاٗ قبیلہٗ حمایتٗ بغداد کے ایک مشہور ولی اللہ شیخ ابونصر سراجؒ۔ آپ کا اپنی ظاہری زندگی میں یہ فرمانا تھا کہ میرے مزار کے سامنے سے جو بھی جنازہ گزرے گا بخشا جائے گا چنانچہ بغداد میں اب تک لوگ آپ کے مزار مبارک کے سامنے سے جنازہ لے کر گزرتے ہیں۔
نصاح	Nisah	ع	مشہور قاری
نصار	Nisar	ع	مددگار لوگٗ حمایت کرنے والے لوگ
نصفت	Nesfet	ع	دوسرے کو عاجز اور چپ کرا دینے والا
نصاخ	Nasakh	ع	ایک مشہور قاری کا نامٗ دھاگہ
نصیر	Naseer	ع	مددگارٗ حمایتیٗ سلسلہ چشتیہ کے مشہور ولی اللہ حضرت شیخ خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلویؒ۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کے مرید تھے۔ آپ کا مزار مبارک دہلی بھارت میں واقع ہے
نصیری	Naseeri	ع	حضرت علیؑ کو خدا ماننے والا فرقہٗ شیدائیٗ جانثار
نصیف	Naseef	ع	نصفٗ آدھا
نضال	Nizal	ع	مجاہدٗ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں لڑنے والا

marfat.com

Marfat.com

سونا' زر خالص چیز' کھری شے	ع	Nizar	نضار
خشبو' مہک	ع	Nazhat	نفحت
آبدار' تازہ' سونا	ع	Nazeer	نضیر
سونا' خالص شے' زر	ع	Nazar	نضر
چمک دمک' تابندگی' آبداری' تازگی	ف	Nazarat	نضارت
ترتیب شدہ' مرتب	ع	Nazeed	نضید
پاک	ع	Nutaf	نطف
صاف' پاک' پاکیزہ	ع	Nateef	نطیف
حکیم' عالم' طبیب' معالج	ع	Natees	نطیس
قوم کا سردار	ف	Nateerat	نطیرت
پاکیزگی' طہارت' صفائی' پاکی	ع	Nazafat	نظافت
انتظام' نظام' بندوبست' نظم ونسق	ع	Nazamat	نظامت
قوم کا سردار	ف	Nazirat	نظیرت
نگاہ' نگرانی' دیکھنا' آنکھ کی روشنی	ع	Nazer	نظر
حفاظت' نگہبانی' پاسبانی	ف	Nazarat	نظارت
مثل' نمونہ' مثال' ہوبہو	ع	Nazir	نظیر
رکھوالا' نگہبان' پاسبان	ع	Naz'aar	نظار
بندوبست' انتظام' نظم ونسق' دہلی کے مشہور ولی اللہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ۔ آپ کا خاندان بخارا سے ہجرت کر کے لاہور آیا۔ پھر بدایوں میں سکونت پذیر ہوا۔ آپ کی ولادت بدایوں میں ہوئی۔ وصال دہلی میں ہوا۔ مزار مبارک دہلی میں ہے۔ خانقاہ کی عمارت علاؤالدین خلجی کے بیٹے خضر خان نے بنوائی تھی	ع	Nizam	نظام

marfat.com

Marfat.com

نظیم	Nazeem	ع	مناسب شعر'موزوں شعر
نظور	Nazoor	ع	قوم کا سردار
نظیف	Nazeef	ع	حلال وطیب'پاک وصاف'پاکیزہ'طاہر
نظامی	Nizami	ع	باقاعدہ فوج کا سپاہی
نعمان	Numan	ع	نعمت پانے والا'امام اعظم ابوحنیفہؒ کا اصل نام
نعمت	Nemat	ع	انعام'دولت' کشمیر کے مشہور ولی اللہ شاہ نعمت اللہ حصاری کشمیریؒ۔ آپ نے 1028ھ میں وصال فرمایا۔ مزار مبارک چچہ پل کشمیر کے پاس واقع ہے
نعیم	Naeem	ع	جنت'بہشت'صاحب'نعمت'نیکی'حضور نبی کریم ﷺ کے ایک خادم صحابی حضرت نعیم بن ربیعہؓ
نفیل	Nafeel	ع	نفل پڑھنے والا'عبادت گزار'حضرت عمر فاروقؓ کے دادا کا نام نفیل
نفل	Nafel	ع	عبادت'عطیہ'بندگی
نفوس	Nafus	ا'ع	نفس کی جمع'روحیں'ہستیاں
نفیس	Nafees	ع	عمدہ'پسندیدہ'لطیف'اعلیٰ
نصیر	Nazeer	ع	عدل'انصاف
نفاح	Naffah	ع	بہت انعام دینے والا'بہت نفع پہنچانے والا'نیزہ کی گہری ضرب
نفاست	Nafasat	ع	عمدگی'خوبی
نفیر	Nafir	ع	نفرت کرنے والا
نفاع	Nafaa	ع	بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا

marfat.com

Marfat.com

نفیع	Nafie	ع	حضور نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی کا اسم مبارک۔ آپ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کا وصال بصرہ عراق میں ہوا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ نماز جنازہ حضرت ابو بردہ اسلمیؓ پڑھائیں
نقیب	Naqeeb	ع	تشہیر کرنے والا' اعلان کرنے والا
نقاش	Naqash	ع	مصور' گل کار' پاکستان کے ایک کھلاڑی طاہر نقاش
نقاد	Naqad	ع	پرکھنے والا' کھرا کھوٹا' دیکھنے والا
نقیر	Naqeer	ا'ع	صغیر
نقیع	Naqie	ع	ٹھنڈا اور شیریں پانی
نمود	Namood	ع	نمونہ
نوآواز	Noawaz	ف	نیا دن
نورالعین	Nur-ul-Ain	ع	آنکھوں کا نور' بیٹا
نورس	Nores	ف	نیا' تازہ' نوخیز
نور	Noor	ع	چمک' روشنی' اجالا' سلسلہ چشتیہ کے ایک ولی اللہ حضرت خواجہ نور محمد مہارویؒ۔ آپ کا مزار مبارک چشتیاں ضلع بہاولنگر میں واقع ہے
نورانی	Noorani	ع'ف	روشن' نور والا' منور درخشاں
نوز	Noze	ع	صنوبر کا درخت
نوشی	Noshi	ف	نوشین کا مخفف شیریں' خوش ذائقہ
نوشیرواں	Nosherwan	ع	ایران کے ایک قدیم بادشاہ کا نام جو بڑا عادل اور انصاف پسند تھا
نواب	Nawab	ع	رئیس' امیر
نواصب	Nawaseb	ا'ع	مسلمانوں کا ایک فرقہ جو حضرت علیؓ کو نہیں مانتا' خارجی

marfat.com

Marfat.com

نواق	Nawwaq	ع	اونٹوں کو سدھانے والا
نویس	Nawees	ف	لکھنے والا' تحریر کرنے والا
نویم	Naweem	ع	غافل' گمنام
نویر	Naweer	ع	غنچہ' آدھ کھلا پھول
نوم	Noam	ع	نیند' خواب
نومی	Nomi	ع	خواب' نیند
نوح	Nooh	ع	ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام (تسکین دینے والا)
نوادر	Nawader	ع	قیمتی اشیاء' نادر اشیاء
نوفل	Nofel	ع	سخی' فیاض' عطیہ' بخشش' ام المومنین حضرت خدیجہؓ کے چچا کا نام
نوشیر	Nosher	ف	نیا دلیر' نیا بہادر
نواف	Nawaf	ع	زیادہ کرنے والا
نوشاب	Noshab	ف	شربت' آب حیات' حیات بخش شربت
نوبادہ	Nobadah	ف	نیا میوہ' نئی شے' تازہ
نوخاستہ	Nokhastah	ف	نوجوان' نوخیز
نوقی	Noqi	ع	نیند والا
نوقیر	Noqeer	ع	غنچہ' ادھ کھلا پھول
نقاوت	Naqawat	ع	صفائی' طہارت' پاکی' پاکیزگی
نقابت	Naqabat	ع	تعریف کرنا' ستائش کرنا' توصیف کرنا
نقی	Naqi	ع	پاکیزہ' خالص' صاف' پاک' نویں امام محمد نقیؒ۔ آپ کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں امام موسیٰ کاظمؒ کے مزار کے پہلو میں واقع ہے۔
نکوئی	Nakoi	ع	نیکی' بھلائی' خوبی' عمدگی' اچھائی

marfat.com

Marfat.com

نگینہ	Nagina	ف' ا	ایک قیمتی پتھر' نگ
نمار	Numar	ع	اشارہ' ایما
نمال	Nimaal	ف	موز' بہت سے مور
نمرہ	Numrah	ع	رنگ کا چھینٹا' دھبہ
نمط	Namat	ا' ع	اس بادشاہ کا نام جس نے حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں ڈلوایا تھا اور آگ خدا تعالیٰ کے حکم سے گلزار بن گئی تھی
نمیر	Namir	ف	صاف پانی' میٹھا پانی' خوش ذائقہ پانی' خالص' کھرا
نوازش	Nawasash	ع	مہربانی' کرم' عنایت' سلسلہ چشتیہ صابریہ کے ایک ولی اللہ حضرت نوازش علی چشتی صابریؒ۔ آپ کا مزار مبارک گڑھی شاہو لاہور میں واقع ہے۔
نوید	Naveed	ف	خوشخبری' مژدہ' بشارت' خوشی کی خبر
نوروز	Norose	ف	نیا دن' نئے سال کا پہلا روز
نواز	Nawaz	ع	عنایت کرنے والا' مہربانی کرنے والا' نوازش کرنے والا' پاکستان کے ایک وزیر اعظم محمد نواز شریف
نوال	Nawal	ع	بے مثل' عنایت' بخشش' نادر' بے نظیر' مہربانی' کرم
نوشاد	Noshad	ع	مسرور' شاداں و فرحاں' خوش' پُر مسرت
نورالٰہی	Noor Elahi	ع	اللہ تعالیٰ کا نور
نوشہ	Nosha	ف	نوجوان' دولہا' مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا لقب
نوری	Noori	ع	روشن' منور' چمکدار' مغل بادشاہ نورالدین جہانگیر کے عہد کے ایک ولی اللہ حضرت سید نوری قادریؒ۔ آپ حضرت میاں میرؒ کے مرید تھے۔ مزار مبارک لاہور میں ہے
نورین	Noreen	ع	روشن

marfat.com
Marfat.com

نوریںہ	Noreenah	ع	ایک خوش ذائقہ حلوہ
نہاد	Nihad	ع	عادت‘ سرشت‘ خصلت‘ طبیعت
نہمار	Nahmar	ف	عظیم‘ بزرگ‘ عجیب
نہیان	Nahyan	ع	روکنے والا‘ منع کرنے والا‘ اسلامی ملک متحدہ عرب امارات کے ایک حکمران سلطان النہیان
نہیل	Naheel	ع	مسرور‘ شاداں وفرحاں‘ خوش وخرم‘ پُرمسرت
نہار	Nihar	ع	سویرا‘ دن‘ صبح
نہال	Nahal	ع	کامیاب‘ فتح مند‘ پُرمسرت‘ مسرور‘ خوش وخرم
نہال	Nihal	ف	خوبصورت‘ حسین‘ خوشحال‘ مکمل‘ پورا
نہیب	Naheeb	ع	ہیبت‘ عظمت‘ جلال‘ خوف‘ دبدبہ‘ رعب
نہیک	Naheek	ع	حضور نبی اکرم ﷺ کے پیارے صحابی اور آزاد کردہ غلام حضرت نہیک بن الاسودؓ
نیاز	Niaz	ع	خواہش‘ تمنا‘ آرزو‘ منت‘ عرض
نیائش	Niayesh	ف	ستائش‘ تعریف‘ توصیف‘ دعا‘ آفرین
نیر	Nayyer	ع	روشن ستارہ‘ چمکدار منور ستارہ
نیراعظم	Nayer-e-Azam	ا‘ع	سب سے بڑا اور سب سے روشن‘ جرم فلکی‘ سورج
نیرنگ	Neering	ف	جادو‘ تغیر
نیلم	Neelam	ا‘ف	نیلے آسمان کے رنگ کا ایک قیمتی پتھر
نیلک	Neelak	ف	ایک ریشمی کپڑا
نیلوفر	Nalofer	ف	کنول کا پھول
نیلوفری	Neloferi	ف	نیلوفر کے رنگ کی نیلگوں

marfat.com
Marfat.com

نیک	Naik	ف	شریف، بھلا، رحم دل، اچھا، خوب، پرہیزگار
نیابت	Niyahat	ع	نائب ہونا، قائم مقام ہونا
نیازی	Niazi	ع	محبوب، عرض کرنے والا، التجا کرنے والا
نیالش	Nayalash	ع	تعریف، دعا، آفرین
نیشان	Nieshan	ع	تمغہ نشان
نیوشندہ	Newshendha	ف	سننے والا

marfat.com

Marfat.com

و

واقد	Waqed	ع	آگ روشن کرنے والا' حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت واقدؓ۔ آپ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں۔
واسع	Wasay	ع	کشادہ
واسط	Wasit	ع	اپنے کام سے مطلب رکھنے والا' معتدل
واصل	Wasil	ع	ملنے والا
واحد	Wahid	ع	یک' ایک' تنہا' یکتا' اکیلا
وارق	Wariq	ع	خوبصورت پتوں والا درخت
وارہ	Warah	ع	طرز' روش' لائق
وارینہ	Warina	ف	مثل' نظیر' مانند
واسف	Wasif	ت	اعلیٰ' عمدہ' اچھا' خوب' اصیل
وافی	Wafi	ع	کامل' مکمل' پورا حق دینے والا
واہب	Waheb	ع	بخشنے والا' معاف کرنے والا' دینے والا
والا	Wala	ف	مالک' صاحب
واعظ	Waiz	ع	وجود دینے والا' پالنے والا
واثق	Wasiq	ع	مستحکم' مضبوط' پکا' اٹل' ایک عباسی خلیفہ واثق باللہ جو کہ خلیفہ ہارون الرشید کا پوتا تھا۔ خلیفہ واثق باللہ بہت بڑا شاعر اور ادیب بھی تھا۔ اس نے پانچ برس نو ماہ خلافت کی اور چھتیس برس چار ماہ کی عمر میں فوت ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی سڑک پر مقام ہارونی میں دفن کیا گیا۔

marfat.com
Marfat.com

وارث	Waris	ع	مددگار' حامی' مستحق' حق دار
واشد	Washed	ف	شگفتگی' کھلا ہوا
والی	Wali	ع	دوست' رفیق' حاکم
واسطی	Wasti	ف	تعلق' واسطہ' سروکار' عمدہ قلم' واسط شہر کا رہنے والا
واقف	Waqif	ع	جاننے والا' آگاہ
وامق	Wameq	ع	چاہنے والا' محبت کرنے والا' عاشق
واصف	Wasif	ع	تعریف کرنے والا' ستائش کرنے والا' ایک مشہور شاعر سید واصف علی واصف۔ قبر مبارک قبرستان میانی صاحب لاہور میں واقع ہے
وارد	Warid	ع	بہادر' دلیر' شجاع' جری
وائل	Wail	ع	پناہ لینا' حفاظت میں آنا' نجات پانا' خلاصی ہونا
واؤداد	Wawdad	ع	شیر' دلیر' نڈر' بہادر' جری شجاع
وافر	Wafer	ع	بہتات' بہت کثرت سے
واجب	Wajab	ع	لازم' ضروری' مناسب' ہمیشہ
واجف	Wajef	ع	دھڑکتے دل والا
واجد	Wajid	ع	وجود دینے والا' پالنے والا
وارد	Warid	ع	قاصد' مسافر' آنے والا
واعد	Waaid	ع	وعدہ کرنے والا' عہد و پیمان کرنے والا
وافد	Wafed	ع	قاصد' ایلچی
واقی	waqi	ع	نظر رکھنے والا' نگاہ رکھنے والا' بچانے والا
واند	Wanid	ع	آنے والا' سفیر اور ایلچی بن کر آنے والا
وانی	Wani	ع	مکمل
وبیص	Wabees	ع	جگمگانا' چمکنا' روشن ہونا' منور ہونا

marfat.com

Marfat.com

وباص	Wabas	ع	چمکدار' روشن' منور' پرنور
وثاق	Wasaaq	ع	عہد' معاہدہ
وثیق	Waseeq	ع	استوار' پائیدار' مستحکم' مضبوط' معاہدہ' عہد
وثوق	Wasooq	ع	اعتماد' بھروسہ' یقین' استقلال' مضبوطی' استقامت
وثقی	Wasqi	ع	یقین محکم' یقین کامل' مکمل اعتماد
وجیہہ	Wajih	ع	خوبصورت' حسین' خوش شکل' شکیل' خوش رو' اپنے وقت کے مشہور ولی اللہ حضرت شیخ وجیہہ الدین گجراتیؒ۔ آپ کا وصال یکم صفر 999ھ کو ہوا۔ مزار مبارک بھارت کے شہر احمد آباد میں واقع ہے۔
وجاہت	Wajahat	ع	حسن' عزت' خوبصورتی' جاہ وجلال' خوبروئی
وجاح	Wijah	ف	پوشش' پردہ
وجد	Wajad	ع	حال' جذبہ' بے خودی کی حالت
وجدان	Wijdan	ع	وجد' پوچھنا' معلوم کرنا' دریافت کرنا' جاننا
وجیع	Wajie	ع	المناک' دردناک
وجوب	Wujoob	ع	فرض' ضروری' لازم ہونا' مقرر ہونا
وحید	Wahid	ع	اکیلا' تنہا' یگانہ' یکتا' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت وحید حسین قادریؒ۔ آپ کا مقبرہ قبرستان بدھو آوا جی ٹی روڈ لاہور میں واقع ہے
وحدت	wahdat	ع	یکتا' تنہاپن' اکیلاپن' توحید
وحدان	Wahdan	ف	تنہا لوگ' اکیلے لوگ
وحیدالزمان	Waheed-ul-Zaman	ع	زمانہ میں یکتا

marfat.com
Marfat.com

ودود	Wadood	ع	محبت کرنے والا' چاہنے والا' دوست' عاشق' اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک
وداد	wadad	ع	محبت' پیار' چاہت' الفت' انس
ودید	Wadid	ع	چاہت کرنے والا' محبت کرنے والا
ودین	Wadin	ع	نمی والا' پانی میں بھیگا ہوا' گیلا
وذیلہ	Wazilah	ع	آئینہ' شیشہ
ورتاج	Wartaaj	ف	سورج مکھی کا پھول' نیلوفر
ورفان	Werfan	ع	سفارش کرنے والا' شفاعت کرنے والا
وراثت	Warasat	ع	میراث' ترکہ
وراد	Werad	ع	بہادر' دلیر' نڈر' جری' شجاع' شیر' زعفران
ورقہ	Werqa	ع	ڈھال' سپر' بھیڑیا' ام المومنین حضرت خدیجہؓ کے چچا زاد بھائی جناب ورقہ بن نوفل
ورود	Warood	ع	نزول ہونا' اترنا' داخل ہونا
وراق	Waraq	ع	گھاس سے زمین کی سربلندی
وراق	Wiraaq	ع	پتوں کے نکلنے کا موسم' بہت درہم دینار دینے والا' لکھنے والا
وراق	Weraq	ع	محرر' کاغذ کاٹنے والا
وردت	Wurdet	ف	گلگونہ' رنگت
وردان	Werdan	ع	حضور نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی اور آزاد کردہ غلام حضرت وردانؓ۔ آپ کا وصال کھجور کی ٹہنی سے گر کر ہو گیا تھا
ورد	Wird	ع	گلاب کا پھول
وردہ	Wardah	ع	برگ' گلاب کے پھول کی رنگت

marfat.com
Marfat.com

وریام	Weryam	ف	مغل شہنشاہ سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر کے عہد کے ایک ولی اللہ حضرت شیخ وریام شاہ چشتی۔ آپ کی قبر مبارک پرانی گھاس منڈی سرکلر روڈ شاہ عالمی گیٹ لاہور میں واقع ہے۔
وزیر	Wazir	ع	مددگار، صلاح کار، بادشاہ کا نائب، حکمران کا نائب
وزان	Wazan	ف	رواں دواں، جاری
وسیت	Wasseat	ع	نزدیکی، قرب
وسیع	Wasee	ع	فراخ، کھلا، کشادہ
وسوط	Wasout	ع	درمیانی، بیچ کا
وسط	Wasoot	ع	درمیان، مابین، بیچ میں
وسیم	Wasim	ع	حسین و جمیل، خوبصورت، پاکستان کے ایک مشہور کرکٹر وسیم حسن راجہ۔
وساطت	Wasatat	ع	وسیلہ، واسطہ
وسام	Wasam	ع	تمغہ، اعزاز، میڈل
وسامہ	Wasaamah	ع	حسن و جمال، خوبصورتی
وسیط	Wasit	ع	جج، ثالث، منصف
وسالت	Wasalat	ع	وسیلہ، واسطہ، تعلق، ذریعہ
وسامت	Wasamat	ع	حسین ہونا، خوبصورت ہونا، خوبصورتی، رعنائی
وستار	Westar	ع	اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ حمد باری تعالیٰ
وشیک	Washeeq	ع	تیز رفتار، تیز ترین، جلدی کرنے والا
وشاخ	Washakh	ع	کمان، تلوار، شمشیر
وشاق	Washaq	ت	غلام، خدمتگار، خادم
وصیل	Waseel	ع	ہمیشہ ساتھ رہنے والا
وصی	Wasee	ع	وصیت کیا ہوا، جس کو کسی بارے میں وصیت کی جائے

marfat.com

Marfat.com

وصاف	Wasaf	ع	بہت تعریف وتوصیف کرنے والا
وصفی	Wasfa	ع	توصیفی' ستائشی' صفاتی' تعریف
وصیف	Waseef	ع	خدمت گار' خادم
وصید	Waseed	ع	آستانہ' چوکھٹ' دہلیز
وصف	Wasf	ع	اچھائی' بھلائی' تعریف' عمدگی' خوبی
وصناع	Wasnah	ع	بہت مسکرانے والا' سفید رنگت والا
وصال	Wesal	ع	ملاقات' ملاپ' ملنا
وضاح	Wazah	ع	سفید رنگت والا
وضی	Wazi	ع	نوکر' غلام
وعید	Waeed	ع	سزا کی دھمکی دینے والا
وفاق	Wafaq	ع	اتفاق' اتحاد' ملاقات' صلح' موافقت کرنا
وفا	Wafa	ف	نباہ' ساتھ
وفاقت	Wafaqat	أف	دوستی' موافقت
وفی	Wafi	ع	مکمل' تمام' پورا' اکمل' کامل
وقام	Waqam	ع	تلوار' شمشیر' لاٹھی
وقاد	Waqqad	ع	طبیعت کا تیز' عقلمند
وقار	Waqar	ع	بردباری' سکون' متانت' سنجیدگی' اطمینان' آرام' تحریک پاکستان کے نامور رہنما وقار الملک
وقاص	Waqas	ع	مخلوط گروہ' جنگجو' حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی حضرت سعد بن ابی وقاصؓ
وقیام	Waqyaam	ع	تلوار' لاٹھی
وقیع	Waqi	ع	بلند و بالا' اونچا' فراز' صاحب عزت' بلند مرتبہ
وقر	Waqer	ع	شان وشوکت' عزت و وقار

marfat.com
Marfat.com

وقور	Waqoor	ع	معزز آدمی جس کی عزت کی جائے
وکالت	Waqalat	ع	قائم مقام
وکیل	Wakil	ع	کارساز نائب مختار
وکیع	Wakee	ع	سخت ٹھوس ایک مشہور عقلمند آدمی کا نام
ولید	Waleed	ع	اولاد والا بچہ لڑکا کمسن بچہ اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک بن مروان نو سال آٹھ ماہ خلافت کی اور 45 برس چند ماہ کی عمر میں ملک شام کے مقام دیر مران میں وفات پائی۔ اس کے انیس بیٹے تھے۔
ولایت	Walayat	ع	سلطنت اقلیم مدد کرنا مدد دینا
ولیل	Walil	ت	ہرا بھرا تروتازہ سرسبز و شاداب
ولی	Wali	ع	دوست کفیل سرپرست مالک قرآن پاک کی مشہور تفسیر ''فتح الرحمٰن'' کے مؤلف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ۔
ولاف	Wilaf	ع	الفت کرنا محبت کرنا پیار کرنا
ولان	Walan	ع	پیار کرنا الفت کرنا
وہب	wahb	ع	بخشش عطا سخاوت
وہاب	Wahab	ع	معاف کرنے والا بخشنے والا اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک
وہاج	Wahaj	ع	بہت چمکیلا نہایت روشن منور
ویاص	Wayas	ع	چمکدار چمکیلا
ویس	Wais	ع	چاہی یا نہ چاہی ہوئی چیز

marfat.com
Marfat.com

ہ

ہاشم	Hashim	ع	روٹی کے ٹکڑے کرنے والا' حضور سرور کائنات ﷺ کے پردادا آپ نہایت خوبصورت اور جاہ وجلال والے تھے۔ آپ کے چار بیٹے تھے۔ ایک اسد جو کہ حضرت علیؓ کی والدہ کے والد تھے۔ دوسرے نفیلہ' تیسرے صفی' چوتھے عبدالمطلب جو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دادا تھے۔ آپ کی کوئی اولاد سوائے حضرت عبدالمطلب کے زیادہ دیر تک زندہ نہ رہی۔
ہاجد	Hajid	ع	سویا ہوا' رات کو جاگنے والا
ہاجل	Hajal	ع	سونے والا' سفر کرنے والا' مسافر' سیاح
ہاجی	Haji	ع	ہجوم کرنے والا' نقال' منہ چڑھانے والا
ہاطل	Hatiel	ع	لگاتار برسنے والا مینہ
ہادم	Hadem	ع	منہدم کرنے والا' گرانے والا' ڈھانے والا' مسمار کرنے والا
ہارب	Hareb	ع	تیز بھاگنے والا' تیز دوڑنے والا' تیز رفتار
ہائد	Haid	ع	توبہ کرنے والا' تائب ہونے والا
ہائف	Haeaf	ع	آواز دینے والا' غیب سے آواز دینے والا فرشتہ
ہاجر	Hajer	ع	ہجرت کرنے والا
ہابط	Habat	ع	اترنے والا' نیچے آنے والا
ہابل	Habel	ع	کمانے والا' کمائی کرنے والا
ہاروت	Haroot	ع	ایک فرشتے کا نام
ہاتف	Hatef	ع	غیبی آواز' غیب کی آواز' تعریف کرنے والا' فرشتہ

marfat.com
Marfat.com

ہالہ	Hallah	اُف	چاند کا کنڈل جو بخارات اراضی سے چاند کے گرد پڑ جاتا ہے
ہامون	Hamoon	ف	صحرا' جنگل' لاہور کے ایک ولی اللہ حضرت ہامون شاہؒ۔ آپ کا مزار مبارک فتح شیر روڈ پر باغ گل بیگم سے آگے برلب سڑک نالہ کے پاس ایک چبوترے پر واقع ہے۔
ہارش	Haresh	ع	فخر' ناز' خودنمائی' نازش
ہاجر	Hajer	ع	نہایت عمدہ' نہایت اعلیٰ
ہادف	Hadef	ع	جماعت' گروہ' مسافر' سفر کرنے والا
ہائل	Hail	ع	ڈرانے والا' ڈراؤنا' خوفناک' دہشت ناک
ہائم	Haim	ع	محبت میں متوالا' پیار میں دیوانہ
ہادی	Hadi	ع	ہدایت دینے والا' پیشوا' رہنما' ایک عباسی خلیفہ ہادی بن مہدی۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید کا بھائی تھا۔ اس نے تقریباً سوا سال خلافت کی اور انتقال کر گیا۔
ہانی	Hani	ع	خوش و خرم' مسرور' پرمسرت' خادم' حضرت ہانی بن عروہؓ۔ آپ کے مکان میں کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیلؓ نے قیام فرمایا تھا۔ عبیداللہ ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانیؓ کو قتل کر دیا گیا۔
ہامان	Haman	عبر	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے ایک وزیر کا نام
ہامز	Hamez	ف	آنکھ سے اشارہ کرنے والا
ہاجس	Hajis	ع	دل میں گزرنے والا
ہاتن	Haten	ع	برسنے والا بادل
ہاتل	Hatel	ع	مسلسل برسنے والی بارش
ہامر	Hamer	ف	بہت برسنے والی گھٹا
ہامز	Hamiz	ف	آنکھ سے اشارہ کرنے والا

marfat.com
Marfat.com

ہارون	Haroon	ع	پاسبان' سردار' سرکش گھوڑا' عباسی خلیفہ' ہارون الرشید 23 برس اڑھائی ماہ خلافت کی اور انتقال کر گیا۔ نماز جنازہ اس کے بیٹے صالح نے پڑھائی۔ قبر طوس ایران میں موجود ہے
ہارونی	Harooni	ف	پاسبانی' محافظت' ضدی' ایک مشہور ولی اللہ حضرت خواجہ عثمان ہارونیؒ
ہابیل	Habil	ع	حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام
ہبیض	Habiz	ع	خوش ہونا' مسرور' پر مسرت
ہبال	Habbal	ع	پھرنے والا' کمانے والا' مکار' دھوکہ دینے والا
ہبت	Habat	ع	عطا' بخشش' سخاوت
ہبیرہ	Habira	ع	بصرہ کے ایک ولی اللہ حضرت خواجہ ہبیرہ بصریؒ۔ آپ حضرت خواجہ حذیفہ مرعشیؒ کے مرید تھے۔ آپ سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں۔
ہتال	Hatâl	ع	طاقتور' قوی' توانا
ہتاک	Hatak	ع	راز افشا کرنے والا' بھید ظاہر کرنے والا' پردہ فاش کرنے والا
ہتف	Hataf	ع	ندا' صدا' آواز
ہجویری	Hajwaree	ا' ف	ہجویر کا رہنے والا' داتا گنج بخشؒ کی نسبت
ہجیر	Hajir	ع	شدید دھوپ' دوپہر
ہداد	Hadad	ع	عنایت' عطا' نرمی' کرم' مہربانی
ہدیٰ	Huda	ع	سیدھا راستہ' ہدایت' سچی راہ' راستی
ہدید	Hadid	ع	لمبا آدمی' دراز قد آدمی' بلند قامت آدمی
ہدیہ	Hudya	ع	بلند قامت آدمی' دراز قد' لمبا آدمی
ہدایت	Hadayat	ع	رہبری' رہنمائی' ہدایت پانا
ہدف	Hadaf	ع	نشانہ' بزرگ

marfat.com
Marfat.com

ہرمز	Hurmez	ف	مشتری سیارہ' ایران کے حکمران نوشیرواں کے بیٹے کا نام۔ حضور نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی حضرت: ہرمز ابو کیسانؓ۔
ہرمزد	Hermuzd	ف	مشتری سیارہ' ایک فرشتے کا نام
ہرمان	Hurman	ف	عقل وخرد' فہم وشعور
ہرمن	Hermen	عبر	بہادر' جری' شجاع' دلیر' لڑاکا' جنگجو
ہرماس	Hermas	ف	ایال دار شیر
ہرمزان	Hermzan	ف	ستارے
ہرمس	Hermis	یو	حضرت ادریس علیہ السلام اور دو مشہور حکیموں کے نام
ہذاف	Hazaf	ع	شکاری پھرتیلا اور تیز چالاک آدمی
ہذام	Hazam	ع	تیز تلوار' بہادر' جری' دلیر
ہریرہ	Huraira	ع	بلی' حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہؓ۔ آپ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ہزاروں احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں۔
ہرثمہ	Hersama	ع	خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں ایک مشہور شخصیت ہرثمہ بن اعین۔ خلیفہ نے اس کو خراسان کا گورنر مقرر کیا تھا
ہرقل	Harqal	ع	روم کے ایک بادشاہ کا نام
ہزبر	Hezber	ع	ببر شیر' بہت دلیر' نہایت شجاع' بہت بہادر
ہذمان	Hezman	ف	ہر لمحہ' ہر گھڑی' ہر وقت
ہزاع	Hezaa	ع	ضعیف' بوڑھا' عمر رسیدہ
ہزینہ	Hazeena	ع	خزینہ' اہل وعیال کا خرچ
ہزیر	Hazir	ف	دانشمند' سمجھدار' دانا' عقلمند
ہزت	Hazt	ع	خوشی' مسرت' عیش
ہزمان	Hazman	ف	ہر گھڑی

marfat.com
Marfat.com

ہسوار	Haswaar	ف	عقلمند' ہوشیار' دانشمند' سمجھدار' دانا
ہشام	Hisham	ع	فیاض' سخی
ہشام	Hasham	ع	توڑنے والے' اموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک یہ خلیفہ ساڑھے انیس سال خلافت کرنے کے بعد انتقال کر گیا
ہشمند	Hoshmand	ع	ہوشیار' عقل مند
ہشیدار	Hashadar	ع	ہوشیار' ذی شعور
ہشیش	Hashish	ع	بہت زیادہ سخی' ایسا سخی جو سائل کے سوال سے خوش ہو
ہشیم	Hasheem	ع	سخی' فیاض' توڑنے والا
ہشوار	Hashwar	ف	دانشمند' ہوشیار' زیرک' معاملہ فہم' عقلمند' دانا' سمجھدار' باشعور
ہصیص	Hasess	ع	پاؤں کے نیچے کچلا ہوا' توڑا ہوا' بھاری جسم کا آدمی' بڑی داڑھی والا آدمی' زیادہ عمر کا
ہضاض	Hazaz	ع	توڑنے والا
ہطل	Hatil	ع	بہت زیادہ برسنے والی بارش
ہلال	Halal	ع	تیسری تاریخ تک کا چاند' حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زیدؓ کے پوتے بلال بن یسار بن زیدؓ
ہلال	Halal	ع	ہلکی بارش' پہلی پھوار' پہلی بارش
ہلاکو	Halaku	ع	خونریز' ایک مشہور بادشاہ ہلاکو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا
ہمت	Himmat	ف	حوصلہ' دلیری' جرأت' ارادہ
ہمدانی	Hamdani	ف	ایران کے شہر ہمدان کا رہنے والا
ہمبر	Hamber	ف	ہم پہلو
ہمباز	Hambaz	ف	شریک' شامل
ہما	Huma	ف	ایک خیالی پرندہ جس کے متعلق مشہور ہے کہ جس کے سر پر سے گزر جائے وہ بادشاہ بن جائے

marfat.com
Marfat.com

ہمان	Haman	ف	ہم خیال
ہمایوں	Humayun	ف	بابرکت' مبارک' نیک' سعید' ہندوستان کا مشہور مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں جو کہ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کا والد تھا
ہمام	Hamam	ف	بلند ہمت' دلیر' قوم کا سردار' جری' بہادر
ہمراہی	Hamrahi	ف	ساتھی' ساتھ چلنے والا
ہمین	Hamin	ف	گرمی کا موسم
ہمینہ	Haminah	ع	پانی کا قطرہ
ہمدوش	Hamdosh	ف	ساتھ رہنے والا' ہمسر' ساتھی' رفیق
ہماس	Hamas	ع	شیر
ہمیم	Hamim	ع	ہلکی بارش' ہلکی پھوار' نرم رفتاری' آہستہ چلنا
ہمال	Hamal	ف	مانند' مثل' شریک' شامل
ہماز	Hamaz	ع	آنکھ سے اشارہ کرنے والا
ہمدل	Hamdil	ف	دوست' رفیق' ساتھی' مخلص' بے لوث
ہمس	Hams	ع	نرم آواز
ہند	Hind	ع	محبوب کے رخسار کا تل' حضرت خدیجہؓ کے ایک بیٹے کا نام جو پہلے شوہر ابوہالہ بن بناش تمیمی سے تھے
ہندال	Hindal	ت	مغل بادشاہ شہاب الدین شاہجہاں کے ایک بیٹے کا نام
ہنر	Huner	ع	کام' کاریگری' سلیقہ' فن
ہندوس	Handoos	ع	چالاک' زیرک' دانشمند' عاقل' سمجھدار
ہنداز	Handaz	ع	حدود و قیاس
ہنین	Hanin	ع	فریاد کرنا
ہنی	Hani	ع	بامزہ' لذت' خوشگوار
ہنگام	Hangam	ف	زمانہ' رت' وقت' موسم' مجمع' بھیڑ

marfat.com
Marfat.com

ہنگار	Hangar	ف	فوری' شتابی' جلد' سرعت
ہوش	Hosh	ف	دانائی' سمجھ' عقل' دانش' شعور' فہم
ہوزان	Hozan	ف	نرگس' شگفتہ
ہوشنگ	Hoshing	ف	ہوش' عقل' دانش' ایران کے ایک قدیم بادشاہ کا نام
ہود	Hood	ع	اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا' نیک کام کرنا' توبہ کرنا' ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام
ہودہ	Hodah	ف	درست' حق' سچا' ٹھیک
ہویدا	Huwaida	ف	ظاہر' کھلا' عیاں' آشکارا' روشن
ہوشمند	Hoshmend	ف	عقل مند' دانشمند' سمجھدار' خردمند
ہورخبش	Horkhabash	ع	آفتاب' سورج
ہورمز	Horemz	ف	مشتری سیارہ
ہیکل	Haicle	ع	شکوہ' بلند مرتبہ' شان و شوکت' عظمت
ہیثم	Haisham	ع	سخی' فیاض' توڑنے والا
ہیبت	Haibat	ع	ڈر' خوف' رعب' مشہور تفسیر' اسرار التنزیل کے مصنف شیخ ہیبت اللہ بازریؒ۔ آپ کی وفات 737ھ کو ہوئی۔
ہیصم	Haisam	ف	قوی' طاقتور' جری' دلیر' بہادر' شجاع' نڈر' شیر' چمکیلا پتھر
ہیام	Hayam	ع	عشق کی دیوانگی' ہمیشہ گرنے والی ریت
ہیتال	Hattal	ع	قوی' شہ زور
ہیرو	Hiro	ی	دلیر' بہادر' مشہور
ہیرا	Hira	ہ	الماس' ایک قیمتی پتھر
ہیبتی	Haibti	ع	حضور غوث پاکؒ کے عہد کے ایک مشہور صاحب کرامت ولی اللہ حضرت شیخ علی ہیبتیؒ۔ آپ نے 120 برس کی عمر میں 560ھ میں وصال فرمایا۔ قبر مبارک مقام زریران میں ہے

marfat.com
Marfat.com

ی

یاب	Yaab	ف	یافتن کا امر، پانا، اسم کے آخر میں آ کر فاعل کے معنی دیتا ہے جیسے کامیاب، فیض یاب
یابندہ	Yabandah	ف	پانے والا، حاصل کرنے والا
یاسر	Yasir	ع	دولت مند، مالدار، بائیں جانب، مشہور فلسطینی رہنما یاسر عرفات احمد
یاسج	Yasaj	ف	پیکان والا تیر
یاسین	Yasin	ع	قرآن پاک کی ایک سورۃ، حضور نبی کریم ﷺ کا لقب مبارک۔ اپنے وقت کے مشہور ولی اللہ حضرت شیخ یاسین مغربی اسودؒ۔ آپ کا وصال مبارک 686ھ میں ہوا
یازر	Yazer	ت	لکھنے والا، لکھاری، مصنف
یاور	Yawer	ع	مددگار، حمایتی، مدد کرنے والا، ناصر، معاون، ایک نام یاور حیات
یاقوت	Yaqoot	ع	ایک قیمتی پتھر
یاقوت احمر	Yaqoot Ahmar	ا، ع، ف	سرخ رنگ کا یاقوت، قیمتی پتھر
یامن	Yamen	ع	سیدھے ہاتھ کی جانب، دائیں جانب
یافر	Yafer	ف	گلکار، نقاش
یار	Yar	ف	دوست، رفیق، ساتھی
یارباش	Yarbash	ف	ملنسار، دوست دار، یاروں کا یار
یامین	Yamin	ع	داہنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ، امین، امانت دار
یاشر	Yasher	ت	زندہ رہنے والا، ایک مشہور مصنف یاشر عظیم

marfat.com
Marfat.com

یاشم	Yasham	ف	ایک سبزی مائل قیمتی پتھر' چنبیلی کا پھول
یارز	Yariz	ت	مصنف' لکھاری
یارق	Yariq	ف	چمکدار' روشن' منور' عیاں' ظاہر' آشکارا' سفید
یاسم	Yasem	ع	چنبیلی کا پودا
یاسمین	Yasmeen	ت	سبز قیمتی پتھر
یافت	Yaft	ع	کمائی' نفع' آمدنی' بچت
یاشا	Yasha	ع	دعائیہ کلمہ' زندہ باد' پائندہ باد
یازان	Yazan	ف	ارادہ کرنے والا' نیت کرنے والا' کھینچنے والا
یاسمون	Yasmoon	ع	چنبیلی کا پھول
یافع	Yafay	ع	لمبا تڑنگا جوان
یتن	Yaten	ا'س	جتن کوشش
یثرب	Yasrab	ع	مدینہ کا قدیم نام
یحییٰ	Yahya	ع	زندہ رہنے والا' ایک پیغمبر کا نام' ایک مشہور ولی اللہ حضرت شیخ یحییٰ بن معاذ رازیؒ۔ آپ کا وصال 258ھ میں ہوا۔ قبر مبارک نیشاپور ایران میں ہے۔
یخمور	Yakhmoor	ع	لمبا آدمی' گردن والا' ایک سپید پیٹی یا کوزی
یدے	Yaday	ع	تکیہ کلام
یدین	Yadin	ع	دونوں ہاتھ
یدان	Yadan	ع	اللہ کا ہاتھ
یداللہ	Yadullah	ع	اللہ تعالیٰ کا ہاتھ
یروشلم	Yaroshallam	ع	فلسطین کا دارالسلطنت' ایک بہت پرانا شہر' حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ کا دارالسلطنت' بیت المقدس

marfat.com

Marfat.com

یرید	Yurid	ع	آرزو کرنا' تمنا کرنا' چاہنا' خواہش کرنا
یرسل	Yursel	ع	بھیجا ہوا' ارسال کیا ہوا
یرمیاہ	Yermaya	عبر	اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا
یرمغان	Yermghan	ار	عطیہ' تحفہ' ہدیہ
یرغا	Yergha	ت	حملہ' چڑھائی' یلغار' تیز رفتار گھوڑا
یزید	Yazid	ع	مال میں بڑھنا' دولت سے بڑھنے والا' رئیس' دولت مند' مالدار' حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک صحابی یزید بن ابوسفیانؓ۔ آپ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ کاتبان بارگاہ رسالت میں سے ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے دور خلافت میں آپ کو فلسطین کا حاکم مقرر کیا تھا۔ آپ کا وصال 17ھ میں طاعون کے مرض سے ہوا۔
یزداں	Yazdan	ف	نیکی کی طاقت' خیر کی قوت' بھلائی کی طاقت
یزدان	Yazdan	ف	نیکی کی طاقت
یزدان بخش	Yazdan bakhush	ف	یزداں کی عنایت' ہرمز کے وزیر کا نام
یزدانی	Yazdani	ف	ربانی' خدائی
یسال	Yasal	ع	پھولوں کا تاج
یساول	Yassawal	ف	نقیب' قاصد' جواب دار
یسیر	Yaseer	ع	تھوڑا' آسان' سہل
یساط	Yasat	ع	قاصد' نقیب
یسریٰ	Yasra	ع	خوشحالی' آسودہ حالی

marfat.com
Marfat.com

یسار	Yasar	ع	مالداری، دولت مندی، کثرت، بہتات، فراوانی، حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی حضرت یسارؓ۔ آپ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے۔ آپ کو چراگاہ میں شہید کردیا گیا تھا۔ 2ھ میں آپ کی شہادت ہوئی۔
یسوع	Yasooh	عبر	حضرت عیسیٰ علیہ السلام
یسارت	Yasarat	ع	دولت کی کثرت، امیری، دولت مندی
یسوی	Yaswee	ع	ترکستان کے ایک مشہور ولی اللہ حضرت خواجہ احمد یسویؒ۔ آپ کا وصال 562ھ میں ہوا۔ مزار مبارک ترکستان کے شہر لیسی میں واقع ہے۔
یشم	Yasham	ت	ایک پتھر جو ہرا سبزی مائل ہوتا ہے
یشرح	Yashrah	ع	کھولنا، وا کرنا، ظاہر کرنا
یشل	Yashal	ت	ہرا بھرا، سرسبز و شاداب، تر و تازہ
یشعر	Yasher	ع	سمجھنے والا
یعقوب	Yaqoob	عبر	عقب میں آنے والا۔ عباسی خلیفہ معتمد کے عہد میں بلخ کا گورنر یعقوب بن لیث صفار۔ اس نے بہت سی فتوحات کیں۔ 9 شوال 265ھ کو قولنج کے مرض سے وفات پائی۔
یعسوب	Yasoob	ف	قائد، پیشوا، رہنما، لیڈر
یعسوب المومنین	Yasoob-ul-Mominin	ع	حضرت علیؓ کا لقب مبارک
یعوق	Yaook	ع	حضرت نوحؑ کی قوم کا ایک بت
یغمان	Yaghman	ع	مال غنیمت
یغوث	Yaghus	ع	قوم نوحؑ کے ایک بت کا نام جو فریادرسی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا
یفاع	Yafah	ع	اونچی زمین، بالائی زمین، بلند مقام

marfat.com
Marfat.com

یقین	Yaqin	ع	اعتماد' اعتبار' ایمان' اطمینان کامل
یقطان	Yaqtan	ع	چوکنا' بیدار' ہوشیار' چوکس
یکسو	Yaksu	ف	الگ' ایک طرف' ساکن' ٹھہرا ہوا
یگونہ	Yagona	ف	برابر' ایک جیسا' یکساں' مساوی
یگانہ	Yagana	ف	بے مثل' بے نظیر' لاثانی' یکتا' اکیلا' تنہا
یکتا	Yakta	ف	اکیلا' بے مثل' تنہا' یگانہ
یلناز	Yalnaz	ف	بے نظیر' تنہا' اکیلا' لاثانی' یکتا' یگانہ
یلدز	Yalraz	ت	سنہرا کرنا' ستارہ
یلدرم	Yaldrem	ت	بجلی' برق
یلماز	Yalmaz	ت	ناقابل شکست
یمن	Yamun	ع	برکت' سعادت
یماک	Yamak	ف	ایک شہنشاہ کا نام
یمام	Yamam	ع	مقصد' مطلب' غرض' ارادہ' قصد
یمیم	Yamim	ع	ارادہ کرنے والا' نیت کرنے والا' قصد کرنے والا
یمین	Yamin	ع	سیدھا ہاتھ' داہنا ہاتھ
یمین الدولہ	Yaminudollah	ع	ایک معزز خطاب
یمان	Yaman	ع	یمنی
یوحنا	Yohanna	ا	کدا کا فضل' عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کا نام
یورش	Yorash	ع	حملہ' چڑھائی' ہلہ
یوراج	Yoraj	اُہ	ولی عہد' شہزادہ

marfat.com
Marfat.com

یوسف	Yousaf	عبر	حسین وجمیل' خوبصورت' نہایت خوبصورت' ایک مشہور پیغمبر کا نام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حسن و جمال میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتے تھے
یوکسل	Youksel	ت	اونچائی' بلندی
یونس	Younas	ع	رکن' ستون' ایک پیغمبر کا نام
یوعان	Yuaan	عبر	اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم
یوضا	Yuza	ع	باری تعالیٰ کا فضل وکرم
یوجنا	Yujana	ع	تعریف۔ستائش۔توصیف
یہودا	Yahuda	ا'ع	حضرت عیسیٰ کے ایک حواری کا نام جس نے عیسیٰ کو پکڑوایا تھا ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس کی شکل عیسیٰ جیسی ہوگئی تھی تو اس لئے اسے سولی پر چڑھا دیا گیا اور عیسیٰ بچ گئے۔

marfat.com
Marfat.com

marfat.com
Marfat.com

دوسرا حصہ

لڑکیوں کے نام

الف	اردو
ت	ترکی
ٹ	ٹیوٹانی
س	سنسکرت
ع	عربی
عبر	عبرانی
ف	فارسی
ک	کلٹی
لا	لاطینی
اطا	اطالوی
ر	روسی
ہ	ہندی
یو	یونانی

marfat.com
Marfat.com

marfat.com
Marfat.com

آ

آبرہ	Abra	ع	حجت پیش کرنے والی' دلیل پیش کرنے والی
آبدار	Abdar	ف	بارونق' چمکیلی' پانی رکھنے والی خادمہ
آبرو	Abroo	ع	عصمت' عزت' نیک نامی
آبگینہ	Abgina	ف	آئینہ' شیشہ' الماس
آب در	Aabder	ف	موتی کی چمک' جلد' آب وتاب
آب باز	Aab baz	ف	پانی میں تیرنے والا' پیراک
آبتین	Aabteen	ف	فریدون کے باپ کا نام
آبلوچ	Abloch	اُف	مصری' قند' مٹھائی
آبادی	Abadi	ا	خوشی' مسرت' چہل پہل' آرام' رونق' دھوم دھام' قصبہ' بستی' تحریک پاکستان کے نامور رہنما مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی والدہ کا نام آبادی بیگم جو تاریخ میں بی اماں کے نام سے مشہور ہوئیں۔
آتش عناں	Atish Anan	ف	تیز چلنے والا' تیز رو
آتش قدم	Atishqadam	ف	آگ جیسے قدم والا' گرم رو' تیز قدم یا تیز چلنے والا
آتش افروز	Atish Afroze	ف	آگ بھڑکانے والا
آتما	Aatma	اُسندھی	دل' روح' وجود' پیٹ' معدہ' ماتا' محبت
آتیہ	Atia	ف	آنے والی
آتینہ	Atihna	ف	آنے والی

marfat.com
Marfat.com

آثرہ	Asra	ع	بیان کرنا
آثمہ	Asma	ع	قصوروار
آجرہ	Ajra	ع	کام پر لگانے والی' کام پر رکھنے والا
آحاد	Ahaad	ع	احد کی جمع' ایک سے نو تک گنتی' اکائیاں
آخذ	Akhiz	ع	لینے والا' پکڑنے والا
آخربین	Akharbeen	ع	انجام پر نظر رکھنے والا' عاقبت اندیش
آدلہ	Adila	ع	حجت پیش کرنے والی' دلیل دینے والی
آدینہ	Adina	ع	جمعہ
آدھینہ	Adhina	س	فرمانبردار' تابعدار' تابع
آذار	Azaar	ف	چھٹا رومی مہینہ' چیت یا مارچ کا مہینہ
آذر	Aazar	ف	شمسی سال کا نواں مہینہ پوس یا جنوری کے مطابق' آگ
آذینہ	Azina	ف	آرائش و زیبائش' سجاوٹ' زیب و زینت
آذین	Azin	ف	آرائش' سجاوٹ' زینت' زیبائش
آذوقہ	Azooqa	ع	روٹی' نان' کھانا
آراض	Aaraz	ع	تسلی' سکون
آرائندہ	Araindah	ف	سجاوٹ کرنے والی' آرائش کرنے والی' سجانے والی
آرائش	Araish	ف	زیبائش' آراستگی
آرندہ	Aranda	ف	آنے والی۔ پہنچنے والی
آردین	Ardin	ف	امتحان' آزمائش
آریلہ	Arila	یو	سونے کی مانند' سنہری
آرولہ	Aroola	یو	سونے جیسی' سنہری' گولڈن
آروین	Aarveen	ف	امتحان' آزمائش' تجربہ
آرسہ	Arsa	ع	

marfat.com
Marfat.com

آراء	Ara	ف	خوبصورت' حسین وجمیل' ایک نام شمیم آراء
آرام	Aram	ف	راحت' چین' سکھ' آرام' سکون
آرزو	Arzoo	ع	خواہش' تمنا' آس' امید' چاہت
آرلین	Arlin	ک	اقرار' عہد' وعدہ
آرسی	Arsee	ع	آئینہ' شیشہ
آربل	Arbel	ہ	عمر' حیات' زندگی
آرامش	Aramish	ف	آرام' چین' راحت' سکھ' سکون
آرام جان	Aramjan	ف	پیاری' معشوق' دل کو بھانے والی
آزالہ	Aazala	ع	مند کرنے والی
آزبک	Aazbak	ف	رئیس' خودمختار' نیز ترکوں کے ایک قبیلے کا نام
آزلہ	Azla	ع	روکنے والی' باز رکھنے والی' منع کرنے والی
آزمہ	Aazma	ع	نزدیک ہونے والی
آزفہ	Azfa	ع	نزدیک ہونے والی' قریب ہونے والی' پاس ہونے والی
آزرم	Azrem	ف	حیا' شرم' صلح
آژمیر	Aasmeer	ف	چالاک' ہوشیار' مطلع' آگاہ' پرہیزگار
آسائش	Assaish	اُف	راحت' آرام' سکھ' چین
آسغہ	Aasigha	ع	سچ
آسنی	Aasni	اُہ	گھاس کی بنی ہوئی چھوٹی' چٹائی' ریشمی یا اونی کپڑا جس پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں' فقیروں کے بیٹھنے کا بستر
آسودہ	Aasoodah	ف	مطمئن' خوشحال
آسیا	Aasia	اُہ	امید' بھروسہ' امیدوار

marfat.com

Marfat.com

آسیہ	Asya	عبر	ستون' فرعون کی بیوی کا نام جو اہل جنت میں سے ہیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔
آسمہ	Asma	ف	متحیر' حیران' مدہوش
آسرہ	Asrah	اُر	بھروسہ' سہارا' تکیہ
آسہہ	Aasiha	ع	سجاوٹ
آسہ	Asah	عبر	مسیحا
آسیمہ	Asima	ف	حیران' متحیر
آشا	Aasha	اُہ	امید' آرزو' تمنا' خواہش
آشام	Ashaam	ف	پینے والا
آشرہ	Aashra	ع	بیان کرنا' نقل کرنا
آشفتہ	Aashuftah	ف	عاشق' حیران' نیز ایک شاعر کا تخلص
آشکارہ	Ashkara	ف	عیاں' ظاہر' واضح
آشبہ	Ashiba	ع	مانند' مشابہ' ہوبہو' ملتی جلتی
آصف جاہ	Asif jah	ف	اصف کے مرتبے والا' بعض امراء کا لقب
آصفہ	Asifa	ف	قابل وزیر' جمع کرنے والی' اکٹھا کرنے والی
آصفی	Asfi	ف	آصف سے منسوب بامعنی لائق
آصفیہ	Asfia	ف	ضبط کرنے والی' رتبے والی
آغامینا	Aghamaina	ا	بنگالہ کی مینا جس کے منہ سے آغا بہت صاف نکلتا ہے۔ وہ لڑکی جو پیاری پیاری باتیں کرے' خوش آواز
آفرین	Afrin	ف	مبارک' شاباش' مرحبا' تحسین' تعریف
آفروزہ	Afroza	ف	چراغ کی بتی' دیے کی بتی
آفریدہ	Afrida	ف	تخلیق کی ہوئی
آفریدی	Afridy	ف	پٹھانوں کی ایک قوم

marfat.com

Marfat.com

آفدہ	Afda	ع	جلدی کی ہوئی' فوری کیا ہوا
آفاق	Afaq	ع	آسمان کا کنارہ' افق کی جمع' ماوراء النہر کے ایک بادشاہ سلطان مرزا ابوسعید گورگان کی دانشمند بیٹی کا نام آفاق بیگم مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر اس کا بھتیجا تھا۔
آگینہ	Aageena	ع	آئینہ' شیشہ
آلغہ	Aaligha	ع	چاہت' آشنا کرنا
آلفہ	Alfa	ع	پیار کرنا' محبت کرنا' چاہت کرنا
آلدہ	Alda	س	رئیس' دولت مند' امیر
آمنہ	Amna	ع	مطمئن' راست باز' ایماندار' امن و آشتی کا پیغام' محفوظ و مامون' حضور سرور کائنات ﷺ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک
آمرزش	Amerzish	ع	بخشش' معافی' مغفرت
آمرزگاہ	Aamarzgah	ف	بخشنے والا' معاف کرنے والا' مراد اللہ تعالیٰ
آمال	Amaal	ع	امید' آس' توقع
آمغہ	Amgha	ف	سچائی' حقیقت' اصل
آموز	Aamoz	ف	سیکھنے والا' سکھانے والا
آن	Aan	ف	وضع' غرور' شان و شوکت
آنتیہ	Aaneyta	ع	حیران کن
آنیہ	Ania	ف	جانب' طرف
آنقہ	Aanqa	ع	حیرت زدہ
آنکہ	Ankeh	ع	سیسہ
آنکہ	Ankah	ع	حیران' حیرت زدہ' متحیر
آنثر	Anser	ع	کنواری لڑکی
آنثہ	Aansa	ع	عورت' کنواری لڑکی

marfat.com

Marfat.com

آنسہ	Ansa	ع	محبت وچاہت کرنے والی' کنواری لڑکی
آندہ	Aanda	ع	جلدی کیا ہوا
آندریا	Andria	اطا	نسوانیت' نسوانی پن
آنی	Ani	ع	گیارہویں صدی ہجری کی ترکی کے شہر استنبول کی مشہور مصنفہ اور شاعرہ آنی فاطمہ جو علم وادب اور شاعری میں کمال درجہ رکھتی تھیں اس کے خاوند کا نام امیر آغا تھا۔
آونہ	Aaouna	ع	بہت بڑا
آویز	Awaiz	ف	محبت' پیار' چاہت' آمیزش
آویژہ	Awaisa	ع	خالص' پاکیزہ' پاک' اصلی' منزہ
آورا	Awera	لا	صبح کی چمک
آوردہ	Awerda	ف	طفیلی' لائی ہوئی
آہینہ	Ahina	ع	آرائش وزیبائش والی چیز' آئینہ' شیشہ
آہنگ	Aheng	ف	الاپ' سر' آواز
آہویا	Ahuya	ع	ہوا' صبا
آہلہ	Ahla	ع	ماہتاب' چاند' ہلال
آئینہ	Aina	ف	شیشہ
آیملک	Awimalk	ع	قابل ترین' حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کی ہم عصر علم حدیث کی مشہور عالمہ آیملک بی بی۔ آپ آٹھویں صدی ہجری میں ہوئی ہیں۔ اس وقت کے مشہور عالم دین شیخ جمال الدین کی بہن تھیں۔
آئلہ	Aila	ت	خوبصورت' چاند جیسی
آےتن	Aaytan	ت	آفتاب کا چاند
آےتن	Aitun	ت	شام کا چاند

marfat.com
Marfat.com

آرس	Aires	یو	قوس قزح
آرہ	Aira	ت	قابل احترام' قابل عزت' معزز' محترم
آئے تن	Aitan	ت	چاند جیسے بدن والی
آرین	Airain	یو	راحت' چین' صلح' سکون' آرام
آئمہ	Aima	ع	رہبر' رہنما' پیشوا
آیہ رحمت	AayaRahmat	ا' ع	قرآن مجید کی وہ آیت جس میں خدا کی رحمتوں کا ذکر ہے

marfat.com
Marfat.com

الف

ابتسام	Ibtsam	ع	شگفتگی، مسکراہٹ، مسکان
اباریق	Abariq	ع	صراحی، چھاگل
ابرار	Ibrar	ع	نیک لوگ، اچھے لوگ
ابراز	Abraaz	ف	بھید کا کھلنا، راز کا افشا ہونا، ظاہر ہونا
ابریشمینہ	Abreeshmina	ف	ریشم کی چیز
ابرین	Abrin	ف	چھاگل، صراحی
ابلا	Abla		نازک، کامنی، اکیلی، عورت، زن
ابیض	Abyaz	ع	اجلا، سفید
اتہاس	Athass	سندھی	تاریخ، حکایت، روایت، بیان، قصہ، تاریخی نظم
اثیل	Aseel	ف	ذاتی، انفرادی، محکم، بڑے خاندان کا آدمی
اثیمہ	Aseema	ع	گنگار، عاصی
اثینہ	Asina	ع	تعریف، توصیف
اثوہ	Iswah	ع	ٹھہرنا، قیام کرنا، مقیم ہونا
اثنا	Isna	ف	عرصہ، مدت، لمحہ، وقفہ
اثرہ	Asra	ع	نتیجہ، تاثیر
اجمل	Ajmal	ع	نہایت حسین
اجنبی	Ajnabi	ع	پردیسی، غیر دیس کا مسافر، ناآشنا، ناواقف، وہ شخص جس سے جان پہچان نہ ہو، نیا، انجان، جمع اجانب
اجود	Ajwad	ف	دانا، ذی شعور، سخی
اجیہ	Ajeeh	ف	بہت اعلیٰ، بہت عمدہ

marfat.com

Marfat.com

اجلہ	Ajla	ع	بڑے لوگ
اُجالا	Ujala	ار	روشنی، سحر، صبح کی روشنی
اجرہ	Ajrah	ف	انعام، بدلہ، عوض
احتشام	Ehtsham	ع	بزرگی، شوکت
احزم	Ihzam	ع	دور اندیش، نہایت محتاط، ہوشیار
احصفہ	Ahsifah	ع	مضبوطی و پختگی کرنا
احمدی	Ahmedi	ا	سونے کا سکہ، سلطان ٹیپو شہید کے پوتے مرزا نقی علی کی صاحبزادی احمدی بیگم۔ آپ کی شادی بنگال کے مشہور سہروردی خاندان میں ہوئی تھی۔
احمرین	Ahmrin	ع	سرخ رنگت والی، لال رنگ والی
احفصہ	Ahfesa	ع	پکا کرنا، پختگی کرنا، مضبوطی کرنا
احسنت	Ahsanat	ع	شاباش، آفرین، تحسین
احلالہ	Ahlalah	ع	نیا چاند
احلاء	Ahlah	ع	مٹھاس والی، شیریں، میٹھی
احواد	Ahwad	ع	سیاہ آنکھوں والی، خوبصورت، حسین و جمیل، مشتری
احمر	Ahmer	ع	لال، سرخ
احدی	Ahdi	ع	آرام طلب
اختر	Akhter	ف	ستارہ، نصیب، مقدر، مغلیہ خاندان کی ایک مشہور شہزادی اختر محل اختر جو اپنے وقت میں اردو زبان کی مشہور شاعرہ تھی
اختری	Akhtery	ف	ستارہ، نصیبہ
اخمس	Akhmas	ف	بہادر، نڈر آدمی
اخوشی	Akhoshi	ف	خوش و خرم
اخگر	Akhgar	ف	انگارا، چنگاری، جمع اخگریاں

marfat.com

Marfat.com

اخلاق	Akhlaq	ع	اچھی عادت' خصلت
اُخت	Ukht	ع	بہن' علم فقہ کی ایک مشہور عالمہ اخت المزنی جو امام شافعیؒ کے مشہور شاگرد شیخ ابوابراہیم المزنی کی ہمشیرہ تھیں۔
اخرہ	Ukhra	ف	مقدا' ستاط
اِدالہ	Idala	ع	فتح و نصرت' جیت' کامیابی' مال و دولت عطا کرنا
ادا	Ada	ف	ناز نخرہ' ایک نام ادا جعفری
ادلہ	Adlah	ع	مال و دولت' کامیابی' فتح
ادیبہ	Adiba	ع	علم جاننے والی
اذاعت	Azaat	ف	مشہور کرنا' عام کرنا' پھیلانا' نمایاں کرنا
اذعان	Azaan	ف	فرمانبرداری' اطاعت' یقین
اذلہ	Azala	ف	دلائل
اذکہ	Azka	ع	دریا دل' سخی' فیاض' بابرکت
اِذما	Izma	ع	مرتبہ' وقار' عزت' احترام' حق
اذین	Azin	ف	سجاوٹ' آراستگی
اذما	Azma	ع	حق' عزت
اذمہ	Azma	ع	پناہ' عزت' حق
اذکیہ	Azzikea	ع	ہوشیار' زیرک' معاملہ فہم' ذہین' فہیم
اذفیرین	Izfirin	ع	محترم' برگزیدہ' عزت والی
اذیال	Azyal	ع	دامن' ماتحت
ارژنگ	Arsang	ف	قدیم توران کا ایک پہلوان
ارفیہ	Arfia	ع	کسی سے پناہ لینے والی' کسی کی حفاظت میں آنے والی
ارفی	Arfi	ع	کسی سے پناہ لینا' کسی کی پناہ میں آنا
ارغوان	Arghwaan	ف	سرخ اور نارنجی رنگ' ایک سرخ رنگ کے پھول کا نام

marfat.com
Marfat.com

ارسلان	Arsalaan	ف	شیر' الف پر زبر' تحفہ
ارسلہ	Arsala	ع	بھیجنا' ارسال کرنا' روانہ کرنا
اِرینا	Irina	یو	امن' آشتی' صلح
اِرم	Irm	ع	جنت' شداد نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد جو مصنوعی جنت بنائی تھی اس کا نام اس نے اِرم رکھا تھا۔
اردین	Ardin	ف	آزمائش' تجربہ' امتحان
ارونا	Aroona	ع	جلوہ دکھانے والی
اُریدہ	Urida	ع	تمنا کی گئی' چاہی گئی' خواہش کی گئی' آرزو کی گئی
اریحہ	Ariha	ع	ملک شام کے ایک شہر کا نام
اریدہ	Ureedah	ع	چاہی گئی' خواہش کی گئی
اروٰی	Arwa	ع	سیراب کرنا' پانی لگانا
ارصیہ	Arsia	ع	جم کر رہنا' ڈٹے رہنا' مضبوط رہنا
ارشد	Arshad	ع	ہدایت یافتہ' انتہائی نیک
ارشق	Arshaq	ف	قد آور' صاحب عزت
ارشاد	Arshad	ع	ہدایت فرمانا' حکم' کہنا' بات کرنا
اریبہ	Ariba	ع	مشاق' ماہرہ' مہارت رکھنے والی' عقل مند
ارتفی	Artafi	ع	پسندیدہ ہونا
ارجمند	Arjmand	ف	قدر و قیمت والی' عزت والی' معزز' مغل شہنشاہ شاہجہاں کی چہیتی ملکہ ممتاز محل کا اصلی نام ارجمند بانو۔ اس کے والد کا نام آصف جاہ تھا جو ملکہ نور جہاں کا بھائی تھا۔ ارجمند بانو مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی والدہ تھی اس کا مقبرہ آگرہ بھارت میں تاج محل کے نام سے مشہور ہے۔
ارمیہ	Armia	ع	جم کر رہنا

marfat.com
Marfat.com

ارمین	Armin	ت	طاقتور، قوی، مضبوط
ارما	Arma	ٹ	طاقتور، قوی، مضبوط
ارمان	Arman	ف	خواہش، تمنا
ارفعہ	Arfa	ع	عالی مرتبہ، بلند مرتبہ، بلند و بالا
ارجاء	Arja	ع	امیدیں، آس، توقعات
ارابہ	Araba	ف	اسلحہ کی گاڑی، سامان والی گاڑی
ارینا	Areena	یو	صلح، آشتی
اریکہ	Arika	ع	مسہری
ارضہ	Irza	ع	نیک، شریف
ارملہ	Armala	ع	ہوا
ازدین	Azdain	ف	امتحان، آزمائش
ازلغہ	Azalgha	ع	رہبر و راہنما
ازلہ	Azalah	ع	تیز رفتار، برق رفتار
ازلی	Azli	اُف	ہمیشہ سے، شروع سے، ابد سے
ازہر	Azher	ع	روشن، منور، چمکدار
ازین	Azin	ع	ادھر
ازل	Azal	ع	اول سے، ہمیشہ، شروع سے، ابتداء سے
ازلفہ	Azlafa	ع	رہبر، رہنما، راستہ دکھانے والی
ازاحت	Azahat	ع	کام کو مکمل کرنا، پایہ تکمیل تک پہنچانا
ازانہ	Azana	ع	سمجھانا
ازاشتہ	Azashita	ف	بلندی
ازعلہ	Azala	ع	شادمان، مسرور، پرمسرت، خوش کرنا
ازلنہ	Azana	ع	سمجھانا

marfat.com

Marfat.com

ازبن	Azban	ع	ادھر
ازبیہ	Azbia	ع	درخت کی جڑ
ازالہ	Azala	ع	بدل‘ ایک طرف کرنا‘ دور کرنا
اِزمہ	Izma	ع	لگام‘ مہار‘ باگ ڈور
ازیر	Azir	ع	بادل کی گرج
ازما	Azma	ع	حق‘ عزت
ازمنہ	Uzmana	ع	زمانے‘ موسم
اژیر	Aseer	ف	تندرست‘ توانا‘ آمادہ
اسنے	Asnee	ت	خواہش‘ آرزو
اسماء	Asma	ع	بہت سے نام‘ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی بھتیجی حضرت اسماء بنت عبدالرحمٰنؓ آپ علم و فضل میں کمال درجہ رکھتی تھیں۔
اسمی	Ismi	ع	اسم کے متعلق‘ نام کے متعلق‘ اسمدار‘ نام بنام
استلہ	Astala	ت	ستارے‘ انجم
اُسوہ	Uswah	ع	نظیر‘ نمونہ‘ ثانی‘ مثل
اسرہ	Asrah	ع	شیرنی
اسرار	Israar	ع	بھید‘ راز
اسکندر	Eskandr	ف	مشہور یونانی فاتح‘ سکندر اعظم
اسکلدان	Askaldan	ت	باعزت‘ اچھی نسل
استے	Astay	ت	چاہنا‘ خواہش
اِسمی	Ismi	ع	نام
اسعد	Asad	ع	نیک بخت‘ صالح
اسالہ	Asala	ع	کسی کی ضرورت پوری کرنا
اِستے	Istay	ت	تمنا‘ خواہش‘ آرزو‘ چاہت

marfat.com
Marfat.com

اسدہ	Asda	ع	شیرنی
اسمر	Asmer	ع	گندمی رنگ والی
اسلوب	Asloob	ع	طرز' طریقہ
اسوہ	Uswah	ع	نمونہ' مثل
اسوہ	Aswah	ع	روشن' منور' چال
اسحارہ	Ashara	ع	سحر کی جمع' صبح کی جمع
اسیاف	Isyaf	ع	سیف کی جمع' تلواریں
اسیف	Aseef	ف	تابعدار' فرمانبردار' حکم ماننے والا
اشتیاق	Ishtiaq	ع	شوق' آرزو
اشجع	Ashja	ع	نڈر و دلیر' بہت بہادر
اشفاق	Ishfaq	ع	مہربانی' محبت
اشرف	Ashraf	ع	بہت بزرگ' ایک نام اشرف سلطانہ
اشک	Ashk	ت	نور' روشنی' چمک
اشنہ	Ushna	ع	مہک والی' خوشبودار
اشہر	Ishher	ع	زیادہ مشہور و معروف
اشینہ	Asheena	ع	حمد' ثناء' تعریف
اشکہ	Ashkah	ع	جنگل' دشوار' مشکل' محال
اشعہ	Ashey	ع	روشنی' چمک' نور' کرن
اصقہ	Asqa	ع	نزدیک کرنا' قریب کرنا' پاس کرنا' چپکانا' لگانا
اصفر	Asfar	ع	پیلا رنگ' زرد رنگ
اصفہ	Asfa	ع	خوشبو' چمک
اصلکان	Aslaqan	ت	معزز' عزت دار' اصیل' نیک' شریف
اصغری	Asghari	ع	چھوٹی

marfat.com
Marfat.com

اصغیر	Asgheer	ع	برگزیدہ لوگ
اصغیہ	Asghia	ع	برگزیدہ لوگ' پرہیزگار لوگ
اصابت	Asabat	ع	پختگی' مضبوطی' درست بات کہنا
اصفیہ	Asfia	ع	معزز لوگ' باعزت لوگ' برگزیدہ
اصناف	Asnaf	ع	اقسام' انواع
اصداف	Asdaf	ع	سیپیاں
اصبح	Asbah	ع	صبح سویرے' خوبصورت' حسین وجمیل
اضبا	Azba	ع	ہاتھ سے پکڑے رکھنا' تھامے رکھنا
اطروبہ	Atrooba	ع	خوشبودار' مہک والی' سر' راگ' الاپ' ساز
اطرویہ	Atrvia	ع	مہک والی شے
اطروجہ	Atroojah	ع	خوشبو والی
اطرہ	Atra	ع	خم دینا' پلٹا دینا' موڑنا
اطلحہ	Atalha	ع	ستارے کا طلوع
اطلعہ	Atlah	ع	ستارے کا نمودار ہونا
اطالہ	Atalah	ف	لمبی' طویل' دراز
اطیب	Ateeb	ف	بہت خوب' بہت خوشبودار' بہت پاک صاف
اطیمہ	Ateemah	ع	چولہا' پکانے کی جگہ
اطمہ	Atmah	ع	قلعوں کو بلند کرنا
اطحہ	Atha	ع	زمین کا پھیلاؤ' پھیلی ہوئی زمین
اطارت	Atarat	ف	اونچا اڑانا

marfat.com
Marfat.com

اطہرہ	Athera	ع	پاکیزہ' خلیفہ محمد اول بن عبدالرحمن والئی اندلس کی ملکہ کا نام جو بڑی نیک اور عالمہ فاضلہ تھی۔ اس کے انتقال پر اس کے بیٹے نے اس کے لیے ایک عالی شان مقبرہ القصر رصافہ میں تعمیر کروایا۔
اظفار	Azfar	ا' ع	کامیاب کرنا' ظفر کی جمع' کامیابیاں و کامرانیاں
اعراس	Araas	ف	شادمانی' خوشی' مسرت' رضامندی' آمادگی
اعجاز	Ijaz	ع	کرامت' معجزہ' مرتبہ
اعزالنساء	Azannisa	ع	باعزت خاتون' عزیز خاتون' بلند مرتبہ خاتون' مغل شہنشاہ شاہجہاں کی ملکہ اکبرآبادی محل کا اصل نام اعزالنساء بیگم۔ نہایت دیندار تھی۔ فیض بازار دہلی بھارت میں واقع مشہور مسجد اکبرآبادی اس نے اسی زمانہ میں ڈیڑھ لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کرائی تھی۔
اعتلہ	Itla	ع	اونچائی' بلندی
اعزاز	Atazaaz	ف	خوبی' عزیز' پھیلاؤ
اعتماد	Aitmad	ع	اعتبار' بھروسہ' اشبیلیہ کے مشہور مسلمان حکمران المعتمد علی اللہ کی ملکہ کا نام اعتماد رامقیہ۔ یہ اسپین کے علاقہ بلدہ رملقہ کی رہنے والی تھی۔ اپنے وقت کی مشہور ادیبہ عالمہ اور فاضلہ تھی۔
اعتلہ	Aatlah	ع	بلندی اونچائی
افتخار	Iftikhar	ع	فخر کرنا
افتریشم	Afterasham	ف	ریشم کی مانند
افریشم	Afrasham	ف	ریشم
افسیہ	Afsia	ع	خیال' قیاس' شائبہ' سوچ' تصور
افزاء	Afza	ف	بڑھانے والا
افسوں	Afsoon	ف	جادو' سحر

marfat.com
Marfat.com

افرازدیہ	Afrazdia	ف	بلند کیا ہوا' چوٹی
افرازیدہ	Afrazida	ف	اونچا کیا ہوا' بلند کیا ہوا
افق	Ufaq	ع	وہ جگہ جہاں آسمان اور زمین ملتے نظر آتے ہیں
افراح	Afrah	ف	خوش کرنا' راضی کرنا' شادی کرنا
افشین	Afshin	ف	افشاں سے آراستہ' سنہرا
افضل	Afzal	ع	بہت فضیلت رکھنے والی' نہایت بزرگ' سب سے اچھا
افضہ	Afza	ع	راز' بھید
افضاء	Afza	ع	وسیع جگہ' کھلی جگہ' کشادہ جگہ' بھید بتانا' صحرا میں جانا
افضیہ	Afzia	ع	نہایت فراخ' کھلی' انتہائی کشادہ
افراشتہ	Afrashta	ف	بلند کیا ہوا' اونچا کیا ہوا
افمر	Afmar	ف	تاج
افسر	Afser	ف	شاہی کلاہ' اونچا کیا ہوا
افشاندہ	Afshanda	ف	چمکدار' چمکیلا' چھڑکا ہوا
افرازندہ	Afrazenda	ف	اونچا کرنے والی' بلند کرنے والی
افرحہ	Afrah	ف	راضی کرنا' خوش کرنا
افزون	Afzoon	ف	اضافہ ہونا' بڑھنا' پھلنا پھولنا
افروز	Afroz	ف	تاباں۔ درخشاں۔ روشن۔ منور
افشاں	Afshan	ف	ابرق' سنہرا' بکھیرنا
افشاء	Afsha	ع	آشکارا کرنا' عیاں کرنا' ظاہر کرنا
افرہ	Afra	ف	ماہر' کھلا ہوا
افروزہ	Afroza	ف	روشن کیا ہوا' چراغ کی بتی
افادہ	Afadah	ع	نفع پہنچانا' فائدہ پہنچانا
افاضہ	Afazah	ع	فیض پہنچانا' فائدہ پہنچانا' نفع پہنچانا

marfat.com
Marfat.com

افگن	Afgan	ف	ڈالنے والا' گرادینے والا
افلاح	Iflah	ع	کامیاب وکامران ہونا' نیکی کرنا' بھلائی کرنا
افروختہ	Afrokhtah	ف	روشن' منور' تاباں
افیہ	Afia	ع	قیاس' سوچ
اقبال	Iqbal	ع	کامیابی وکامرانی' خوش نصیبی' خوش قسمتی
اقتدار	Iqtidaar	ع	قدرت' طاقت
اقسیر	Aqseer	ع	سوچ وبچار
اقسیہ	Aqseah	ع	انتہائی فراخ
اقمر	Aqmer	ع	چاند جیسے چہرے والی' نہایت روشن' بہت مفید
اقالہ	Iqala	ع	بخشش چاہنا' معافی طلب کرنا
اقراء	Iqra	ع	پڑھ
اقدم	Iqdam	ع	بہت مقدم' اول' سب سے پہلا
اقلیم	Aqleem	ف	کرہ زمین کا ایک حصہ
اقصیٰ	Aqsa	ع	انتہا' بعید' کنارہ' سرا
اقرار	Iqrar	ع	تسلیم کرنا' مان لینا' ہاں کرنا
اقدس	Aqdas	ع	پاکیزہ' بہت پاک
اقالہ	Aqalah	ع	معافی چاہنا
اقامت	Iqamat	ع	قائم ہونا' قرار' سکون' ٹھہراؤ
اقامتی	Iqamti	ع	دور' بعید' انتہا' کنارہ
اکرام	Ikraam	ع	بہت بخشنے والا
اکبری	Akbari	ع	بڑی
اکسون	Aksoon	ف	بیش قیمت' ریشمی کپڑا' عمدہ' اعلیٰ
اکادشی	Akadashi		چاند کی گیارہویں تاریخ

hmfi.com
Marfat.com

اکمل	Akmal	ا'ع	بڑا' کامل' نہایت ماہر فن
اکنہ	Aknah	ع	اصل حقیقت معلوم کرنا
الاسلام	Al-Islam	ع	خدا کی اطاعت کرنا' اکثر ناموں کا جزو
الخالق	Alkhaliq	ع	روئی دار قبا جس کا سینہ اور آستینوں کے چاک کھلے ہوتے ہیں
الریدہ	Alreeda	ع	تمنا' آرزو
الف	Alf	ع	ہزار نویں صدی ہجری کی ایک مشہور عالمہ فاضلہ اور محدثہ سیدہ الفؒ۔ آپ کے والد کا نام سید حسام الدینؒ ہے۔ آپ امام حسنؓ کی اولاد میں سے تھیں۔ مشہور بزرگ علامہ جلال الدین سیوطی آپ کو اپنے اساتذہ کرام میں شمار کرتے ہیں۔
الطاف	Altaaf		لطف کی جمع' مہربانیاں' نوازشیں' عنایتیں' شفقتیں
الفہ	Alfah	ع	محبت کرنا' پیار کرنا' چاہت کرنا' مانوس کرنا
النساء	Annisa	ف	خواتین کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے مثلاً قمر النساء لفظی مطلب عورتیں ہے
الگائے	Algaie	ت	نیا مہینہ
المہ	Almaha	ع	پھیلی ہوئی
المیرہ	Almera	ع	شہزادی
الہام	Alhaam	ع	خدا کی طرف سے آئی ہوئی بات
البالہ	Albala	ع	خوشبو کی ڈبیہ' مہک کی ڈبیہ
الجا	Alja	ع	اپنا کام خدا پر چھوڑنا
الجلا	Aljallah	ع	اپنا کام خدا پر چھوڑنا
الغاعیہ	Alghaia	ع	حنا کی کلی
اُلکہ	Ulka	یو	مختی

marfat.com

Marfat.com

الکہ	Alka	ت	وطن، شہر، ملک
الفاعیہ	Alfaiah	ع	حنا کی کلی
الما	Alma	یو	دل خوش کن، دل پسند، دل کو بھانے والی
الماب	Almab	ع	واپس پلٹ آنے کی جگہ
الویہ	Alwaya	ع	پرچم، جھنڈے، علم
الواز	Alwaz	ف	چمک، نور، روشنی
الیہ	Almia	ع	چولہا
المیرہ	Almira	ع	بادشاہ کی بیٹی، شہزادی، عالی وقار
الماء	Almah	ع	محبوب، پیارا
الماش	Almash	ع	خصلت، طبیعت، عادت، نفس، نرم زمین
الکائے	Alkai	ت	نیا مہینہ
الفت	Ulfat	ع	محبت، دوستی، پیار، چاہت
السا	Ilsa	عبر	رب تعالیٰ کی نذر کی ہوئی
السکہ	Alsika	یو	محتنی
الماس	Almas	ف	ہیرا، قیمتی پتھر
الینا	Alina	ا۔س	حسین، خوبصورت
الونا	Alwana	ہ	بے نمک
الوینا	Alvina	ا۔س	محبوب، پیاری
الوہ	Alwa	لا	سفید، گوری، چٹی، خوبصورت
الماظ	Ialmaz	ع	چکھنے کی چیز
الما	Alma	لا	محبت رکھنا، پیار رکھنا، عزیز رکھنا
البہار	Albahar	ف	رونق، خوشی، لطف، پھول کھلنے کا موسم
التفات	Altifaat		متوجہ ہونا مائل ہونا

marfat.com

Marfat.com

التماس	Altamas	ع	عرض کرنا
اُمید	Umid	ف	آس' آرزو' توقع
امالہ	Imala	ع	متوجہ کرنا' مائل کرنا
امانت	Amanat	ا'ع	سپرد کی ہوئی چیز' تحویل امین کا عہد
امیمہ	Amima	ع	ہدایت دینے والی' رہنمائی کرنے والی' سیدھی راہ دکھانے والی' حضور سرورِ کائنات ﷺ کی سگی پھوپھی کا نام۔
اُمہانی	Umhani	ع	خوش مسرور' پر مسرت ماں' خادم کی والدہ' حضرت علیؓ کی سگی بہن کا نام۔
امیرہ	Amira	ع	مالدار عورت' امیر' دولت مند' رئیس
امرین	Amreen	ع	لال رنگ والی
امرحہ	Amrah	ع	شادمانی' مسرت' خوشی
ام النجوم	Umulnajoom	عع	کہکشاں' روشن ستارہ
امل	Amal	ع	امید' آس' توقع
املاء	Imlaa	ع	شیریں
امیرا	Amira		(امیر سے) دولت مند' متمول' رئیس' بڑا آدمی
امیر	Ameer	ع	سردار' حاکم
امینہ	Amina	ع	امانت دار' امین
امرہ	Amrah	ع	ہدایت دینا' حکم دینا
املہ	Amla	ع	امید' توقع' آس
امثلہ	Amsala	ع	کسی کے مثل بنانا

marfat.com
Marfat.com

امامہ	Amama	ع	ہادی' پیشوا' رہنما' حضور سرور کائنات ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کی صاحبزادی امامہ بنت ابوالعاص بن الربیع۔ آپ کی شادی حضرت فاطمہؓ کی وصیت کے مطابق حضرت فاطمہؓ کے وصال کے بعد حضرت علیؓ سے ہوئی۔
امانہ	Amana	ع	وفاداری' حفاظت' پناہ
امروزیہ	Amrozia	ف	آج کی عورت
امنہ	Umna	ع	سعادت مند' اقبال مند' خوش قسمت
امتہ	Amta	ع	باندی' کنیز' اندلس کی مشہور مسلمان شاعرہ امتہ العزیز جو حضرت علیؓ کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ پانچویں صدی ہجری میں گزری ہیں۔
اُم	Umm	ع	ماں' حضرت امیر معاویہؓ کے دور حکومت کی ندر اور بے باک خاتون ام الخیر بنت حریش بن سراقۃ البارقی۔ آپ جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھیں۔ کوفہ میں رہتی تھیں۔
امداد	Imdad	ع	مدد کرنا
امجہ	Amaja	ع	رہبر
امیہ	Umia	ع	مادرانہ
امنگ	Umang	ف	شوق' ولولہ' آرزو
امندہ	Umanda	لا	پیار کے قابل' محبت کے لائق
امانی	Umani	ار	آرزوئیں' مرادیں' امنگیں
امتثال	Imtisal	ا۔ع	تابعداری' فرمانبرداری
امبر	Amber	ہ	بادل' نیلا آسمان
امکنہ	Amkana	ع	مکانات
امتیاز	Imtiaz	ع	تمیز کرنا' فرق کرنا' پرکھنا

marfat.com
Marfat.com

انا	Ana	ع	عقل، سمجھ، شعور، دانش
انابت	Anabat	ع	توبہ، عاجزی، انکساری، اللہ کی طرف مائل ہونا
اناہید	Anaheed		زہرہ ستارہ، ناہید
انجب	Anjab	ع	بڑا شریف، لونڈی بچہ
انجیلنا	Anjilna	ی	فرشتے کی طرح معصوم
انجیل	Anjil	ا ع	مژدہ، خوشخبری، عیسائیوں کی مقدس کتاب، جمع اناجیل
انجلینا	Anjalina	یو	پاکیزہ، پاک، معصوم
انزیلہ	Anzila	ع	آمد ہونا، نازل ہونا، نزول
انچار	Anchar	ع	حاجت پوری کرنا، مقصد پورا کرنا، مطلب پورا کرنا
انتسام	Antsaam	ف	خوشبودار ہونا، مہک ہونا، خوشبو محسوس کرنا
انتخاب	Intikhab	ع	منتخب کرنا، چننا، پرکھنا، پسند کرنا
انتہا	Inteha	عبر	دلربا، دل کو بھانے والی
انتی	Anti	اہ	کان میں پہننے کا عورتوں کا ایک زیور
انظام	Anzaam	ف	آراستہ کرنا، ترتیب دینا، آرائش کرنا
انیفہ	Aneefa	ع	نایاب، خوش آئندہ
انیم	Aneem	ف	خلقت، مخلوقات
انیا	Ania	یو	پاکیزہ، خالص
انیس	Anees	ع	پیار کرنے والی، محبت کرنے والی
انوار	Anwaar	ع	روشنی، اجالے
انواز	Anwaz	ف	چمک، روشنی
انوپ	Anop		انوکھا، نادر، عجیب وغریب
انورا	Anwera	عبر	خوبصورت، حسین، شفیق، رحم دل
انورہ	Anoora	و	روشن کرنے والی، منور کرنے والی

marfat.com
Marfat.com

انوش	Anoosh	ف	پرمسرت' خوش وخرم
آنگبین	Angbeen	ف	شہد
انیتا	Anita	عبر	حسین' خوبصورت' دل پسند' دل کو بھانے والی
انسیہ	Ansia	ع	الفت' پیار' محبت
انوشہ	Anoosha	ف	پرمسرت' خوش وخرم' شادمان
انیقہ	Aneeqa	ع	خوش آئند' قیمتی' خوب' نادرونایاب
انیسہ	Anisa	ع	مونس' غم خوار' ہمدرد
انجم	Anjam	ع	ستارے
انشراح	Ansharah	ع	سرور' خوشی' خرماں' مسرت
انجمن	Anjaman	ع	محفل' بزم
انتظار	Intizar	ع	راہ دیکھنا' راستہ تکنا
انیلا	Anila	ہ	ناواقف' نادان' ناتجربہ
انعام	Inaam	ع	بخشش' انعام
انعامیہ	Inamia	ع	حنائی کلی
انمول	Anmol		بے بہا' بہت قیمتی' جس کی کوئی قیمت ادا نہ کر سکے
انگبین	Angbeen	ف	شہد
انگہ	Anga	ہ	لباس' مغل شہنشاہ شاہجہاں کو دودھ پلانے والی دائی کا نام۔ اس کا اصلی نام زیب النساء تھا۔ یہ بڑی عبادت گزار دائی تھی۔ دائی انگہ کے نام سے ایک مسجد ریلوے اسٹیشن لاہور کے پلیٹ فارم نمبر 1 کے پاس موجود ہے جبکہ دائی انگہ کا مقبرہ جی ٹی روڈ لاہور پر گلابی باغ بیگم پورہ کے پاس ایک اونچے چبوترے پر واقع ہے۔
انجلا	Injila	ع	صاف ہونا' واضح ہونا' روشن ہونا

marfat.com
Marfat.com

انبساط	Inbisat	ع	خوش وخرم ہونا' کھلنا
انبازی	Inbazi	ف	شراکت' ساتھ
انامل	Anamil	ع	انگلیاں' انگلیوں کے پور
اواب	Awab	ف	استغفار کرنے والا' توبہ کرنے والا
اوزگل	Ozgul	ت	خوبصورت' حسین' یکتا' بے نظیر' بے مثل' لاثانی
اوصاف	Aousaaf	ع	تعریف' صفت
اولیا	Aolia	ع	اللہ تعالیٰ کا مقرب' دوست' دلی شہر کی مشہور عابدہ اور زاہدہ اولیاء بی بی آپ ساتویں صدی ہجری میں گزری ہیں۔ بادشاہ وقت سلطان محمد تغلق آپ کا عقیدت مند تھا۔
اونا	Oona	لا	سچی' راست گو
اوریل	Orial	لا	سنہرا
اوج	Oaj	ا	بلندی' شان' اونچائی
اوجی	Auji	ا	بلندی' بلند اقبال' خوشحال' رفعت
اولہ	Oala	لا	جواہر' سمندری' بیٹی
اہلالہ	Ahlalah	ع	نیا چاند
ایالت	Iyalat	ا' ع	سرداری' پاسبانی
ایاس	Ayaas	ف	ایاز جو سلطان محمود غزنوی کا ترکی غلام تھا
ایرہ	Eira	عبر	دیکھنے والی' احتیاط کرنے والی محتاط
ایضون	Aizon	ع	وہ چیز جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو
ایمن	Aimen	ع	نڈر' بے خوف' مبارک' سیدھے ہاتھ' دائیں ہاتھ
ایمان	Iman	ع	یقین کامل
اینا	Iena	یو	پاک' پاکیزہ' خالص
ایوا	Eva	عبر	زندگی' حیات' زندگانی

marfat.com

Marfat.com

ایسا	Esa	عبر	اللہ کی نذر
ایمی	Aimi	ایس	شفا دینے والی آرام دینے والی
ایواز	Evaz	ف	مزین آراستہ و پیراستہ
ایمل	Aimel	ت	آرزو خواہش امنگ
ایرکن	Aerkun	ت	صبح سویرا
ایراق	Iraaq	ع	کونپل
ایدا	Ida	س	مسرور خوش و خرم
ایجاب	Ijab	ع	قبول کرنا ہاں کرنا حامی بھرنا
ایثاق	Esaaque	ف	پکڑنا مضبوطی سے پکڑنا
ایثار	Isar	ع	قربانی دوسرے کو خوشی دینا ترجیح دینا
ایزاد	Izad	ع	ترقی دینا زیادہ کرنا بڑھانا
ایتلاف	Ibtlaf	ع	محبت پیار چاہت میل ملاپ اتحاد
ایلاف	Elaaf	ف	آپس میں پیار محبت کرنا الفت کرنا
ایلدرم	Eldaram	ف	بجلی برق

marfat.com
Marfat.com

ب

باجرہ	Bajrah	ع	آنکھوں والی
باجی	Baji	ات	آپا' بڑی بہن' ہمشیرہ
باخ	Baakh	ف	راستہ' راہ' طریق' باٹ
باختر	Bakhtar	ف	مشرق' مغرب کا ایک علاقہ جو کوہ ہندوکش اور دریا کے درمیان واقع ہے
باخویش	Bakhavish	ف	پانی میں غوطہ لگانا' اپنے آپ پر مشغول ہونا' تنہائی' خلوت
باد	Baad	ف	ہوا
بادپا	Badpa	ف	ہوا کے پاؤں والا' تیز رفتار گھوڑا' تیز رفتار نام' جو یوسف علیہ السلام کی ہدایت سے معرفت کے درجہ کو پہنچی
بادر	Badar	ف	بزدل' ڈرپوک' چالاک
بادصبا	Bad-e-Saba	ف	صبح کی ٹھنڈی ہوا جو شمال مشرق کی طرف سے آتی ہے بہشت کی ہوا' نسیم' پروا
بادسیر	Badsair	ف	تیز گھوڑا' معزز شخص
باس	Baas	ف	خوشبو' مہک' علامت' نشانی' بدبو
باستی	Basti	ف	عاجزی' نیازمندی' فروتنی
باسعود	Basaud	ع	نعمت والا' بابرکت' مبارک
باسمہ	Basma	ع	مسکرانے والی' ہنسنے والی
باسقہ	Basqa	ع	سفید بادل' صاف وشفاف
باقیہ	Baqia	ع	قائم رہنے والی
بائمہ	Baima	ف	راگ گانے والی' [illegible] راگ

marfat.com
Marfat.com

بادشاہ	Badsha	ف	حکمران' سردار' فن کتابت کی ماہرہ عالمہ اور شاعرہ بادشاہ بیگم دہلوی' آپ فن طب میں بھی کمال درجہ رکھتی تھیں۔ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو نادر قلم کا خطاب عطا کیا تھا۔
باطیہ	Batia	ع	پیالہ' گلاس' جام
بازخہ	Bazkha	ع	ناز کرنا' فخر کرنا
بازیاب	Bazyaab	ف	پھر پانے والا' دوبارہ حاصل کرنے والا
بازف	Bazaf	ع	ناز کرنا' گھمنڈ کرنا' فخر کرنا' مان کرنا
باصرہ	Basira	ع	دیکھنے والی' آنکھوں والی' بینائی والی' بصارت والی
باترہ	Batra	ع	شمشیر' تلوار
بابک	Babak	ف	آئین' دستور
باپیزان	Babizan	ف	ضامن' پنکھا
بابرہ	Babra	ت	شیرنی' مشہور پاکستانی اداکارہ بابرہ شریف
بادِرہ	Badira	ف	ہوشیار' چالاک' دوڑنے والی' بھاگنے والی
باندی	Bandi	اُ ہ	لونڈی' کنیز' چھوکری
بانکی	Banki	ہ	رنگ رنگیلی' چھیل چھبیلی
بانو	Bano	ف	خاتون' بیگم' زوجہ' امام حسینؓ کی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی شہ بانوؒ۔ آپ کا مزار مبارک تہران کے نزدیک ایک اونچ پہاڑی پر واقع ہے۔
بازک	Bazak	ف	باشہ' باز کی قسم کا ایک چھوٹا شکاری پرندہ جو چڑیوں وغیرہ ک شکار کرتا ہے
بازکشا	Baz kusha	ف	قوت متمیزہ انسانی یعنی انسان کی اس قوت کا نام جس سے و تمیز کرتا ہے
بازغ	Bazigh	ع	چمکتا ہوا' روشن' طلوع ہونے والا

marfat.com
Marfat.com

بازغہ	Basgha	ع	روشن' منور' چمکدار
باذلہ	Bazla	ع	دریادل' سخی' فیاض' مال و دولت
بادی	Badi	ع	ظاہر' عیاں' آغاز کرنے والا' لاہور کے مشہور بزرگ حضرت میاں میرؒ کی ہمشیرہ حضرت بادی بی بیؒ۔ آپ کی قبر مبارک لاہور میں ہے۔
بادیہ	Badia	ف	بڑا پیالہ' بڑا کٹورا' مشک
باسلہ	Basala	ع	لڑائی میں حملہ کرنا' س کے اوپر زبر
باسلہ	Basila	ع	شجاع' دلیر' جری' نڈر' بہادر' س کے نیچے زیر
باسلیق	Basleeq	ا'یو	ایک رگ کا نام جو دل اور جگر سے ہوتی ہوئی ہاتھ تک آتی ہے
باشد	Bashid	ف	ہو' ہوا کرے' کچھ بھی ہو' پرواہ نہیں
باشہ	Basha	ف	ایک شکاری پرندے کا نام
بائمہ	Baima	ف	راگ سنانے والی' راگ
باسنا	Basna	ہ	مہک' خوشبو
باسطہ	Basita	ع	فراخی دینے والی' وسعت دینے والی
بادلہ	Badla	ا	سونے چاندی کا تار' زربفت
بالمرہ	Balmarah	ف	بالکل' ہمیشہ' ایک ہی دفعہ
بالیدہ	Balida	ف	خوش' بڑھا ہوا' نمودار' روئیدہ' جوش سے پر
بانہ	Bana	ع	ایک خوش وضع درخت
باکرہ	Bakrah	ا'ع	دوشیزہ' کنواری لڑکی
باگھن	Baghan	ا'ہ	چیتے کی مادہ' شیرنی
باگیسری	Bagheesry	ا'ہ	ایک راگنی
بافندہ	Bafindah	ف	بُننے والا' بُنانے والا' جولاہا

marfat.com

Marfat.com

بافتہ	Bafta	ف	ریشمی کپڑا
بارک اللہ	Barik Allah	ع	اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے
بارندہ	Barinda	ف	برسنے والا
بارہ	Barrah	ع	کسی سے مہربانی کا برتاؤ کرنا
باردہ	Bardah	ع	مالِ غنیمت
بارقہ	Barqa	ع	تلوار، شمشیر، چمکنے والی چمک
باریہ	Baria	ع	بڑا پیالہ
باداش	Badash	ف	پاداش، نیکی کا بدلہ، جزا، مکافات
بادامہ	Badama	ف	ایک قسم کا ریشمی کپڑا
ببئی	Babaie	اُرد	ایک خوشبودار بوٹی کا نام
ببی	Babbi	اُرد	بوسہ، چوما، پیار
بتعرل	Bitaral	ع	کنواری، عفت تاب
بتول	Batool	ع	عفت مآب، کنواری، قابل، لائق، حضرت فاطمۃ الزہرہؓ کا لقب اور حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا لقب۔
بتولہ	Batoola	ع	کنواری، دنیا ترک کرنے والی، دنیا کو خیر باد کہنے والی
بتیر	Battir	ع	زیادہ، کافی، بہت
بتیاز	Battyaz	ف	محنت، شفقت
بجلی	Bajli	اُر	برق، روشنی، چمک
بجلہ	Bajla	ع	آسودہ ہونا، خوشحال ہونا
بخاری	Bukhari	ف	شہر بخارا سے منسوب، بخارا کا باشندہ، احادیث نبویہ کی ایک مشہور کتاب جو اپنے مولف بخاری کے نام سے موسوم ہے نیز بیٹر

marfat.com
Marfat.com

بختیہ	Bakhtia	ف	قسمت والی' مصر کی مشہور عبادت گزار بی بی بختیہ۔ حضرت علیؓ کی اولاد میں سے تھیں۔ چودھویں صدی ہجری میں گزری ہیں۔ آپ نے مصر کے قصبہ مطیعہ میں ایک عالی شان مسجد تعمیر کروائی جو آج بھی موجود ہے۔
بختاور	Bakhtawer	ع	خوش قسمت' خوش نصیب' مقدر والی
بخت یار	Bakht yar	ف	خوش نصیب' نصیبے والا' اقبال مند
بخت رسا	Bakhtrasa	ف	اقبال مندی' خوش نصیبی
بخت	Bakht	ف	قسمت' اقبال' مقدر' نصیب
بخدن	Bakhdan	ع	نرم و نازک جسم والی لڑکی
بخش	Bukhsh	ف	رنگ رلیاں' تماشے' نصیب' ٹکڑا' جزو' اکثر ناموں کا جزو
بداح	Badah	ع	فراخ زمین' نرم اور فراخ زمین
بداغ	Badagh	ع	ٹہنی' شاخ' تلوار
بدخشی	Badkhashi	ف	بدخشانی' شہر بدخشاں سے منسوب
بدریہ	Badria	ع	چاند' ماہتاب' قمر
بدرہ	Badra	ع	محترمہ بیگم
بدھی	Budhee	اہ	عقل' فہم' دانائی' سمجھ
بدیا	Baddia	اہ	واقفیت' علم' ہنر' چالاکی' دھوکہ' چال' علم کی دیوی' جادو
بدیر	Badeer	ع	ظاہر
بدیہ	Badia	ع	عیاں' ظاہر' آشکارا' فوری' برجستہ
بدیہی	Badehi	ع	وہ بات جس میں حاجت کی ضرورت نہ ہو' ظاہر' روشن
بدرقہ	Babraqa	ع	رہنما' رہبر' راستہ دکھانے والی
بدرغ	Badragh	ع	شاخ' ٹہنی

marfat.com

Marfat.com

بدر	Badr	ع	چودھویں کا چاند، مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی تیسری بیٹی شہزادی بدرالنساء جو قرآن پاک کی حافظ اور علم و فضل والی تھی۔ نہایت نیک سیرت تھی۔ چوبیس برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔
بدور	Badoor	ع	چاند، بدر کی جمع
بدیعہ	Badia	ع	عجیب، نادر، انوکھی۔ مکہ مکرمہ کی رہنے والی مشہور عابدہ زاہدہ بدیعۃ الحیبہ آپ دسویں صدی ہجری میں گزری ہیں۔
بذلہ	Bazla	ع	انعام، بخشش
بذلہ	Bazla	ف	مزاح، لطیفہ
بذل	Bazl	ع	سخاوت، انعام، بخشش کرنا
بذول	Bazool	ع	بہت سخاوت کرنے والا، بہت خرچ کرنے والا
برار	Barar	ف	پورا کرنے والا، لے جانے والا
برازیہ	Brazia	ع	جنگل، اوسر زمین
بردبار	Burdbar	ف	سہنے والا، حلیم، متحمل
بربہ	Barbah	ع	مخلوق
برخی	Barkhi	ع	شاباش، کلمہ تحسین
برکہ	Burka	ف	سہیل، ستارہ
برجیس	Berjees	ع	مشتری سیارہ
برجیسہ	Berjisa	ع	مشتری، چھوٹے ستارے
برجیہ	Berjiah	ع	مشتری، چھوٹے ستارے
برزم	Barzam	ف	ادا، ناز، نخرہ، کرشمہ
بروگن	Brogan	اُ ہ	فراق زدہ عورت، مہجور عورت
برہون	Barhoon	ف	آرائش، زینت

marfat.com
Marfat.com

بریشم	Barisham	ف	ابریشم' ریشم
برین	Barin	ع	کسم کا بیج
برکت	Barkat	ع	بہتات' کثرت' کرم' فضل' زیادتی' فراوانی' حضرت اسامہ بن زیدؓ کی والدہ کا نام برکت اپنی کنیت ام ایمنؓ سے شہرت پائی۔آپ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی گود میں لے کر پرورش کی تھی۔
برحی	Berhi	ع	شاباش' آفرین' کلمۂ تحسین
برین	Barin	ف	جہان' عالم' دنیا
برکہ	Berka	ع	اونٹ کی کھال سے بننے والا کپڑا' افزائش
بریہ	Baria	ع	تخلیق کی ہوئی' پیدا کی ہوئی' مخلوق
برینا	Barina	ا۔س	شہزادی' بادشاہ کی بیٹی
بریار	Beryar	و	زرخیز' طاقتور' قوی
براہام	Barahaam	ف	ایک نہایت بخیل یہودی کا نام جو بہرام گورنر کے زمانہ میں ہوا
براہین	Brahin	ع	دلائل
بریق	Bariq	ع	روشنی' چمک' نور
بزجہ	Basja	ع	آراستہ کرنا' سجانا' آرائش کرنا
بزمہ	Bazma	ف	محفل' مجلس' بزم
بزم افروز	Bazmafroz	ف	مجلس کو رونق بخشنے والا
بزم آراء	Bazam Ara	ف	شمع محفل
بزحہ	Bazhi	ع	آراستہ کرنا' آراستہ و پیراستہ کرنا' سجانا
بزمی	Bazmi	ف	مجلس والی' محفل والی' محفل

marfat.com
Marfat.com

بزین	Bazeen	ف	چلنے والی ہوا
بزم عالم	Bazm-E-Alam	ف	دنیا کی مجلس' دنیا کی محفل' ترکی کے عثمانی حکمران سلطان محمود خان ثانی کی ملکہ بزم عالم جو بڑی نیک سیرت تھی۔ اس نے قسطنطنیہ میں بہت سے رفاہ عامہ کے کام کئے۔ تیرہویں صدی ہجری کی مشہور خاتون تھیں۔
بزنگ	Basank	ف	تالی' چابی' کنجی
بزوال	Buswaal	ف	صدا' آواز' بازگشت
بزبان	Busbaan	ف	رشد
بساک	Basaak	ف	پھولوں کا تاج جو دولہا کے سر پر رکھا جاتا ہے
بسالت	Basalat	ا'ع	شجاعت' جواں مردی' بہادری' دلیری
بستان افروز	Bastan Afroz	ف	چمن کی رونق میں اضافہ کرنے والا' رونق چمن
بسم اللہ	Bismillah	ع	اللہ تعالیٰ کے نام سے
بسملہ	Basmlah	ع	بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا مخفف
بسمہ	Basma	ع	مسکراہٹ' شگفتگی' تازگی' تبسم
بسلہ	Basla	ع	جائزہ' پرکھ
بسیط	Baseet	ع	فراغ' وسیع' کشادہ
بسیمہ	Basima	ع	مسکرانے والی' تبسم کرنے والی
بشرہ	Bushrah	ع	چہرہ' مکھڑا
بشریٰ	Bushra	ع	خوشخبری' مژدہ
بشیرہ	Bashira	ا	خوشخبری دینے والی' خوشی کی خبر دینے والی
بشمول	Bashmool	ف	شامل کر کے' ساتھ' منسلک
بشمہ	Bashma	ف	ایک بوٹی

marfat.com
Marfat.com

بشاشت	Bishashat	ا'ع	خوش اخلاقی' کشادہ روئی' ب اورش پرزبر
بشارت	Basharat	ع	خوشی کی خبر' خوشخبری
بصارت	Basarat	ا'ہ	نظر' بینائی' آنکھوں کی روشنی
بصراحت	Basrahat	ف	کھلم کھلا وضاحت سے
بصیرت	Basirat	ع	بینائی
بضاعت	Bazaat	ا'ع	پونجی' سرمایہ' دھن' دولت' حصہ
بطرہ	Batrah	ع	شگاف دینا
بطالت	Batalat	ا'ع	بہادری' بے خوفی' دلیری' شجاعت
بطحہ	Batah	ع	کشادہ دل' کھلا دل' فراخ دل
بغازی	Baghazi	ف	مزدوری' اجرت
بغداد	Baghdad	ف	بخت نصر کا بسایا ہوا ایک عراقی شہر' آٹھویں صدی ہجری کی مشہور خاتون بغداد خاتون جو ایران کے ایک خانی مغل حکمرانوں کے عہد کے مشہور امیر الامراء امیر چوپان کی بیٹی تھی
بغیا	Baghia	ا	باغیچہ' چھوٹا باغ
بکیت	Bakeet	ف	سجیلا' بالکا' معشوق
بکارہ	Bakara	ع	کنواری' عرب کے قبیلہ بنو ہلال کی مشہور شاعرہ بکارہ ہلالیہ۔ آپ تابعین میں سے ہیں۔ حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے عہد میں گزری ہیں۔
بکاؤلی	Bakauli		ایک پری کا نام' طشتری' کھانا پکانے کا سامان
بطیہ	Batia	ع	ٹھہرنا' توقف کرنا
بلکاتہ	Balkata	ف	بہت آرزو رکھنے والا' وہ شخص جو بے حد آرزوئیں رکھتا ہو
بلدریہ	Baldria	ع	چاند' قمر' ماہتاب

marfat.com
Marfat.com

بلقیس	Balqis	ع	حسین و جمیل' خوبصورت' شام کے شہر سبا کی ملکہ کا نام جو بڑی خوبصورت تھی۔ آتش پرست تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔
بلبل	Bulbul	ف	ایک خوش آواز پرندے کا نام
بلادہ	Baladeh	ع	شہروالی' مصر کی اپنے وقت کی مشہور خاتون بلادہ جو مصر کے فاطمی حکمرانوں کے عہد کے ایک مشہور وزیر عباس بن ابوالفتوح صنہاجی کی ماں تھی۔ اس نے چھٹی صدی ہجری میں قاہرہ میں ایک نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کرائی۔
بلاول	Bilawal	اُ ہ	رات کو ایک گانے کی راگنی
بلخش	Balakhsh	ا	موتی' زمرد کی طرح کا ایک نگینہ
بلتہ	Balta	ع	تازگی' شگفتگی' نرمی
بلیغہ	Baligh	ع	فصیح و بلیغ' کاملہ' عاقلہ' پوری' مکمل
بلیناس	Balinaas	ف	ایک یونانی حکیم کا نام جو سکندر اعظم کا انیس و جلیس تھا
بناۃ	Binat	ع	لڑکی' بیٹی' ایک صحابی حضرت عبدالرحمٰن بن حیانؓ کی آزاد کردہ لونڈی حضرت بناۃؓ۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت اقدس میں رہنے کا بھی شرف حاصل کیا۔
بندار	Bandaar	ف	مالدار' صاحب ثروت' سرمایہ دار
بندو	Bandoo	ف	بنیاد' نیو' ہر چیز کی اصل
بندیا	Bundia	اُ ہ	بوندی' بندی
بندیلن	Bundelan	اُ ہ	بندیلا کی تانیث' بندیل قوم کی عورت عطر پھلیل بیچنے والی عورت
بنسی	Bunsee	اُ ہ	بانسلی' مرلی' مچھلی پکڑنے کا کانٹا' ڈوری
بنی	Bani	ہ	دلہن' موافقت

marfat.com
Marfat.com

بنیاد	Bunyaad	ف	محنت، شفقت
بنت	Binnat	ع	بیٹی، لڑکی، چھٹی ہجری کی نامور مصنفہ بنت الکنیر یؒ۔
بنی خانم	Bani Khanum	ہ۔ف	دلہن بیگم، بارہویں صدی ہجری کے ایک نواب نجم الدولہ اسحاق خان کی زوجہ محترمہ کا نام بنی خانم۔ نہایت سخی اور فیاض خاتون تھیں۔ ان دنوں پورے ملک میں فیاضی اور سخاوت کا چرچا تھا۔
بوا	Bua	ہ	بہن، آپا، ہمشیرہ
بونیتا	Bonita	لا	اچھی، پیاری، چھوٹی، بھلی
بوستان	Bostaan	ف	باغ، چمن، گلشن، شیخ سعدی کی مشہور کتاب کا نام
بوران	Boran	ع	حسین و جمیل، خلیفہ مامون الرشید کے وزیر حسن بن سہل سرخسی کی پیاری بیٹی کا نام جو بڑی خوبصورت اور دانشمند لڑکی تھی۔ خلیفہ مامون الرشید کے ساتھ شادی ہوئی۔ بغداد میں بہت سے ہسپتال تعمیر کروائے۔ مقبرہ بغداد میں واقع ہے۔
بہین	Bahin	ف	اچھی، بہترین، اعلیٰ
بہلول	Behlool	ف	ایک مشہور بزرگ کا نام، پیشوائے قوم
بہیہ	Bahih	ف	پرنور، منور، روشن، تاباں
بہراض	Behraaz	ف	سرک یاقوت، ہفت رنگ، (سات رنگوں والا) ریشم
بہرگی	Bahergee	ف	دولت، مال، امیر، سرمایہ
بہرہ مند	Bahramand	ف	صاحب قسمت، خوش نصیب، مقدر والی
بہار	Behar	ف	پھول کھلنے کا موسم
بہا گیر	Bahageer	ف	قیمتی شے
بہامین	Bahameen	ف	بہار، فصل بہار
بہاور	Bahawar	ف	گراں قدر، بہت زیادہ قیمتی چیز

marfat.com
Marfat.com

بہاء	Baha	ع	نادر' بیش قیمت' جس پر فخر کیا جائے
بہنام	Behnam	ف	اچھا نام' بہترین نام
بہجت	Bahijt	ف	مسرت' خوشی' سرور' زیبائش' آرائش' حسن
بہشتن	Bahishtan	ف	جنتی' بہشت والی' پانی بھرنے والی
بہرہ ور	Behrawer	ف	خوش نصیب' خوش قسمت' اقبال مند
بیاد	Bayad	ف	بیداری' جاگنا' ہوشیاری
بینا	Beena	ف	عمارت' بلڈنگ
بینا	Bina	ف	دانشمند' عقل مند' سمجھدار' دانا
بیبک	Bibak	ع	اپنے وقت کی مشہور عارفہ و زاہدہ کا نام بیبک بی بی چوتھی صدی ہجری میں مرو شہر میں گزری ہیں۔
بیراگن	Biragan	ہ	فقیر کی بیوی' جوگن' فقیرنی
بیرم	Bairam	ف	جشن' عید
بیربل	Birbal	عبر	قیمتی' نادر' بیش قیمت' زر و جواہر
بینش	Binish	ف	عقلمند' دانشمند' سمجھدار' دانا
بیہ	Biah	ف	باسعادت' بابرکت' مبارک' خجستہ
بیگانی	Bagani	ا	بیگانہ کی تانیث' اجنبی عورت
بیگم	Begam	ت	خاتون' زوجہ' شریف بیوی' نیک عورت۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ترکستان سے ہندوستان آنے والے نواب سیف الدولہ عبدالصمد خان جو کہ لاہور اور ملتان کے نامور گورنر تھے' کی اہلیہ کا نام نواب بیگم جان جو کہ نہایت نیک خاتون تھی لاہور میں محلہ بیگم پورہ اسی کے نام سے منسوب ہے۔
بیلا	Bila	عبر	اللہ تعالیٰ کے نام پر دی ہوئی

marfat.com

Marfat.com

بیلا	Bela	ا	ایک خوشبودار پھول کا نام
بینتیا	Bantia	لا	جس پر اللہ تعالٰی کی رحمت ہو
بے نظیر	Benazir	ع	بے مثل' لاثانی' یکتا
بے نیتا	Baneeta	لا	جس پر خدا کی رحمت ہو
بیگی	Begi	ت	شہزادی' نیک خاتون' اپنے وقت کی ایک مشہور ایرانی شاعرہ کا نام بیگی بی بی جو کہ دسویں صدی ہجری میں گزری ہے۔
بیدا	Beda	ف	میدان
بیدار	Badar	ف	ہوشیار' جاگتا ہوا
بیدل	Baidil	ف	عاشق' دیوانہ' شیفتہ' ناامید نیز ایک شاعر کا تخلص بھی
بیشی	Beshi	ف	زیادتی' فراوانی' افزونی' کثرت
بی بنو	Bebanno	ف	عورتوں کو مخاطب کرنے کا لفظ
بی بی	Bibi	ف	نیک عورت' بیگم' نیک خاتون' امیرزادی
بیجہ	Bija	ف	افغانستان کے شہر ہرات کی رہنے والی ایک مشہور شاعرہ اور ستارہ شناس جو کہ مولانا نورالدین عبدالرحمٰن جامیؒ کی ہم عصر تھی۔ اس نے ہرات میں ایک مسجد بھی بنوائی تھی۔
بیضا	Beiza	ع	روشن' سفید
بیوتی	Bayuti	اَہ	میراث ودرثہ

marfat.com
Marfat.com

پ

پابست	Pabast	ف	مستحکم' مضبوط' گرفتار
پابوس	Paboos	ف	قدم چومنے والا' پاؤں پڑنے والا' قدم بوس' خوشامدی
پامر	Pamar	ف	ثابت قدم' مستقل مزاج' باہمت' مددگار' معاون
پاملہ	Pamila	ف	آسودگی' خوشحالی
پاموز	Pamoz	ف	وہ پرندے جن کے پاؤں کو پروں نے ڈھک رکھا ہو
پاستان	Pastaan	ف	پرانا' قدیم' گزرا ہوا
پاسخ	Pasakh	ف	جواب
پاشنہ	Pashna	ع	پیچھے' عقب
پارا	Para	ا	سیماب' بے قراری
پاربنی	Parbani	ا(قدیم)	چوٹی' سرا
پارسا	Parsa	ف	تیر ابرس' تیورس' بنک
پارکھی	Parkhi	ہ	پرکھنے والا' جوہرشناس
پارنج	Paranj	ف	انعام' صلہ' قاصد' شاعر اور مطرب کا انعام
پارہ	Para	ف	ریزہ' ٹکڑا' حصہ' پارچہ
پاغر	Paghar	ف	وہ ستون جو چھت کو سنبھالنے کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے
پاکدامن	Pakdaman	ف	پاکیزہ دامن' پاک آنچل
پاک زادہ	Pakzada	ف	دھوبی' کپڑے دھونے والا
پاکیزہ	Pakiza	ف	پاک' پاکباز' صاف
پاداش	Padaash	ف	نتیجہ' جزا' بدلہ' عوض' معاوضہ

marfat.com

Marfat.com

پادشاہ	Padshah	ف	سلطان' بادشاہ' کرمان کے ایک بادشاہ قطب الدین محمد کی بیٹی پادشاہ خاتون جو عالمہ فاضلہ اور شاعرہ تھی۔ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک اور دوسری دینی کتب لکھا کرتی تھی۔
پارینہ	Parinah	ف	قدیم' پرانا
پارو	Paro	ف	بڑھیا' تیز برف یا گوبرا کٹھا کرنے کا لکڑی کا پاوڑہ
پارو	Paroo	ف	کشتی کا چپو
پانٹری	Pantree	اُ ہ	خوشبودار پتوں والی ایک بیل' پان کی بیل
پاوار	Pawaar	ف	برقرار' ہمیشہ' باقی' تیز رو گھوڑا
پاڑی	Paeree	ا (قدیم)	بنیاد' نیو
پائلہ	Pailah	ف	پازیب والی' جھانجھر والی
پائندہ	Painda	ف	لافانی' ہمیشہ زندہ رہنے والا' قائم رہنے والا
پائیں	Pain	ف	کنواں
پائیزہ	Paiza	ف	خزاں کا موسم
پارس	Pares	ف	ایک پتھر کا نام
پپنی	Papni	اُ ہ	پلک' مژگان
پرالک	Paralak	ف	جوہردار' فولاد' جوہردار تلوار
پرآور	ParAwar	ف	تیز پرواز' تیز اڑنے والا' تیز رفتار
پراہام	Parahaam	ف	ایک یہودی کا نام جو بہرام گور کے زمانہ میں تھا' فارسی کا ایک پرانا شاعر
پران	Paraan	ف	دم' سانس' روح' جان' معشوق
پرتو	Parto	ف	روشنی' کرن' شعاع' عکس' صدمہ' آسیب

marfat.com
Marfat.com

پرتو پیالہ	Pertupiala	ف	باکردار خاتون' عکس' روشنی' ترکی کے عثمانی حکمران سلطان عبدالعزیز کی والدہ کا نام پرتو پیالہ۔ بڑی نیک سیرت خاتون تھی۔ اس نے قسطنطنیہ میں کئی مساجد اور شفاخانے تعمیر کروائے۔ تیرہویں صدی ہجری میں ترکی کی مشہور ملکہ تھی۔ ملکہ پرتو پیالہ کی قبر قسطنطنیہ کے محلہ آقسرائے میں واقع ہے۔
پرداخ	Pardakh	ف	رونق' جلالی' روحانیت
پائینہ	Paina	ف	آئینہ' آرسی
پالار	Palar	ف	بڑا درخت' بڑا ستون
پالو	Palu	اُ ہ	گھر کا پالا ہوا جانور وحشی کے خلاف
پالیہ	Paliya	ف	کھجور کا درخت' فوجی قواعد
پالین	Pavline	لا	مختصر' چھوٹی
پاروتی	Parwati	ہ	پہاڑ کی بیٹی' درگا' شیو جی کی بیوی کا نام' حضرت آدم کی اہلیہ حضرت حوا
پایاب	Payab	ف	کم گہرا پانی
پایان	Payaan	ف	سرا' آخری کنارا
پایک	Paik	ف	پیک' پیام' ایلچی' سفیر' پیروکار' چٹھی رساں' پیادہ' پیدل
پایل	Paeel	اُ ہ	پازیب' ایک گھونگرو دار زیور جو پاؤں میں پہنا جاتا ہے' پاؤں کے بل پیدا ہونے والا بچہ' تیز رو ہاتھی
پائز	Paiz	ف	سبزہ زار
پائندہ	Paendah	ف	ٹھہرنے والا' قائم رہنے والا
پائندہ	Painda	ف	استوار' قائم
پتلی	Putli	ف	مورت' گڑیا

marfat.com
Marfat.com

پجار	Pujaar	ف	پہاڑ' کوہ
پدرام	Pidraam	ف	خوش وخرم' آراستہ' ہمیشہ' خوابگاہ
پدما	Padma	اُسند	دولت کی دیوی' بنگلہ کا ایک دریا
پدمنی	Padmani	س	نازک خاتون' حسین' خوبصورت
پدید	Padid	ف	نمایاں' عیاں' ظاہر' آشکارا
پذیرہ	Pazira	ف	استقبال' مقبول' قبول
پذیرش	Paziresh	ف	قبولیت' فرمانبرداری' تابعداری
پذیرا	Pazira	ف	مقبول' منظور' پسند
پذیری	Paziri	ف	قبول کرنا
پرطاس	Partaas	ف	زیادہ طاقتور' تاتاریوں کے ایک پہلوان کا نام
پرہ گل	Purah Gull	ف	پھولوں کی قطار
پریا	Parya	ف	(پری سے) جن کی جنس کی عورت جس کے متعلق خیال ہے کہ بال و پر رکھتی ہے' بے حد خوبصورت ہوتی ہے' خوبصورت عورت' محبوب' حسین نازک' اعلیٰ درجے کی
پری درخت	Pridarakht	ف	چین کی شہزادی کا نام جو مام بن زیمان کی بیوی' زال کی ماں اور رستم کی دادی تھی
پریہان	Prihan	ف	پری جیسی خوبصورت عورت
پری	Pari	ف	انتہائی حسین عورت' نہایت خوبصورت عورت
پرواش	Parwash	ف	بے پرواہ' غافل' بے ضرر
پروالہ	Perwala	ف	گیسوؤں والی عورت' بالوں والی
پرنمود	Parnamood	ف	ظاہری نمائش والا
پرنور	Purnoor	ف	نور سے بھرا ہوا' بہت روشن' چمکیلا

marfat.com
Marfat.com

پرنون	Pernoon	ف	نرم ملائم ریشمی کپڑا
پربین	Perbin	ف	عقلمند' دانشمند' ہوشیار' چالاک' زیرک
پرن	Pern	ف	ستارہ' جھمکا
پرویز	Pervaiz	ف	فتح مند' کامیاب' فاتح
پروین	Pervin	ف	ثریا' سات ستاروں کا جھرمٹ
پرم	Parm	ہ	افضل ترین' اول' معشوق' محبت
پرمز	Permiz	ف	امید' انتظار' مگس
پرملا	Permala	ف	پرندہ' مرغابی
پرتاب	Pertab	ف	زور آور' طاقتور' قوی
پرتابی	Partaabi	ف	تیرانداز
پری زاد	Parizad	ف	بہت خوبصورت
پری زادی	Pari Zadi	ف	پری کی بیٹی' پری جیسی' نہایت خوبصورت
پری چہرہ	Parichehra	ف	پری کی شکل جیسی' نہایت خوبصورت' پری جیسا چہرہ
پریما	Prima	لا	پہلی اولاد
پری دخت	Paridukht	ف	نہایت خوبصورت' انتہائی حسین وجمیل
پری گل	Pari Gul	ف	پھولوں کی قطار
پری وش	Pariwash	ف	پری چہرہ' پری کی طرح' نہایت خوبصورت
پری رو	PariRoo	ف	پری پیکر' پری جیسے چہرہ والی' بہت خوبصورت
پژمان	Pusmaan	ف	خواہش' آرزو' امنگ
پژواک	Pezwak	ف	صدا' آواز' گونج
پژوہند	Pazuhend	ف	ڈھونڈنے والا' تلاش کرنے والا
پژہان	Puzhan	ف	آرزو' امنگ' خواہش' چاہت
پریتا	Parita		محبت کرنے والی' محبوب

marfat.com

Marfat.com

پریتی	Pariti	ہ	محبت والی' پیار والی' محبوبہ' پیاری
پکھراج	Pukhraj	ف	ایک قیمتی پتھر
پگاہ	Pagah	ف	سحر' صبح' فجر
پگوئے	Pagoay	ف	آتش پرستوں کا عالم' دانا حکیم
پمبے	Pambay	ت	گلاب کا گلابی رنگ کا پھول
پمرہ	Pemra	ت	گلابی' گلاب جیسے رنگ والی
پنا	Pana	ہ	سبز رنگ کا ایک خوبصورت پتھر' زمرد
پنار	Panar	ت	چشمہ' منبع
پنکی	Pinki		نشہ کی وہ کفیت جو افیم کھانے سے پیدا ہوتی ہے' وہ شخص جو افیم کے نشہ میں مبتلا ہو
پونچی	Punchi	ف	ہمت' حوصلہ' بیجاپور کے پہلے عادل شاہی حکمران یوسف عادل شاہ کی بیوی کا نام پونچی خاتون یہ نویں صدی ہجری میں گزری ہے۔ نہایت عقل منداور دانا مسلمان خاتون تھی۔
پشمینہ	Pashmina	ف	اعلیٰ کوالٹی کا اونی کپڑا
پبی	Pubbie	ا' ہ	ایک خوش آواز پرندہ جسے پوئی بھی کہتے ہیں
پیگانی	Pigani	ف	ایک بیش قیمت پتھر' یاقوت
پیا	Pya	اطا	پارسا' دیندار
پیاری	Piyari	ہ	لاڈلی' اچھی' دل کو بھانے والی
پیمان	Payman	ف	عہد' وعدہ

marfat.com
Marfat.com

ت

تاباں	Taban	ف	چمکدار
تاحین حیات	Taheen Hayat	ف	زندگی بھر' جب تک زندہ رہے
تاشبہ	Tashba	ع	ایک دوسرے سے مل جانا
تاشقین	Tashqeen	ف	ہمدرد
تاشفین	Tashfin	ف	مہربان' بہت سے ہمدرد
تازش	Tazish	ع	بھاگنا' دوڑنا' حملہ کرنا' وار کرنا
تاذین	Tazin	ف	مطلع کرنا' آگاہ کرنا' خبردار کرنا' اطلاع دینا
تالیقہ	Taliqah	ا	اسباب کی فہرست
تالیہ	Talia	ع	تابعدار' مطیع' فرمانبردار' عقب کا حصہ' پچھلا حصہ
تاسیس	Tasis	ع	بنیاد' نیو' جڑ' اساس
تاشفہ	Tashifa	ف	مہربان' ہمدرد
تاثیر	Tasir	ع	نشان' اثر
تاثیل	Taseel	ف	پختہ' طاقت
تاجدار	Tajdar	ف	تاج پہننے والی' بادشاہ
تارزہ	Tarza	ع	قوی' مضبوط' ٹھوس' سخت' پختہ
تاج	Taj	ع	شاہی ٹوپی' حضرت بی بی پاک دامناں میں سے ایک کا نام بی بی تاج۔ مزار اقدس ایمپرس روڈ لاہور میں واقع ہے۔
تانسترہ	Tanstma	ع	قریب ہونا
تانیس	Tanis	ف	پیار' محبت' چاہت' خصلت' سرشت' عادت

marfat.com
Marfat.com

تانر	Taner	ت	طلوع سحر
تاول	Tawal	ہ	جلدی (اتاول کا مخفف)
تاوین	Taveen	ف	اطلاع دینا
تارا	Tara	اُر	ستارہ
تابس	Tabiss	ہ	خسر کے بڑے بھائی کی بیوی
تابش	Tabesh	ف	چمک' گرمی' حرارت
تازہ رُو	TazaRoo	ف	شگفتہ رو' خوش شکل' اچھا چہرہ
تازہ	Taza	ف	نیا' جدید
تاجور	Tajwer	ف	تاج رکھنے والی
تاسمہ	Tasma	ع	نزدیک ہونا' پاس ہونا' قریب ہونا
تاب	Tab	ف	چمک ودمک' رونق' زور' طاقت
تابیدہ	Tabida	ف	چمکیلی' روشن' تاباں' منور
تارفہ	Tarifa	ع	آسودہ حال' خوشحال
تابین	Tabin	ف	ظاہر' عیاں' آشکارا' واضح
تاہب	Tahib	ف	چوکس' ہوشیار
تائبہ	Taiba	ع	گناہوں سے توبہ کرنے والی' منکرات سے توبہ کرنے والی
تارہہ	Tareha	ع	ڈرانا' خوف دلانا
تامرہ	Tamra	ع	کھجوریں رکھنے والی
تانیر	Tanir	ن	طلوع سحر' صبح صادق
تادیب	Tadeeb	اُع	چشم نمائی' ادب سکھانا' علم زبان سکھانا
تادیہ	Tadia	ف	پہنچانا' ادا کرنا
تادین	Tadin	ف	خبردار کرنا' آگاہ کرنا' اطلاع دینا' مطلع کرنا
تابینہ	Tabina	ف	منور کرنے والی' چمکانے والی' روشن کرنے والی

marfat.com
Marfat.com

تابداز	Tabdaz	ف	چمکدار
تابدار	Tabdar	ف	روشن' تاباں' چمکنے والی' چمکیلی
تابندہ	Tabinda	ف	روشن' منور' تاباں' چمکنے والی
تابنہ	Tabna	ف	روشن
تابعہ	Tabay	ع	مطیع' فرمانبردار' اطاعت گزار' تابع
تاربہ	Tarba	ع	دوست ہونا' ساتھی ہونا' رفیق ہونا
تامین	Tamin	ع	حفاظت' پناہ' حمایت' مدد' معاونت
تائین	Tain	ع	کسی کے لئے' خاطر
تانیا	Tania	ر	پریوں کی شہزادی' ننھی پری
تافتہ	Tafta	ع	ریشمی کپڑا' چمکیلا
تازیا	Tanzia	ی	ایک پھول
تاشہ	Tasha	ف	ایک طرح کی دف
تاجیل	Tajil	ف	مہلت دینا' وقت دینا
تابانی	Tabani	ف	چمک' روشنی' نور
تاشین	Tashin	ف	دف بجانے والی
تاشیہ	Tashia	ع	باہم مل جانا
تبدل	Tabdal	ع	یاد رکھنا' پلٹنا' تغیر
تبسم	Tabassam	ع	مسکراہٹ' شگفتگی
تبعہ	Taba	ع	اطاعت گزار' تابعدار' فرمانبردار' ساتھ چلنا' ہمراہ چلنا
تبار	Tabbar	ف	خاندان' ذات' نسل' لوگ
تبارک	Tabarak	ع	برکت والا
تبارکہ	Tabarakah	ع	برکت والی
تباشیر	Tabashir	ف	صبح کاذب کی روشنی

marfat.com

Marfat.com

تبیان	Tabyan	ع	ظاہر کرنا' پرکاش
تبیین	Tabayen	ع	ظاہر کرنا' عیاں کرنا' بیان کرنا
تبشیرہ	Tabshira	ع	خوشخبری دینے والی
تبرج	Tabruj	ع	بناؤ سنگھار کرنا' آرائش کرنا
تبرید	Tabrid	ع	ٹھنڈا کرنا
تپاں	Tapan	ف	گرم' جلتا ہوا' تڑپنے والا
تپیا	Tappssea	ہ	مشقت کی عبادت' سخت ریاضت
تثمر	Tasmar	ف	پھل پانا
تثمیہ	Tasmia	ع	پھرتی' مستعدی
تثنیہ	Tasnia	ع	دگنا کرنا
تشنیہ	Tashnia	ع	دو چیزیں
تثویب	Tasweeb	ع	نماز کے لیے بلایا
تثمیر	Tasmir	ف	پھل حاصل کرنا' فائدہ حاصل کرنا' نفع کرنا' میوہ چننا
تشمیم	Tashmeem	ع	خوشبو آنا
تجاسر	Tajasur	ع	دلیر ہونا' جری ہونا' سوخ ہونا
تجبر	Tajbur	ع	خوشحال اور دولت مند ہونا' مریض کا بحال اور تندرست ہو جانا
تجدید	Tajdeed	ا' ع	ایجاد' اختراع' کایا پلٹ
تجنیس	Tajnees	ا' ع	ہم جنس ہونا' مشابہت' مطابقت
تجعلما	Tajalma	یو	دیکھ بھال کرنے والا
تجمل	Tajjamal	ع	شان و شوکت' رعب و دبدبہ' آرائش و زیبائش
تجمیل	Tajmil	ع	سجاوٹ کرنا' آراستہ و پیراستہ کرنا
تجلی	Tajjali	ع	چمک' نور' روشنی' منور

marfat.com
Marfat.com

تجزیم	Tajzim	ع	عاجز ہونا
تجوید	Tajweed	ع	قرآن پاک کو پڑھنے کا فن
تجویز	Tajweez	ع	روا رکھنا' تدبیر
تحائف	Tahaif	ع	تحفہ کی جمع' سوغاتیں' نذرانے
تحذیف	Tahzeef	ع	سنوارنا' بالوں کا طرہ بنانا
تحمید	Tahmeed	ع	اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا
تحفہ	Tohfa	ف	سوغات' تحفہ" تیسری صدی ہجری میں گزری ہیں۔ مولانا عبدالرحمٰن جامیؒ نے آپ کو اولیاء اللہ میں شمار کیا ہے۔ حضرت سری سقطیؒ کی ہم عصر تھیں۔ حضرت سری سقطیؒ کے ہاتھوں آپ کی تجہیز و تکفین و تدفین انجام پائی۔ قبر مبارک مکہ مکرمہ میں ہے۔
تحکیم	Tahkeem	ا' ع	حاکم بنانا' حکم' طاقت' قوت' ثالثی' پنچایت
تحفگی	Tohfgee	ف	خوبی' عمدگی کے لئے بھی مستعمل ہے
تحفل	Tahfal	ع	آراستہ ہونا' محفل کا بھر جانا' پانی کا جمع ہونا
تحفیظ	Tahfeez	ف	تعریف کرنا' توصیف کرنا
تحلیف	Tahleef	ع	قسم کھانا
تحلیہ	Tahleem	ع	زینت' آرائش
تحسین	Tehsin	ع	توصیف' ستائش' شاباش' آفرین' تعریف
تحصین	Tahsin	ع	پکا کرنا' مضبوط کرنا' پختہ کرنا' پائیدار کرنا
تحشیہ	Tahsiya	ع	حاشیہ لکھنے والی' حاشیہ تحریر کرنے والی
تحصن	Tehsen	ع	نکاح کر لینا' عورت کی پارسائی
تحریم	Tahrim	ف	منع کرنا' روکنا' ممانعت کرنا' بزرگی دینا
تحیت	Tahit	ع	مبارکباد' سلام دعا

marfat.com
Marfat.com

تحریمہ	Tehrima	ع	نماز کی پہلی تکبیر
تحاشی	Tahashi	ع	حاشیہ چڑھانا
تختیم	Takhteem	ع	مہر لگا دینا
تحذہ	Tikhza	ع	حد مقرر کرنا' لینا
تخشل	Takhshal	ع	فروتنی کرنا' عاجزی کرنا
تدبین	Tadbeen	ع	روغن ملنا
تدوین	Tadvin	ع	مرتب کرنا' تالیف کرنا' ترتیب دینا
تدیر	Tadeer	ع	گول' دائرہ
تدین	Tadin	ف	راست بازی' دیانت داری' ایمانداری
تدویر	Tadwir	ع	دائرہ' گول
تذکیر	Tazkeer	أ ع	مذکر ہونا' مرد ہونا' مذکر کا صیغہ
ترپتا	Tarapta	ہ	پیاسی
ترنگ	Tarang	ا	امنگ
ترسیل	Tarseel	ع	بھیجنا' روانہ کرنا
ترکان	Terkan	ف	خانم' بیگم' سلطنت سلجوقیہ کے تیسرے حکمران سلطان ملک شاہ سلجوقی کی بیگم ملکہ ترکان خاتون اس کا شمار اسلام کی نامور خواتین میں ہوتا ہے۔
ترفق	Tarfaq	ع	نرمی کرنا
ترفہ	Terfa	ع	انعام' نعمت' آسودہ حال' خوش وخرم' خوشحال
ترانہ	Terana	ف	گیت' قومی نغمہ
تریاق	Taryaaq	ف	تریاق یعنی زہر کا اثر ضائع کرنے والی دوا' زہرہ مہرہ
ترین	Tarin	ف	سب سے زیادہ' بہت زیادہ
ترنم	Tarannam	ف	گنگنانا' الاپنا' گانا

marfat.com

Marfat.com

ترنیم	Tarneem	ع	اچھی آواز' گانا' آواز کا پھرانا' کبوتر کا آواز کرنا ہر اس چیز کا بولنا جس کی آواز بھلی معلوم ہو' تلاوت قرآن مجید میں خوش الحانی کرنا
ترشین	Tershin	ع	تراشنے والی' کاٹنے والی
ترعہ	Turaa	ع	دروازہ
ترینم	Tarinam	ف	اچھی آواز' پیاری آواز
ترنگ	Tarang	ا	امنگ' موج' لہر
ترن	Tern	ف	گل سیوتی' نسرین کا پھول
ترجب	Tarajjab	ع	احترام کرنا' تعظیم کرنا' عزت کرنا
تزئین	Tazayen	ع	زیب و زینت دینا' سجانا' آراستہ و پیراستہ کرنا
تزین	Tazeen	ع	آراستہ ہونا' مزین ہونا
تزمین	Tezmin	ع	اچھی عادت رکھنے والی' نیک خصلت رکھنے والی
تزمیر	Tazmir	ع	بانسری بجانا
تزکیہ	Tazkia	ع	صاف کرنا' پاک کرنا' منزہ کرنا
تسبیح	Tasbeeh	ع	خدا کی پاکی بیان کرنا
تسحیر	Tasheer	ع	میخ گاڑنا
تسعیف	Taseef	ع	کوئی خوشبودار چیز ملانا
تسوید	Tesweed	ع	لکھنا' تحریر کرنا' رقم کرنا
تسلیم	Tasleem	ع	ماننا' اقرار کرنا' اعتراف کرنا' سونپنا
تسمیت	Tasmeet	ع	دعا کرنا
تسمیر	Tasmir	ع	کیل گاڑنا' میخ گاڑنا
تسمین	Tasmeen	ع	فربہ کرنا' توانا کرنا
تسنیم	Tasnim	ع	جنت کی ایک نہر کا نام

marfat.com

Marfat.com

تسکین	Taskeen	ع	تسلی' آسودگی' چین' اطمینان' راحت' آرام
تسکینہ	Taskina	ف	چین' آرام' راحت' آسودگی
تشمیر	Tashmir	ع	چستی' مستعدی' پھرتی
تشابہ	Tashaba	ع	مشابہت' مماثلت' یکسانیت
تشنہ	Tishna	ف	پیاسی
تشہی	Tashhi	ع	کسی چیز کی چاہت کرنا' خواہش کرنا
تشیم	Tasheem	ع	عادات وخصائل میں اپنے باپ کے مشابہ ہونا
تشبیب	Tashib	ع	غزل
تصبیر	Tasbeer	ع	کسی کو صبر دینا' خوشبو لگانا' لاش میں خوشبو لگا کر سڑنے سے محفوظ رکھنا
تصمید	Tasmid	ع	نیت کرنا' قصد کرنا' ارادہ کرنا
تصدق	Tassadaq	ع	صدقے ہونا' قربانی
تصویر	Taswir	ف	شبیہ' صورت
تصویب	Tasweeb	ف	سچا کہنا' ٹھیک رکھنا
تصور	Tassawer	ف	دھیان' خیال
تضمخ	Tazmikh	ع	خوشبو میں بسنا
تضمیخ	Tazmeekh	ع	خوشبو میں بسنا
تضمین	Tazmin	ع	شامل کرنا' ملانا
تضریم	Tazrim	ع	آگ بگولہ ہونا' غصہ ہونا
تضرہ	Tazrah	ع	ضرورت' حاجت
تطیب	Tatib	ع	خود کو خوشبو میں بسالینا
تظافہ	Tazafa	ف	حاجت روائی کرنا
تعاقد	Taqud	ع	آپس میں عہد و پیمان کرنا

marfat.com
Marfat.com

تعاقل	Taqul	ع	عقل مند بنا' خون بہا اور دیت کو آپس میں بانٹ لینا
تعانق	Tanuq	ع	محبت میں ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالنا
تعدیل	Tadeel	ا' ع	درست کرنا' برابر کرنا' ٹھیک کرنا
تعزید	Tazeed	ع	چڑیوں کا چہچہانا
تعزیر	Tazeer	ع	ملامت کرنا' گوشمالی سزا' تنبیہ
تعزیز	Tazeez	ع	عزت دینا' قوی کرنا' دشوار کرنا
تعزیم	Tazeem	ع	غصہ
تعمیہ	Tamia	ع	راز' معمہ' بھید
تعبیر	Tabeer	ع	خواب کا مطلب بیان کرنا' پار اترنا' دل کی بات بیان کرنا
تعبیہ	Tabia	ع	سجانا' آراستہ کرنا' پیراستہ کرنا
تعمہ	Tamah	ع	بھید' راز
تغرہ	Taghra	ع	ضرورت
تقاحہ	Tafaha	ع	سیر و سیاحت کرنے والی
تفرید	Tafrid	ع	تنہا رکھنا' اکیلا رکھنا
تفوق	Tafoaq	ف	فوقیت' ترجیح
تفہیم	Tafheem	ا' ع	سمجھانا' جمع تفہیمات
تکریم	Takreem	ع	بزرگی' توقیر
تکمنت	Takmanat	ع	قدرت' دبدبہ
تکوین	Takveen	ع	باپید کو عدم سے وجود میں لانا
تقرین	Taqreen	ع	ایک چیز کو دوسری سے ملا دینا
تقاحہ	Tuqaha	ع	سیر کرنے والی' سیاحت کرنے والی
تقی	Taqee	ع	پرہیزگار' پاک صاف

marfat.com

Marfat.com

تقیہ	Taqia	ع	ڈرنا' چھپانا' شام کے شہر دمشق کی مشہور عالمہ اور شاعرہ تقیہ شامیؒ۔ کئی برس تک لوگوں کو حدیث پاک کا درس دیتی رہیں۔ نہایت نیک سیرت اور پاک دامن خاتون تھیں۔ چھٹی صدی ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔
تقدیس	Taqdis	ع	پاکیزگی' پاکی
تقویم	Taqweem	ع	قیمت لگانا' بھاؤ کرنا' سیدھا کرنا
تگنی	Tigni	ف	تین گنا' اوچ شریف کے مشہور بزرگ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشتؒ کے بیٹے مخدوم سید ناصرالدین محمودؒ کی اہلیہ کا نام۔ نہایت نیک کردار خاتون تھیں۔ تگنی بی بی کا مزار اوچ شریف میں ہے۔
تلبیہ	Talbiah	ع	حج میں لبیک کہنا
تلعین	Taleen	ع	تعلیم دینا' ہدایت کرنا
تلوین	Talween	ع	رنگت بدلنا
تلقین	Talqeen	ع	ہدایت کرنا' سمجھانا' تعلیم دینا
تلواسہ	Tilwasa	ف	اضطراب' بے چینی' بے قراری
تلوانہ	Talwana	ف	بے چینی
تلثیم	Talsim	ع	حرمت' تکریم' بوسہ دینا' چومنا
تلویح	Talwih	ع	روشن کرنا' منور کرنا' چمکانا
تلیمان	Taleeman	ف	ایک ایرانی نام
تمیمہ	Tamima	ع	لمبے قد والی' دراز قد' بڑے قد والی
تمدین	Tamdin	ع	خوشحال ہونا' آسودہ حال ہونا
تمرین	Tamrin	ع	دہرانا
تمیم	Tamim	ع	پکا' مضبوط' بڑا' پختہ

marfat.com
Marfat.com

تمابرہ	Tamabra	ع	لڑنا' شک کرنا
تمارہ	Timara	ع	شبہ کرنا' شک کرنا' جھگڑنا' وقت گزارنا' ایک دوسرے کے ساتھ تحمل کر کے گزارہ کرنا
تماصہ	Tamasa	ع	بچا ہوا
تمالا	Tamala	ع	ایک دوسرے کے ساتھ گزارہ کرنا' وقت گزارنا
تمالا	Timala	ع	کھجور کا درخت
تمسین	Tamsin	ع	نام رکھنے والی
تمارا	Tamara	ع	کھجور کا درخت
تملک	Tamelk	ع	ملکیت' مالک ہونا' اپنے وقت کی مشہور عابدہ زاہدہ حضرت تملک کوفیہ۔ طبقات ابن سعد میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔
تمت	Tamat	ع	اختتام
تمنا	Tamanna	ع	آرزو' خواہش' امنگ
تمیز	Tamiz	ع	شعور' شناخت' فرق' پہچان' امتیاز
تمکن	Tamken	ع	قائم ہونا' استوار ہونا
تمکین	Tamkin	ع	رتبہ' مرتبہ' عزت' طاقت' قوت
تمجید	Tamjid	ع	رب تعالیٰ کی بزرگی کی تعریف کرنا
تمہیل	Tamhil	ع	وقفہ دینا' مہلت دینا' معیاد مقرر کرنا
تمام	Tamam	ع	ختم' سارا' سب
تمامہ	Tamama	ع	باقی ماندہ' بچا ہوا' بقیہ' بقایا
تمکنت	Tamkanat	ع	دبدبہ' رعب' قدرت' طاقت
تمول	Tamavul	ع	دولت مندی' مال دار ہونا' مال داری
تمویل	Tamveel	ع	مال دار بنانا' دولت مند بنانا' امیر بنانا

marfat.com

Marfat.com

تمثال	Timsaal	ع	نہایت خوبصورت، حسین وجمیل عورت
تمثیل	Tamsil	ع	مثال، مطابقت، ڈرامہ
تمن	Taman	ت	پلٹن، رسالہ، امیر تیمور کی نیک سیرت اہلیہ کا نام تمن آغا بیگم۔ اس نے سمرقند میں بہت بڑا ہسپتال تعمیر کروایا تھا۔ رفاعی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔
تموز	Tamooz	ف	گرمی کی شدت، سخت گرمی
تموج	Tamooj	ع	دریا کی طغیانی، موج مارنا، لہریں اٹھنا
تمطیر	Tanteer	ع	نمونہ، سائز
تنضیر	Tanzeer	ع	نازونعم سے پالنا
تنفیر	Tanfeer	ع	نازونعمت سے پالنا
تنوخہ	Tanokha	ع	جنگل، ویرانہ
تنوین	Tanween	ع	مکمل کرنا، پورا کرنا
تنویل	Tanwil	ع	عطا کرنا، عنایت کرنا، دینا
تنصیر	Tansir	ع	نازونعم سے پرورش کرنا
تنویر	Tanveer	ع	چمک، نور، روشنی، روشن کرنا
تنزیل	Tanzeel	ا ع	اتارنا، نازل کرنا، وحی، الہام، قرآن مجید
تنزیلہ	Tanzila	ع	ارسال کی ہوئی، بھیجی ہوئی، نازل کی ہوئی
تنصیف	Tansif	ع	آدھا کرنا، نصف کرنا
تنظیر	Tanzir	ع	مثال لانا، ثانی لانا، نظیر لانا، نمونہ لانا
تنظیم	Tanzim	ع	انتظام کرنا، انجمن، نظم کہنا
تنجیم	Tanjim	ع	ستاروں کی شناخت کرنا
تنزہ	Tanza	ع	نقائص سے مبرا، عیب سے پاک
تنمیق	Tanmiq	ع	تحریر کرنا، رقم کرنا، لکھنا

marfat.com
Marfat.com

تنشیط	Tanshit	ع	خوش کرنا' راضی کرنا
تنقیہ	Tanqia	ع	پاک وصاف کرنا
توبہ	Toba	ع	روشن کرنا
توسیم	Toseem	ف	ظاہر ہونا' حاضر ہونا
توفر	Tofar	ع	وافر' فراوانی
توفیق	Tofeeq	ع	موافق' سازگار
توفیہ	Tofia	ع	عہد کو پورا کرنا' قول وقرار پورا کرنا' وعدہ پورا کرنا
توریدا	Torid	ع	درخت کا پھول نکالنا
توقیع	Toqeea	ف	عزت دینا
توقیر	Toqir	ع	عزت' احترام
توصیف	Tosif	ع	تعریف' ستائش' صفت بیان کرنا
توفیر	Tofir	ع	کثرت' زیادتی' بہتات' فراوانی
تواب	Tawab		بہت توبہ کرنے ولا' توبہ منظور کرنے والا
توالی	Tawali	ع	متواتر' مسلسل
توصیہ	Tosia	ع	وصیت کرنا
تھلما	Thelma	یو	دیکھ بھال کرنے والی' نگہداشت کرنے والی
تہام	Tiham	ع	دلیر' بہادر' شجاع' پختہ' مضبوط' پکا
تہذیب	Tehzib	ف	شائستگی' تمدن
تہلیل	Tahleel	ا' ع	لا الہ الا اللہ کہنا
تعظیم	Tazim	ع	مرتبہ' بزرگی' عزت' احترام
تہنیت	Tahiniat	ع	مبارکباد
تھلما	Tahilma	ع	آسان' سہل' تسلی' آرام' اطمینان
تہمیذ	Tehmeez	ع	الزام لگانے والی

marfat.com

Marfat.com

تہمینہ	Tehmina	ع	الزام لگانے والی' مشہور ایرانی پہلوان رستم کی بیوی کا نام جو سہراب پہلوان کی ماں تھی۔
تہام	Tihaam	ع	مکہ مکرمہ
تہامہ	Tahama	ع	مکہ مکرمہ کی بستی
تہور	Tehwar		دلیری' بہادری' اندھی' شجاعت
تیتمیم	Taytmeem	ع	پورا کرنا' تکمیل' انت
تیما	Tima	ع	بندی' حضور نبی کریم ﷺ کی دایہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا نام تیما بنت حلیمہ سعدیہ' یہ اپنی والدہ کے ساتھ حضور نبی کریم ﷺ کی حضانت کرتی تھیں۔
تیمار	Timar	ف	ہمدرد' غم خوار' مونس

marfat.com
Marfat.com

ٹ

ٹاپتی	Tapati	اُہ	ایک قسم کا ریشمی کپڑا
ٹپکی	Tapki	اُہ	شوخی' چلبلاپن' چالاکی
ٹریسا	Terissa	یو	فصل کاٹنے والی
ٹرکسی	Turksi	لا	خوشخبری دینے والی' خوشی کی خبر لانے والی
ٹلم	Tallam	ا	فضول' مہمل' بے کار
ٹلیا	Talya	اُہ	چوزہ' مرغی کا بچہ' چھوٹی مرغی' (طنزاً)
ٹونیا	Tonia	لا	عمدہ' اعلیٰ' نفیس' بہترین
ٹھاکرانی	Thakarni	اُہ	ٹھاکر کی بیوی' ٹھاکرائن
ٹینا	Tina	یو	متین' سنجیدہ
ٹیکی	Taiki	ہ	شوخ' چنچل

marfat.com
Marfat.com

ث

ثائرہ	Saira	ع	قصاص لینے والی' بدلہ لینے والی
ثاقفہ	Saqfa	ع	ہتھیاروں سے کھیلنا
ثافتہ	Safta	ع	ہم مجلس ہونا
ثافلہ	Safla	ع	ہم نشین کرنا' ہم مجلس کرنا
ثاغمہ	Saghma	ع	محبت کرنا' پیار کرنا' بوسہ لینا
ثاقبہ	Saqiba	ع	چمکیلی' روشن' منور' ایک ادیبہ کا نام ثاقبہ رحیم الدین
ثاقیہ	Saqia	ع	روشن' منور' چمکدار
ثامل	Samil	ع	تلوار جو مدت سے صیقل نہ ہوئی ہو
ثامن	Samen	ع	قیمتی' بیش قیمت' گراں قدر' بیش بہا
ثائبہ	Saiba	ع	بارش سے پہلے کی تیز ہوا
ثالثہ	Salsa	ع	فیصلہ کرانے والی' بیچ میں پڑنے والی
ثانستہ	Sansta	ع	فیصلہ کرانے والی
ثانی	Sani	ع	دوسری' دوسرا' مانند' مثل' نظیر
ثانیہ	Sania	ف	سیکنڈ' لمحہ' آن واحد' باریکی
ثابت	Sabat	ع	پورا' مکمل' سارا' قائم' برقرار' مستقل' مضبوط' تصدیق شدہ' یقینی' سچا' وہ ستارہ جو گردش نہ کرے' عالموں نے سال کے مہینوں کو جن تین قسموں سے ثابت منقلب' ذوجنہیں میں تقسیم کیا ہے ان میں سے پہلے قسم کے مہینے' جمع ثواب
ثابتہ	Sabta	ع	جامد ستارہ' حرکت نہ کرنے والا ستارہ
ثافنہ	Safna	ع	پاس بیٹھنا' ہم نشینی کرنا' ہم مجلسی کرنا

marfat.com
Marfat.com

ثارۃ	Sara	ع	بہت بولنے والی
ثبات	Sabaat		پورا' مضبوط' قائم' اپنی جگہ قائم رہنے والا
ثبت	Sabt	ا' ع	نقش' تحریر' نوشتہ
ثبد	Sabd	ع	ٹھنڈی جگہ
ثبطہ	Sabta	ع	کسی کام سے باز رکھنا' کسی چیز سے منع کرنا
ثبرہ	Sabra	ع	روکنا' باز رکھنا' منع کرنا
ثجمہ	Sajma	ع	کسی کو کسی چیز سے پھیرنا
ثجرہ	Sajra	ع	فراخ کرنا' کھلا کرنا' چوڑا کرنا' وسیع کرنا
ثجمت	Sajmat	ع	مینہ' بارش
ثجمث	Sajmas	ع	بارش' جلدی برسنا
ثمرہ	Samra	ع	پھل' میوہ' نتیجہ' نفع' حاصل
ثمن	Saman	ع	آٹھواں حصہ' قیمت' قدر
ثروانہ	Surdana	ع	بہت مال والی' امیر
ثرہ	Sara	ع	منع کرنا
ثریا	Surriya	ع	سات ستاروں کا جھرمٹ' ثریا
ثریا جاہ	Soriya jah	ع	بلند پایہ' عالی مرتبہ
ثروانہ	Sarwana	ع	دولت مند' بہت امیر کبیر
ثروی	Sarwi	ع	رئیس عورت' مالدار خاتون
ثروت	Sarwat	ع	دولت' مال کی زیادتی' رسوخ' تونگری
ثرمان	Sarman	ع	دن رات' ایک درخت
ثغام	Sigham	ع	ایک قسم کی سفید گھاس
ثغمام	Saghmam	ع	ایک قسم کی سفید گھاس
ثغنہ	Saghna	ع	لازم ہونا' ضروری ہونا

Marfat.com

ثمام	Samam	ع	ایک طرح کی سفید گھاس
ثمر	Samer	ع	آٹھواں حصہ' ہشت' قیمت' مول' قدر
ثمروز	Samrose	ع' ف	پھل دار' باروز' ثمر دار
ثمرین	Samrin	ع	میوہ' پھل' فائدہ
ثمن	Saman	ع	قیمت' قدر
ثمینہ	Samina	ع	فائدہ مند' بیش قیمت' گراں قدر
ثمیرہ	Samira	ع	فائدہ دینے والی' پھل دار' میوہ دار
ثمین	Samin	ع	بیش بہا' قیمتی' گراں قدر' بیش قیمت
ثمال	Simal	ع	فریادرس' کارگزار
ثمار	Samar	ع	بہت سے پھل' ثمر کی جمع
ثمانیہ	Samania	ع	آٹھ' ہشت
ثقافت	Saqafat	ع	سمجھدار ہونا' عقل مند ہونا' چست ہونا
ثقابت	Saqabat	ع	چمکیلی' نہایت سرخ' روشن ہونا' منور ہونا
ثقاہت	Saqahat	ع	متانت' سنجیدگی' قابل اعتبار ہونا
ثقت	Saqat	ع	استواری' مضبوطی
ثقہ	Saqha	ع	معتبر' معتمد (آدمی)
ثنیہ	Sania	ع	شریف' نیک' تعریف کے لائق' جوان گائے یا بیل
ثناء	Sana	ع	تعریف' توصیف' ستائش' حمد' خوبی
ثوبی	Sobi	ع	(ثوب سے) پہننے کا کپڑا' لباس' پوشاک
ثوبیہ	Sobia	ع	لباس والی' پوشاک والی' حضور سرور کائنات ﷺ کے چچا ابولہب کی اس لونڈی کا نام جس نے حضور ﷺ کی ولادت کے بعد کئی ماہ تک اپنا دودھ پلایا۔ اسی ثوبیہ نے دو برس پہلے حضور ﷺ کے چچا حضرت حمزہؓ کو بھی دودھ پلایا تھا۔

marfat.com
Marfat.com

ثوران	Soran	ع	شفق کی سرخی
ثوبانہ	Sobana	ع	لباس والی خاتون' جامہ زیب عورت
ثوب	Sobe	ع	پوشاک' لباس' کپڑا' ثواب
ثیاب	Sayab	ع	لباس' پوشاک' یواب
ثیب	Saib	ع	وہ مرد یا عورت جو کنواری نہ ہو
ثیبہ	Saebah	اُ' ع	وہ عورت جو کنواری نہ ہو
ثیطر	Seetar	ع	کسی امر سے باز رکھنا

marfat.com
Marfat.com

ج

جاں بر	Janbar	ف	محفوظ' زندہ' سلامت' صحیح سلامت
جان	Jan	ف	طاقت' زندگی
جان بخش	Janbakhash	ف	تازگی دینے والا یا والی' جس سے جان سی پڑ جائے
جاں ستاں	Janstan	ف	جاں لینے والا
جاناں	Janan	ف	محبوب' پیاری' دلبر' مغل شہنشاہ اکبر کے دور کے ایک امیر عبدالرحیم خانخاناں کی بیٹی کا نام جاناں بیگم۔ اس کی شادی اکبر بادشاہ کے بیٹے شہزادہ دانیال سے ہوئی تھی۔ نہایت دیندار اور پاکباز عورت تھی۔ اس نے فارسی زبان میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی۔
جاوداں	Jawidan	ف	ہمیشہ' دائم' مدام' سدا
جائی	Jaee	اُہ	بیٹی' لڑکی' دختر
جائشہ	Jaisha	ع	اعلیٰ' عمدہ' نفیس
جارحہ	Jarah	ع	زعم کرنے والی' فخر کرنے والی' غم کرنے والی
جاسندہ	Jasinda	یو	خوبصورت' حسین' خوش شکل
جانیس	Janis	عبر	اللہ تعالیٰ کا تحفہ
جاثنہ	Jatna	ع	مماثلت
جاشہ	Jasa	ع	عمدہ' نفیس
جاثیہ	Jasia	عیو	زانو کے بل لیٹی ہوئی عورت
جارجینہ	Jarjina	یو	اپنی زمین سے محبت کرنے والی
جامعہ	Jamia	ع	درسگاہ

marfat.com
Marfat.com

جاملہ	Jamla	ع	خوش اخلاقی سے پیش آنا
جامی	Jami	ف	خراسان کے شہر جام سے منسوب، اس شہر کا باشندہ یا اس سے متعلق کوئی چیز
جانانہ	Janana	ف	پیاری، دلبر، محبوب
جاری	Jari	ع	زعفران
جاریہ	Jaria	ع	پرستار، کنیز
جالیشہ	Jalisha	ع	دل، قلب
جادی	Jadi	ع	زعفران
جاذب	Jazib	ع	جذب کرنے والا، پرکشش
جازیہ	Jazia	ع	بدلہ دینے والی
جاسرہ	Jasra	ع	دلیر، شجاع، جری، بہادر
جافخہ	Jafikha	ع	کسی کے مقابلے میں فخر کرنا
جانسہ	Jansa	ع	کسی کی مانند ہونا، مشابہ ہونا
جانی	Jani	ف	عزیز، پیارا، معشوق، محبت کا لفظ
جانیتا	Janita	عبر	اللہ تعالیٰ کا تحفہ
جاوید	Javed	ف	دائمی، ہمیشہ، ہمیشہ کے لئے
جامدہ	Jamda	ع	ساکت و جامد، ٹھوس، سخت
جاجم	Jajim	ت	پھولدار، نقش و نگار والا فرش
جازم	Jazam	ع، ف	جزم دینے والا، متحرک حرف کو ساکن کرنے والا، ارادہ مضبوط کرنے والا
جازمہ	Jazma	ع	ارادہ کرنے والی، قصد کرنے والی

marfat.com
Marfat.com

جانفدا	Janfida	ف	قربانی دینے والی' عثمانی سلطنت کے بارہویں حکمران سلطان مراد ثالث کی ملکہ کا نام جانفدا قادین۔ یہ نہایت نیک سیرت اور دیندار خاتون تھیں۔ ترکی کے کئی شہروں میں اس نے مساجد اور سبیلیں تعمیر کروائیں جو آج بھی موجود ہیں۔
جبروت	Jabrut	ا' ع	قدرت' عظمت' جاہ وجلال
جبین آراء	JabeenAra	ف	پیشانی کو سجانے والی' پیشانی کی آرائش کرنے والی
جبالہ	Jabala	ع	بڑے قد وقامت والی' بڑے ڈیل ڈول والی
جبان	Jaban	ع	بزدل' مرد ہو یا عورت
جبین	Jabeen	ف	ماتھا' پیشانی
جبارہ	Jabara	ع	آسودہ کرنا' خوشحال کرنا
جدال	Jaddal	ا' ع	جنگ' کارزار' بحث' تکرار
جذلہ	Jazla	ع	مسرور' پرمسرت' خوش کرنا' خوشی
جذبیہ	Jazbia	ع	پیار' محبت' جذبہ' ولولہ
جرس	Jarass	ع	آواز' نرم آواز' جز' اصل
جزا	Jaza	ع	بدلا' عوض' پھل
جسور	Jasoor	ع	دلیر' بہادر' جرات مند' بلند قامت
جسیم	Jasim	ع	موٹا' فربہ
جسیمہ	Jasima	ع	بڑے قد وقامت والی۔ بڑے ڈیل ڈول والی
جسرہ	Jasra	ع	واسطہ' وسیلہ' حضرت عائشہ صدیقہؓ کی ایک شاگرد کا نام جسرۃ بنت دجاجہ عامریؒ۔ آپ کوفہ کی رہنے والی تھیں۔ آپ نے چالیس عمرے کیے۔ عمرہ کرنے کا بہت شوق رکھتی تھیں۔

marfat.com
Marfat.com

جعفری	Jaffree	ا ع	گیندا' زرد پھول' منسوب جعفر طیار' خالص سونا' گل اشرفی مجاز از زرد رنگ
جگنی	Jugni	ا ہ	گلے کا ایک زیور' پنجابی زبان کا ایک مشہور گیت
جلیلہ	Jalila	ع	بزرگ' بڑی' عظمت والی' بزرگ خاتون
جلاء	Jalah	ع	چمک دمک' آب وتاب
جلیس	Jalis	ف	ہم مجلس' ہم نشین' ساتھی' دوست
جلالت	Jalalat	ع	بلند مرتبہ ہونا' بزرگی' عظمت
جلنار	Jalnar	ف	انار کا پھول' گل انار
جلسان	Jalsan	ع	گلستان' چمن' باغ' گلشن
جلستان	Jalistan	ع	باغ' گلستان
جلالہ	Jalalah	ع	گرم طبیعت والی' بزرگی' غصہ
جلوریز	Jaloraz	ف	تیز سرپٹ' جلدی' تیزی چستی
جلوہ	Jalwa	ف	نمائش' نظارہ' منظر
جل پری	Jalpari	ھ	خوبصورت' حسین' سمندری مخلوق
جمیعت	Jamiat	ع	جماعت' تسلی' تسکین
جمیما	Jameema	عبر	فاختہ' پرامن
جمیمہ	Jamima	عبر	خوش قسمت' خوش بخت' فاختہ
جمر	Jamer	ع	آگ کی چنگاری کسی کو دینا' اکٹھا ہونا' اکٹھا کرنا' دور ایک طرف کر دینا
جمرہ	Jamra	ف	چنگاریاں
جمانہ	Jamana	ع	موتی' گوہر' لعل
جمدہ	Jumda	ع	معزز' بلند و برتر' بزرگ
جمیل	Jameel	ع	حسین' خوبصورت

marfat.com
Marfat.com

جمیلہ	Jamila	ع	حسین عورت' خوبصورت عورت' چوتھی صدی ہجری میں موصل کے حکمران شاہ ناصر الدولہ کی بیٹی کا نام شہزادی جمیلہ جو اپنے وقت میں سخاوت کے لیے بہت مشہور تھی۔
جمالہ	Jamala	ف	عورت کی بزرگی
جملہ	Jamla	ع	اونٹنی
جملہ	Jumla	ع	کل' تمام' سب
جمیرہ	Jamira	ع	بادل' گیسو' زلف
جمال	Jamal	ع	حسن' خوبصورت' حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ کی صاحبزادی کا نام حافظہ جمالؒ۔ آپ نے ہزاروں خواتین کو دین حق کی ہدایت و تبلیغ کی۔ مزار مبارک اجمیر شریف بھارت میں ہے
جمعیت	Jamiat	ع	سکون' تسکین' تسلی' جماعت
جنت	Jannat	ع	بہشت' خلد' فردوس' باغ
جنبہ	Janba	ع	طرف داری' حمایت' معاونت
جنیرہ	Janira	ع	کنارہ گوشہ
جنیا	Jania	ہ	جان من' اے میری جان
جنی	Juni	ا	پیاری' اچھی
جودت	Judat	ع	تیزی' ذکاوت' خوبی
جویرہ آراء	Juwaira Ara	ف	پھولوں کی ٹوکری کی آرائش کرنے والی' پھولوں کی ٹوکری سجانے والی
جوہر آراء	JoharAra	ف	موتی سجانے والی' موتی کی آرائش کرنے والی
جوئندہ	Joinda	ف	تلاش کرنے والی' متلاشی

marfat.com

Marfat.com

جوہر	Joher	ع	قیمتی پتھر' گوہر' موتی' لعل' عباسی خلیفہ کی ایک کنیز کا نام حضرت جوہر براثیہؒ۔ آپ تیسری صدی ہجری کی مشہور عارفہ و زاہدہ گزری ہیں۔ اپنے دور میں بہت شہرت رکھتی تھیں۔
جولیدہ	Jolida	ف	فکر کرنے والی' پریشان
جویاء	Joya	ف	تلاش کرنے والی' متلاشی
جولیا	Jolia	یو	نوجوان' شباب سے بھرپور
جونا	Joona	ع	عطردان' خوشبو کی ڈبیہ
جوزی	Jozi	عبر	برکت لانے والی
جوہی	Johi	ہ	چنبیلی
جوہیا	Johia	ف	جوہی کا پھول
جواد	Jawad	ع	سخی' برابری
جواہر	Javahar	ع	قیمت پتھر
جواں بخت	Jawan Bakht	ع	اونچے مقدر والی' خوش نصیب' بلند قسمت والی
جویرہ	Juaira	ف	پھولوں کی ٹوکری
جواند	Jawand	عبر	اللہ کا تحفہ
جوانہ	Juana	عبر	اللہ تعالیٰ کا تحفہ
جویریہ	Juwairia	ع	خوشیاں بکھیرنے والی' حضور سرور کائنات ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت جویریہؓ۔ آپ بڑی خیر و برکت والی خاتون تھیں۔ آپ کے انتقال پر آپ کی نماز جنازہ مدینہ طیبہ کے حاکم مروان نے پڑھی جو کہ امیر معاویہؓ کی طرف سے مدینہ منورہ کا حاکم تھا۔

marfat.com

Marfat.com

جوش	Joash	ع	زرہ' ایک زیور
جوشن	Joshan	ع	ایک زیور' زرہ
جوہرہ	Johra	ع	پہچان کرنے والی' چھٹی صدی ہجری کی ایک نامور واعظہ اور عالمہ حضرت جوہرہؒ آپ بغداد کی رہنے والی تھیں۔
جھرنا	Jharna	ار	پانی کی چادر' آبشار
جہاں آراء	Jehan Ara	ف	دنیا کو سجانے والی' دنیا کی آرائش کرنے والی' مغل شہنشاہ شاہجہاں کی بیٹی کا نام۔ یہ بادشاہ کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی۔ نہایت نیک سیرت تھی۔ اس شہزادی نے بہت سی مساجد اور مدرسے تعمیر کروائے۔ باغات بھی بنوائے' لاہور چوبرجی باغ بھی اسی نے بنوایا تھا۔
جہان	Jahan	ف	دنیا' عالم' ایران کے حافظ شیرازی کی ہم عصر ایک مشہور شاعرہ کا نام جہان خاتون۔ شیراز کی رہنے والی تھی۔
جہاں دار	Jahandar	ف	بادشاہ
جیزہ	Jiza	ع	کنارہ' سرا' گوشہ
جینا	Jina	یو	شہزادی' نیک بخت' شریف خاندان والی۔ اچھے مقدر والی
جی دار	Jidar	ا	دلیر' بہادر' منچلا
جیداء	Jidah	ع	لمبی اور خوبصورت گردن والی
جیوندی	Jayundi	ھ	زندہ' آٹھویں صدی ہجری کی ایک بزرگ خاتون کا نام جیوندی بی بی۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشتؒ کی اولاد سے ہیں۔ ان کا مقبرہ اوچ شریف میں واقع ہے۔ مقبرہ کی عمارت خراسان کے بادشاہ محمد دلشاد نے تعمیر کروائی تھی جو کہ نہایت عالی شان ہے۔

marfat.com
Marfat.com

چ

چاندی	Chandi	اُر	ایک دھات کا نام
چاندنی	Chandni	اُر	چاند کی روشنی، نورِ قمر
چاشنی	Chashni	ار	شیرینی، مٹھاس
چاک	Chak	ت	معشوق
چان	Chan	ت	محبوب، پیارا
چاشین	Chashin	ف	شیریں، مٹھاس
چاند بی بی	Chand Bibi	ف۔اُر	ایک نامور خاتون چاند بی بی جو احمد نگر کے حکمران حسین نظام شاہ کی بہادر بیٹی تھی۔ اپنے وقت کی مشہور خاتون تھی۔
چاغامہ	Chaghama	ف	قصیدہ، غزل
چائماصہ	Chaimasa	ف	غزل
چتون	Chitwan	ھ	فکر، نظر، تیوری، نگاہ
چشمہ	Chashma	ف	زمین سے ابلنے والا پانی کا جاری منبع، عینک
چشمی	Chashmi	ف	آنکھ والی
چشیدہ	Chasheeda	ف	چکھا ہوا، تجربہ کار
چرابہ	Charaba	ف	آخر تک، لبالب، بالائی
چراہہ	Charaha	ف	لبالب
چرمی	Charmi	ف	چمڑے کا بنا ہوا
چکوری	Chakori	ار	ایک پرندے کا نام، دل لبھانے والا
چمکیلی	Chamkili	ار	چمکدار، روشن، منور
چمپا	Champa	ف	ایک زرد رنگ کا پھول

marfat.com
Marfat.com

چمکی	Chamki	اُر	کپڑوں پر لگانے والا سلمہ ستارہ
چمبر	Chamber	ف	گولائی' طوق' دائرہ
چمن آراء	Chamaan Ara	ف	باغ کی آرائش کرنے والی' باغ کو سجانے والی
چمنیا	Chamenia	ف	زرد پھول
چمیر	Chameer	ف	دائرہ
چنا	Channa	ا	چاندی
چندن	Chandan	ف	صندل
چندا	Chanda	ار	چاند' ماہتاب' قمر
چنداں	Chandan	ف	اس قدر' اتنی' ایسی
چندین	Chandin	ف	بہت زیادہ' وافر' کثیر
چندرا	Chandra	ہ	خوبصورت' حسین' چاند جیسی
چنچل	Chanchal	ہ	شوخ' شرارتی
چنبیلی	Chanbeli	ف	ایک خوشبودار پھول
چوپہل	Chopahal	اُہ	چار پہلو کا
چوچک	Chuchak	ف	مغل بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کی چہیتی ملکہ کا نام۔ ملکہ ماہ چوچک بیگم اس نے اور اس کے بیٹے محمد حکیم مرزا نے عرصہ تک کابل پر حکومت کی۔ نہایت سمجھدار اور بہادر خاتون تھی۔
چودانی	Chodani	ہُف	کان میں پہننے کا ایک زیور جس میں چار موتی لگے ہوتے ہیں
چودس	Chodass	اُہ	چاند کی چودھویں تاریخ
چوگوشیا	Chogoshia	ا	چار کونوں والی' ایک قسم کی ٹوپی جس کے چار گوشے ہوتے ہیں' ترکی گھوڑا
چوگلا	Chogla	اُہ	چار پنکھڑی کا پھول

marfat.com
Marfat.com

چھاؤں	Chhaon	اُ ہ	سایہ
چھور	Chhoor	اُ ہ	ساحل' کنارا' سرحد' پہلو' طرف' چوٹی' کلہ کو وہ کشتی جو دوسری کشتی کو کھینچ کرلے جائے
چہرہ	Chehra	ف	روشن' صاف
چہرہ خیز	Chehra Khaiz	ف	روشن' منور' صاف شفاف
چہرہ کشا	Chehra Kusha	ف	مصورہ' تصویر بنانے والی
چہرزاد	Chehrzad	ف	ایران کے بہمن کی بیٹی کا نام۔ فارس کے اسفندیار کی بیٹی کا نام۔
چہل	Chehal	اُ ہ	ہنسی' خوش طبعی' دل لگی' خوش مزاجی
چہیل	Chaheel	ہ	گیلا' غدار
چینا بیگم	Cheena Begum	اُ ہ	افیون
چیولی	Cheeoli	اُ ہ	ایک قسم کا ریشمی کپڑا
چیسی	Cheesi	اُ ہ	خوش وضع عورت
چیری	Charri	اُ ہ	سائبان' شامیانہ
چیرہ	Chirah	ف	زورآور' بہادر' غالب
چیانتی	Chianti	اُ انگریزی	سرخ اطالوی شراب

marfat.com

Marfat.com

ح

حاثر	Hasar	ع	چالاک' زیرک
حازمع	Hazama	ع	قیامہ شناس
حازیہ	Hazia	ع	قیافہ شناس' اندازہ لگانے والی
حازبہ	Hazba	ع	طاقت پہنچانا' قوت پہنچانا
حامض	Hamiz	ع	ترش' کھٹا
حامزہ	Hamza	ع	خوش اخلاق' خوش مزاج
حانث	Haniss	ع	قسم توڑنے والا' وعدہ خلافی کرنے والا' گنہگار
حانصیر	Hanaseer	ا	حصیر کا بگاڑ' چٹائی
حافظہ	Hafza	ع	حفظ کرنے والی' محفوظ کرنے والی' یادداشت
حاطہ	Hata	ع	درخت کا نام
حاطمہ	Hatima	ع	توڑنے والی
حاوت	Hawat	ع	مٹھاس' شربتی
حاوہ	Hawa	ع	راستہ جدا کرنے والی
حاویہ	Havia	ع	چھا جانے والی
حائغہ	Haigha	ع	افسوس کرنے والی
حائفہ	Haifa	ع	افسوس کرنے والی
حائل	Haiel	ع	روکنے والا' بیچ میں آنے والا پردہ' آڑ
حائنہ	Haina	ع	وقت معین کے لئے' معاملہ کرنا
حاسبہ	Hasibah	ع	جانچ پڑتال کرنے والی
حاشمہ	Hashima	ع	غضبناک' برانگیختہ' آگ بگولا' تیخ پا

marfat.com
Marfat.com

حاشیہ	Hashia	ع	شاہین
حاضر	Hazir	ع	موجود' تیار' سامنے
حاذرہ	Hazrah	ع	بچانا' ہوشیار کرنا' کفایت شعار' ڈرانے والی
حاذفہ	Hazifa	ع	دانشمند' عقلمند
حاذورہ	Hazura	ع	چاک وچوبند' تیار' ہمہ وقت' مستعد
حاطفہ	Hatifa	ع	چھین لینے والی
حافزہ	Hafiza	ع	روبرو بیٹھنا' مقابل بیٹھنا' سامنے بیٹھنا
حاکمہ	Hakima	ع	حکومت کرنے والی
حاذِرہ	Hazira	ع	مطلع کرنا' بچانا' آگاہ کرنا' ہوشیار کرنا' خبردار کرنا
حاشدہ	Hashda	ع	ہمہ وقت تیار' مستعد' چاک وچوبند
حارثہ	Harsa	ع	کھیتی باڑی کرنے والی
حارج	Harij	ع	روکنے والا' مزاحمت کرنے والا
حارونی	Harooni	ا	سرکش' شریر' نافرمان
حارہ	Harah	ع	گرم
حائقہ	Haiqa	ع	صادق' سچی' اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے والی
حاجؒ	Hajj	ع	حج کرنے والا' حضرت بی بی پاک دامناںؒ میں سے ایک بی بی کا اسم مبارک بی بی حاج والد کا نام حضرت سید احمد توختہ ترمذیؒ ہے۔ مزار مبارک ایمپرس روڈ لاہور میں واقع ہے۔
حاجت	Hajat	ا' ع	خواہش' امید' آرزو' التجا
حاجز	Hajiz	ع	روکنے والا' حائل' مانع' پردہ روک' آڑ
حاجیہ	Hajia	ع	دربان' نگران' رکھوالی' نگرانی کرنے والی
حاجبہ	Hajba	ع	نگرانی کرنے والی' نگران' دربان' رکھوالی
حائدہ	Haida	ع	جدا ہونا' الگ ہونا' علیحدہ ہونا' پرے ہونا' ایک طرف ہونا

marfat.com

Marfat.com

حافدہ	Hafda	ع	حمایتی، معاون، مطیع، فرمانبردار، تابعدار، مددگار
حامدہ	Hamida	ع	حمد کرنے والی، تعریف کرنے والی، ثناء کرنے والی
حازبہ	Haziba	ع۔	جماعت بنانے والی، گروہ بنانے والی
حادث	Hadiss	ع	قدیم کی ضد، نئی چیز، فانی
حادہ	Hadah	ع	راستے سے الگ ہونے والی
حادیہ	Hadia	ع	احاطہ کرنے والی، ماہرہ، چھا جانے والی
حاذقہ	Haziqa	ع	دانشمند، کامل، عقلمند، ماہر عورت، دانا
حامیم	Hameem	ع	سات سورتیں قرآن شریف کی جن کا شروع حم کے ساتھ ہے
حامیہ	Hamia	ع	پرکھنے والی، جانچ پڑتال کرنے والی
حبیبہ	Habiba	ع	دوست، پیاری، رفیقہ، مونس، حضور نبی کریم ﷺ کی ایک زوجہ مطہرہ اُم حبیبہؓ۔ آپ کے والد کا نام ابوسفیانؓ ہے۔ ماں کا نام صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ ہے جو حضرت عثمان غنیؓ کی پوپھی تھیں۔
حب	Hab	ا،ع	محبت، الفت، پیار، اُنس، دوستی، توفیق، آرزو
حبہ	Habah	ع	ریزہ، معمولی سا، غلہ، ذرہ، دانہ
حباشیہ	Hubashia	ع	عقاب، شاہین
حبل	Habal	ا،ع	رسی، موٹا دھاگا، رگ، اتفاق، اتحاد
حبل المتین	Ha[illegible]-ul-Mateen	ا،ع	مضبوط رسی، پکا وسیلہ
حبلہ	Habla	ع	انگور کی بیل
حباب	Hubab	ع	محبت، پیار، الفت، دوستی، رفاقت، بلبلہ
حب	Huba	ع	شوق، محبت، الفت، پیار

marfat.com
Marfat.com

حبور	Huboor	ع	مسرت' شادمانی
حجاب	Hijab	ع	حیا' پردہ' شرم' ایک ادیبہ کا نام حجاب امتیاز علی۔
حجۃ	Hujjata	ع	بحث' دلیل
حجل	Hajal	ع	پائل' پازیب
حجل	Hajel	ع	چکور
حداثت	Hadasat	ا' ع	آغاز' جدت' نوجوانی' نیاپن
حدت	Hidat	ا' ع	تلوار کی تیزی' گرمی کی تیزی' تندی' زور' جوش
حدور	Haduwar	ع	نیچی زمین' نشیب' ڈھال
حدیقہ	Hadiqa	ع	پھلوں کا باغ' چاردیواری والا باغ' کیاری' محفوظ' ایک نام حدیقہ کیانی۔
حدباء	Hadbah	ع	کسی پر مہربان ہونا
حذا	Haza	ع	مہربان ہونے والی
حذافہ	Hazafa	ع	حضور نبی کریم ﷺ کی دایہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما کا ایک نام۔
حذاقت	Hazaqat	ا' ع	دانائی' چالاکی' عقلمندی
حذقہ	Hazqa	ع	کامل بنانا' مشاق بنانا' ماہر بنانا
حرا	Hara	ع	مکہ کے نزدیک ایک پہاڑی پر غار جہاں حضورؐ عبادت کے لئے جایا کرتے تھے' جہاں پہلے پہل وحی نازل ہوئی
حرار	Hirarr	ع	سنگلاخ زمین' پتھریلی زمین
حرار	Hararr	ع	آزادی' جوانمردی
حرافہ	Harafah	ا' ع	شوخ عورت' چالاک عورت مکار عورت
حردہ	Harda	ع	منع کرنے والی
حرسان	Harsaan	ع	دن رات

marfat.com
Marfat.com

حرفت	Harfat	ا ع	کسب، پیشہ، ہنر، علم، چالاکی
حرفتی	Harfti	ف ع	ہوشیار، چالاک، عیار
حرم	Heram	ع	نیک بیوی، شریف عورت، احاطہ خانہ کعبہ کی چاردیواری، امیر تیمور کی پڑپوتی اور بدخشاں کے حکمران سلیمان مرزا کی اہلیہ کا نام حرم بیگم جو دسویں صدی ہجری میں دلیری اور دانائی کی وجہ سے بہت شہرت رکھتی تھی۔
حرمہ	Harama	ع	نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا
حرہ	Hura	ع	آزاد عورت
حریر	Harir	ع	ریشم
حریری	Hariree	ع	ریشمی، باریک، مہین، دبلا پتلا آدمی
حریم	Harim	ع	گھر کی چاردیواری، مکان
حروہ	Herwah	ع	روکنا، منع کرنا، باز کرنا
حریمہ	Harima	ع	وہ پسندیدہ چیز جو حاصل نہ ہو سکے
حزین	Hazeen	ع	افسردہ، غمزدہ
حرب	Harb	ا ع	جنگ، لڑائی کا راز
حربہ	Herba	ع	لڑائی کا ہتھیار
حرمت	Hurmet	ع	آبرو، عزت
حزم	Hezm	ع	مضبوطی، احتیاط
حزن	Hazan	ع	سخت زمین
حسرت	Hasrat	ا ع	آرزو، خواہش، ایک شاعر کا تخلص
حسن	Hussan	ع	خوبصورتی
حسنا	Husna	ع	خوبصورت، حسین، حضرت حسنؓ بنت معاویہؓ۔ آپ کا شمار تابعیات میں ہوتا ہے۔

marfat.com
Marfat.com

حسنی	Hasni	ا'ع	امام حسنؓ سے نسبت رکھنے والا
حسیل	Haseel	ع	گائے، گائے کے بچھڑے
حسیمہ	Hasima	ع	ذی وقار، ذی عزت، مہمان
حسات	Hasat	ع	بھلائیاں، خوبیاں
حسالہ	Husala	ع	چاندی کا برادہ، عزت، مہمان
حسان	Hisan	ع	خوبصورت حسین عورت
حسام	Hasam	ع	تلوار، تلوار کی دھار
حسامہ	Husama	ع	تلوار، شمشیر
حسنہ	Husna	ع	نیکی، بھلائی، اچھائی
حسیبہ	Hasiba	ع	حساب کرنے والی
حسن صبیح	Husan Sabeeh	ا'ع	دلکش گورا رنگ
حسنہ	Husnah	ع	حسین، پیاری، اچھی، خوبصورت
حسین	Haseen	ع	خوب صورت
حسینہ	Hasina	ع	حسین عورت، خوبصورت عورت
حسنات	Hasnat	ع	بھلائیاں، نیکیاں
حسن آراء	HusanAra	ف	حسن کی آرائش کرنے والی، حسن کی شان میں اضافہ کرنے والی
حسابہ	Hisaba	ع	حساب رکھنے والی، حساب لینے والی
حشمت	Hashmat	ع	بزرگی، دبدبہ، رعب
حشیش	Hasheesh	ا'ع	بھنگ
حصین	Haseen	ع	مضبوط، محفوظ
حضر	Hazar	ا'ع	پڑاؤ، قیام، سفر کا الٹ

Marfat.com

حضرمی	Hazrami	ع	حضر موت کا رہنے والا
حضری	Hazree	ع	شہری لوگ' بدو کا متضاد عرب کے وہ لوگ جو ایک جگہ مستقل سکونت رکھتے ہوں۔
حضرت	Hazrat	ع	حاضر' حضور' جناب' مخدوم' اودھ کے آخری نواب واجب علی شاہ کی بیوی کا نام حضرت محل جو بہادری جرأت اور نیک نامی میں مشہور تھی۔ پردے کی سخت پابند تھی انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
حضیض	Hazeez	ع	پستی' دامن کوہ میں نیچی زمین' پتھر
حضیم	Hazeem	ع	خانہ کعبہ سے ملی ہوئی ایک جگہ' دیوار کعبہ
حفید	Hafeed	ع	بیٹیاں' اولاد' اولاد کی اولاد
حفیہ	Hafia	ع	کمان
حفیظہ	Hafiza	ع	محافظ' نگہبان' حفاظت کرنے والی
حفصہ	Hifsa	ع	شیر کی بیٹی' جمع کرنا' اکٹھا کرنا' آرام کرنا' حضرت ابوبکر صدیقؓ کی پوتی کا نام حفصہ۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکر صدیقؓ تھا۔ آپ کی شادی حضرت زبیر بن العوامؓ کے بیٹے حضرت منذرؓ سے ہوئی تھی۔
حق آشنا	Haqashanah	ع'ف	صادق' امین' خدا پرست
حقیقت	Haqeeqat	ع	سچائی
حکمت	Hikmat	ع	عقل مندی' دانائی
حکمتی	Hikmati	ا	فلسفی' چالاک' ہوشیار
حکمی	Hakmi	ع'ف	یقینی' فرمانبردار' بے خطا' شرطی' مزدور' ہمیشہ
حکیمہ	Hakima	ع	سمجھدار عورت' دانا عورت' حکیم عورت' عقلمند' دوسری صدی ہجری کی مشہور عارفہ زاہد بی بی حکیمہ۔ شام کے شہر دمشق کی رہنے والی تھیں۔ حضرت علیؓ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔

Marfat.com
Marfat.com

حلاوت	Halawat	ع	مٹھاس
حلبہ	Halba	ع	سجاوٹ والی
حلیہ	Hulya	ع	صورت' شکل' چہرہ' مورت' زیبائش' آرائش
حلہ	Hula	ع	جنتی لباس' بہشتی پوشاک
حلیلہ	Halila	ع	اہلیہ' زوجہ' منکوحہ' بیوی
حلیفہ	Halifa	ع	حمایتی' مددگار' رفیقہ' معاون' ساتھی' دوست
حلیمہ	Halima	ع	تحمل والی' بردبار' حضور سرور کائنات ﷺ کی رضائی والدہ کا اسم مبارک۔
حلیہ	Hulya	ع	صورت' چہرہ' زیور
حماس	Hammas	ع	سختی' جنگ
حماطہ	Hamata	ع	ایک درخت کا نام
حمالہ	Hamalah	اُع	سرخ رنگ کی
حمائل	Hamael	اُع	گلے میں ڈالنے کی چیز' ایک زیور
حماینہ	Hamania	ع	مددگار
حمت	Hamat	ع	شرم والی' حیا والی
حمیت	Hamiat	ع	شرم' غیرت' حیا
حمیدہ	Hamida	ع	جس کی تعریف کی گئی ہو' مغل بادشاہ اکبر کی سگی والدہ کا نام حمیدہ بیگم جو بڑی باحیا اور پردہ دار عورت تھی۔ شریعت مطہرہ کی پابند تھی۔
حمادہ	Hamada	ع	تعریف کرنے والی' حمد کرنے والی' ثناء کرنے والی
حمیرا	Humaira	ع	سرخ رنگت والی
حمیراہ	Hammerah	ع	خوبصورت
حمنہ	Humna	ع	ام المومنین حضرت زینبؓ بنت جحش کی ہمشیرہ کا نام۔

marfat.com
Marfat.com

حمیذہ	Hamaiza	ع	سمجھدار، ذکی، تیز فہم، ذہین، معاملہ فہم
حمیمہ	Hamima	ع	ساتھی، دوست، قرابت دار، رفیق
حمرا	Hamra	ع	سرخ رنگت والی
حمامہ	Hamama	ع	پرندہ، خوبصورت، حسین عورت
حمیلہ	Hamila	ع	ضامن، لے پالک
حمدہ	Hamda	ع	قابل ستائش، قابل تعریف، اپنے وقت کی مشہور معروف عالمہ واعظہ کا نام حمدہؒ۔ بغداد کی رہنے والی تھیں۔ بغداد میں اپنی درس گاہ قائم کر رکھی تھی اور وعظ و نصیحت کیا کرتی تھیں۔ لوگوں کو حدیث اور فقہ کا درس بھی دیا کرتی تھیں۔ چوتھی صدی ہجری کے آخر میں آپ کی خوب شہرت تھی۔
حناطہ	Hinata	ع	خوشبو بیچنے والی
حنا	Hana	عبر	مہربان، رحم دل
حنا	Hena	ع	جگہ کا سرسبز ہونا
حنا	Hina	ع	مہندی
حنبہ	Hanba	ع	غلہ
حنیفہ	Hanifa	ع	صادق، سچی، پکی، نویں صدی ہجری کی مشہور عالمہ اور محدثہ حنیفہؒ۔ آپ نے اپنی درس گاہ قائم کر رکھی تھی جہاں پر علم حدیث کا درس دیا کرتی تھیں۔ علامہ جلال الدین سیوطیؒ آپ کو اپنے شیوخ کے زمرہ میں شمار کرتے ہیں۔
حنان	Hanan	ع	دردمندی، رحم و شفقت
حورعین	Hoore Ain	ا، ع	فراخ چشم عورت یعنی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حور
حوریہ	Huria	ع	حور، حور جیسی خوبصورت، نہایت حسین

marfat.com
Marfat.com

حورالعین	Hurulain	ع	سیاہ اور بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورت
حوا	Hawa	ع	دنیا کی سب سے پہلی عورت' حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کا نام۔
حولیہ	Hulia	ت	دھیان' خیال' تصور
حوال	Hawal	ع	انقلاب' تغیر و تبدل
حوال	Hiwal	ع	دو اشیاء کے مابین آڑے آنے والی شے
حوت	Hut	ع	بڑی مچھلی
حور	Hoor	ع	خوبصورت' خوبصورت جنتی عورت' حضرت بی بی پاک دامناں" میں سے ایک پاک بی بی حور"۔ مزار مبارک ایمپرس روڈ لاہور میں واقع ہے۔
حیاء	Haya	ع	شرم' لحاظ' حجاب' غیرت' اپنے وقت کی مشہور عالمہ فاضلہ اور شاعرہ حیا اصل نام حیات النساء تھا۔ شاعری میں حیا تخلص تھا۔ شاہ عالم ثانی کی بیٹی تھی۔
حیات	Hayat	ع	زندگی' عمر' جان' آٹھویں صدی ہجری کی نامور شاعرہ حیات بی بی جو کہ حافظ شیرازی کی ہم عصر تھی۔ شاعری میں کمال درجہ رکھتی تھی۔ بلند پائے کی شاعرہ تھی۔ خاوند کا نام خواجہ قوام الدین شیرازی تھا۔
حیاشیہ	Hayasia	ع	عقاب' شاہین
حیانہ	Hayana	ع	عمر
حیرت	Hairat	ع	تعجب' اچنبھا
حیمہ	Heema	ع	مہمان' ذی عزت' ذی وقار

marfat.com
Marfat.com

خ

خاکبار	Khakbar	ف	کھلنڈرا' مٹی میں کھیلنے والا' دھول اڑانے والا
خاکی نہاد	Khakinihad	ف	نرم دل' رحمدل' بہت خلیق
خالدہ	Khalda	ع	جنت میں رہنے والی' ہمیشہ رہنے والی' ترکی کی ایک نامور ادبی شخصیت خالدہ ادیب خانم۔
خالصہ	Khalissah	ع	خالص' سرکاری زمین جس میں کسی اور کا حق نہ ہو' سکھ سردار' سکھوں کی فوج
خالف	Khalif	ع	پیچھے آنے والے' خلاف کرنے والا
خاورہ	Khawera	ع	مشرقی یا مغربی
خاوری	Khawry	ف	مشرقی' مغربی' سورج سے منسوب
خاویہ	Khavia	ع	خالی پڑی ہوئی زمین
خاطبہ	Khatba	ع	باہم گفتگو کرنے والی' آپس میں بات چیت کرنے والی
خاطف	Khatif	ع	تڑپنے والی (بجلی) جھپٹ لینے والا
خاطی	Khati	ع	گناہ گار' خطا کار' پاپی' مجرم
خام	Kham	ف	ناپختہ' سبز' کمزور' ناتجربہ کار' فضول' خالص
خام ریش	Khamraish	ف	کم عقل' چھچھورا' مسخرا
خامہ	Khama	ف	قلم' کلک
خامہ فرسا	Khamafarsa	ف	لکھنے والا' کاتب' رائیٹر
خام کار	Khamkar	ا	نادان' کم عقل' ناآزمودہ
خامنا	Khamna	ہ	مہر لگانا' بند کرنا
خانم	Khanem	ف	امیرزادی' بیگم

marfat.com
Marfat.com

خازہ	Khasra	ع	جماعت' گروہ' پارٹی
خازمہ	Khazma	ع	دو الگ راستے' دو متضاد راہیں
خاتون	Khatoon	ت	امیرزادی' ملکہ بیگم' بی بی مصر کے حکمران ملک الاشرف موسیٰ بن ملک عادل کی نیک سیرت بیٹی کا نام خاتون۔ اس کا دادا سلطان صلاح الدین ایوبی کا سگا بھائی تھا۔ اپنے وقت میں بہت شہرت رکھتی تھی۔ دمشق میں ایک شاندار مدرسہ بھی تعمیر کروایا تھا۔
خاتون عرب	Khatoon-e-Arab	ف	حضرت فاطمہ کا لقب
خاتون فلک	Khatoon-e-Falak	ف	آسمان کی شہزادی' چاند' زہرہ ناہید
خاتون جنت	Khatoon-e-Jannat	ا'ع	حضرت فاطمہؓ کا لقب' جنت کی شہزادی
خادمہ	Khadma	ع	ملازمہ' نوکر' خدمت گار' خدمت کرنے والی
خارا	Khara	ف	سخت پتھر' نیلا پتھر
خاراترش	Kharatursh	ف	سنگ تراش' پتھر کاٹنے والا
خارا شگاف	Kharashagaf	ف	پتھر میں شگاف ڈالنے والا
خاراسنگ	Kharasang	ف	سیارہ پتھر' سنگ مرمر کی ایک قسم
خارکش	Kharkash	ف	لکڑہارا' مزدور' محنت کش
خارق	Kharique	ع	پھاڑنے والا' کرامت' جمع خوراق
خاشفہ	Khashfa	ع	تیز تلوار' تیز شمشیر
خاتم	Khatem	ع	انگوٹھی' مہر' اختتام' ختم' انجام کو پہنچانے والا

marfat.com
Marfat.com

خاتم سلیمان	Khatem-ul-Suleman	ا' ع	حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے پوری مخلوق آپ کے تابع تھی
خاشعہ	Khashia	ع	انکساری کرنے والی' عاجزی کرنے والی
خائزہ	Khaiza	ع	دوستی کرنے والی' ساتھی
خائلہ	Khaila	ع	فخر میں مقابلہ کرنا
خادنہ	Khadna	ع	دوستی کرنا
خانخاناں	Khanakhanan	ف	امیروں کا امیر' سرداروں کا سردار' مغلیہ خاندان کا سردار' سپہ سالار کا لقب' اکبر بادشاہ کے اتالیق بیرم خان اور اس کے بیٹے عبدالرحیم کا لقب
خانزادہ	Khanzada	ف	سردار کا بیٹا' امیر کا بیٹا' مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی بڑی بہن کا نام خانزادہ بیگم۔ اس کا مزار کابل میں بابر بادشاہ کے مقبرے کے ساتھ ہے۔
خانسعہ	Khanisa	ع	عاجزی کرنے والی
خانزادی	Khanzadi	ف	سردار کی بیٹی' خان کی بیٹی' امیر کی بیٹی
خاتون	Khanoon	ت	بی بی' ملکہ
خانہ بدوش	Khanabadosh	ف	آوارہ' بنجارہ' بے ٹھکانہ
خانی	Khani	ت	پوشیدہ' چھپا ہوا' خفیہ
خبرت	Khibret	ف	دانائی' سمجھ' شعور' دانشمندی' عقل
خبرہ	Khabra	ع	خبر رکھنے والی
خبط الابیض	Khabt-ul-Abeez	ع	صبح کی روشنی
خبیرہ	Khabira	ع	آگاہی رکھنے والی' خبر رکھنے والی
ختام	Khatam	ع	تمام' ختم

marfat.com

Marfat.com

نام	English	زبان	معنی
کھجالا	Khejala	ا	بکواسی، زیادہ بولنے والا بے ہودہ
خجستہ	Khujsta	ف	فرخندہ، سعید، مسعود، مبارک، گل ہمیش بہار، پاکستان کے سابق وزیراعظم اور تحریک پاکستان کے نامور رہنما حسین شہید سہروردی کی والدہ کا نام خجستہ اختر بانو جو کہ اپنے وقت کی مشہور ادیبہ تھیں۔
خجستہ پے	Khajastapay	ف	مبارک قدم والا
خجستگی	Khajastagi	ف	سعادت، مبارک پن
خجنہ	Khujanna	ف	مبارک، سعد
خدارت	Khadarat	ع	پردہ نشینی
خدارسیدہ	Khudarasida	ف	اللہ والا، اللہ کا پیارا، اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہوا، نیک، پرہیزگار
خداساز	Khudasaz	ف	خدا کا بنایا ہوا
خداوند	Khudawand	ف	مالک، آقا مراد اللہ تعالیٰ
خداوند زادہ	Khudawand Zada	ف	صاحبزادہ، رئیس کا بیٹا، مالک کا فرزند
خداوند مجازی	Khudawand Majazi	ف	شوہر، بادشاہ، حاکم
خدائگاں	Khudaigan	ف	بڑا آدمی، بادشاہ
خدا آفرید	KhudaAfrid	ف	قدرتی، پیدائشی
خدنگ	Khadang	ف	چھوٹا تیر، ایک درخت کا نام جس سے تیر بناتے ہیں۔
خدیرہ	Khadeera	ع	نیکی کرنے والی
خدیجہ	Khadija	ع	حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ کا نام۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول فرمایا۔
خدینہ	Khadeena	ع	دوست، رفیق حیات

marfat.com
Marfat.com

خدیو	Khudyo	ف	بادشاہ بالعموم انیسویں صدی میں مصر کے بادشاہوں کا لقب
خذفہ	Khazfa	ع	جلد باز
خنان	Khanan	ع	آسودگی' خوشحالی' آرام' راحت' سکون
خنشا	Khunsha	ف	مبارک' سعید
خنداں	Khandan	ف	خوش مزاج' خوش طبع
خندہ رو	Khanda Roo	ف	شگفتہ چہرہ' مسکراہٹ والی شکل' ہنس مکھ
خندہ زن	Khanda Zan	ف	ہنسنے والا
خندہ گل	Khanda Gull	ف	شگفتہ چہرہ' مسکراہٹ والی شکل' ہنس مکھ
خندہ مینا	Khanda Meena	ف	وہ آواز جو شیشے کے گلاس سے شراب انڈیلتے وقت پیدا ہوتی ہے۔
خندہ	Khanda	ف	مسکراہٹ' خوش' شوخی' ہنستی ہوئی
خنساء	Khansa	ع	ہرنی' یمن کی رہنے والی پہلی صدی ہجری کی مشہور ولیہ کاملہ حضرت خنساء بنت خدامؓ۔ جو بڑی پاک باز اور عبادت گزار خاتون تھیں۔
خنشاء	Khansha	ف	مبارک' سعید
خنیا	Khanya	ف	گانا' نغمہ' راگ' ڈومنی' میراثن
خنیرہ	Khuneera	ف	مسکرانے والی
خرام	Khuraam	ف	نزاکت کی چال
خرسندہ	Khersinda	ف	آسودہ' راضی' قانع' خوشحال
خرسند	Khersend	ع	مطمئن' شادمان' خوشی' راضی' مسرور

marfat.com
Marfat.com

خرسندی	Khursandi	ف	خوشی' شادمانی
خرت	Khirt	ع	ہوشیار ہونا' خبردار ہونا
خرقہ پوش	Kharqaposh	ف	صوفی' درویش' گھڑری اوڑھنے والا
خرمست	Khurmast	ف	نشہ شباب میں مست' شہوت میں مست' بے وقوف
خرمن	Khurman	ف	کھلیان' چاند کا ہالہ' وہ روشنی کو سورج کے قریب نظر آئے
خرمی	Khurmi	ف	خوشی' فرحت' انبساط
خروس	Khroos	ف	مرغا
خروشاں	Kharoshan	ف	شور مچانے والا' روتا ہوا
خری	Kharee	ف	حماقت' بے وقوفی
خریطہ	Kharitah	ع	روپوں کی تھیلی
خرف	Khiraf	ع	بوڑھا کھوسٹ' بوڑھاپے کی وجہ سی بدحواس شخص' مہمل' بے ہودہ
خریف	Khareef	اُ ع	خزاں' ساونی وہ فصل جس میں جوار' مکئی وغیرہ پیدا ہوتی ہے
خزادہ	Khazadah	ف	خواجہ زادہ کا مخفف' صاحبزادہ' سردار
خزانہ	Khazana	ع	دولت
خزران	Khizran	ت	بانس' نیزہ' نرم لکڑی' خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی کا نام
خزینہ	Khazina	ف	دولت' خزانہ' مخزن
خسرو انجم	Khusro Anjum	ف	ستاروں کا بادشاہ یہ کے طور پر سورج
خسروی	Khusravi	ف	باشاہی' خسرو سے منسوب
خسیس	Khasees	ع	کمینہ' بخیل' کنجوس
خشاء	Khasha	ف	مبارک' سعد
خشار	Khashar	ع	آراستہ کی ہوئی' سجائی ہوئی

marfat.com
Marfat.com

خشامہ	Khashama	ع	شیرنی
خشت پز	Khashtpaz	ف	اینٹیں پکانے والا
خشیت	Khashyat	اُع	ڈر' خوف
خصیم	Khasim	ف	جھگڑالو' لڑاکا' دشمن
خصال	Khassal	اُع	خصلت کی جمع' عادتیں
خفتان	Khaztan	اُع	ایک قسم کا کرتا جو زرہ کے نیچے پہنتے ہیں
خضرت	Khizret	ع	شادابی' ہریالی' سرسبزی
خضیب	Khazib	ع	رنگا ہوا' رنگین
خضراء	Khizra	ع	سرسبز' ہری گھاس' آسمان
خطابہ	Khitabah	ع	تقریر کرنے والی' خطاب کرنے والی
خطمی	Khatmi	ع	ایک درخت کا نام
خطیرہ	Khatira	ع	بزرگ' عظیم' بڑی
خطیبہ	Khatiba	ع	تقریر کرنے والی' مقررہ' وعظ کرنے والی
خطفہ	Khitfa	ع	آنکھوں کو خیرہ کرنے والی بجلی کی تیز چمک
خفتہ	Khufta	ف	سویا ہوا' خوابیدہ
خفسا	Khafsa	ع	ہرنی
خفیفہ	Khafifa	ع	چھوٹی
خلائق	Khalaique	اُع	خلق کی جمع' مخلوقات' آفرینش لوگ
خلت	Khulat	اُع	محبت' دوست' سبز خوراک
خلخال	Khalkhal	اُع	پازیب' پائل
خلیفہ	Khalifa	ع	جانشین
خلیقہ	Khaliqa	ع	ملنسار' خوش اخلاق' پیدا کی ہوئی مخلوق
خلیط	Khalit	ع	شریک' ساتھی' شامل

marfat.com
Marfat.com

خلیلہ	Khaleela	ع	دوست
خلود	Khalud	ع	دوام ہمیشگی ابدی
خلعت	Khilt	ع	دوستی محبت دوست
خلق	Khalq	ع	طبیعت خوش خوئی
خلوت	Khalwat	ف	تنہائی
خلد	Khuld	ع	دائمی ابدی جنت بہشت
خمرا	Khamra	ف	چٹائی بنانے والا مسلمان کمہار ایک چھوٹا سا پرندہ
خمیدہ	Khamida	ف	جھکاؤ ٹیڑھا
خمیلہ	Khameela	ع	کالی گھٹا
خمیس	Khamis	ع	جمعرات
خمسہ	Khamsa	ع	پانچ
خوانین	Khawaneen	ف	خان کی جمع ماں جائی
خواہر	Khawaher	ف	ہمشیرہ بہن
خونزہ	Khonza	ف	احمد نگر کے حکمران حسین نظام شاہ کی بیگم کا نام جو بڑی دانشمند جرأت مند اور بہادر تھی۔ مشہور خاتون چاند بی بی اسی خونزہ ہمایوں کی بیٹی تھی۔
خوش	Khush	ف	شاداب ناضی
خوش اقبال	Khush Iqbal	ف	بختاور خوش نصیب اقبال مند
خوش الحان	Khush-ul-Han	ف	سریلا اچھی آواز والا خوش گلو
خوش بخت	KhushBakht	ف	اچھے مقدر والی اچھی قسمت والی

marfat.com
Marfat.com

خوش اختر	Khush Akhter	ف	اچھے مقدر والی' خوش بخت' خوش نصیب' خوش قسمت
خوشیز	Khushiz	ف	انتہائی خوش
خوش گل	KhushGull	ف	حسین' خوبصورت
خوشتر	Khushter	ف	مسرور' نہایت خوش وخرم' شاداں
خوشدل	Khushdil	ف	شادمان' راضی' مسرور' بشاش' شاداب
خوشنودہ	Khushnooda	ف	پر مسرت' راضی' مسرور' خوش
خوشنودی	Khushnoodi	ف	رضامندی' خوشی
خوباں	Khuban	ف	خوبصورت' حسین' شکیلہ' حسن' خوبصورتی
خولہ	Khola	ع	خیال' تصور' دھیان' اہل' قابل' منتظم۔ حضور نبی کریم ﷺ کی خالہ کا نام۔
خور	Khor	ف	خورشید کا مخفف' سورج' مشرق' گرگٹ
خورسند	Khursand	ف	خوش' شادماں' شاد' آنند
خورشید	Khurshid	ف	آفتاب' سورج
خورشیدہ	Khurshida	ف	سورج' روشنی
خورشید لقا	Khurshid Laqa	ف	خوبصورت' محبوب' حسین وجمیل محبوب
خویش	Khawish	ف	قریب کا رشتے کا' اپنا' خود' آپ' داماد
خیبر شکن	Khaibar shikan	ف	حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب خیبر کے فاتح ہونے کی وجہ سے یعنی خیبر توڑنے والا
خیاباں	Khiaban	ف	پھلواری' کیاری' باغ کے درمیان پگڈنڈی
خیال	Khial	ع	تصور' دھیان
خیامہ	Khiama	ع	خیمے والی

marfat.com

Marfat.com

خیزت	Kheezat	ع	عقلمند
خیزش	Khaizish	ف	اٹھنا' کودنا
خیزران	Khizran	ت	بید بانس' نرم لکڑی' نیزہ' تیسرے عباسی خلیفہ مہدی کی فیاض اور رحم دل بیوی ملکہ خیزران جو خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ تھی۔
خیراتی	Khairati	ف	خیرات سے منسوب' مفت کا
خیرالامم	Khar-ul-umam	ع	امت مسلمہ' بہترین امت
خیراندیش	Khairandash	ف	خیرخواہ' بھلائی چاہنے والا
خیرسلا	Kharsalla	ع	خیریت
خیرہ	Khaira	ع	شوخ چشم' چکا چوند ہونا' حیران و پریشان' متحیر' مشہور تابعی حضرت خواجہ حسن بصریؒ۔ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی شاگرد تھیں۔
خیرالنساء	Khair-un-Nisa	ف	خواتین میں بہتر' مشہور عالم دین مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی والدہ کا نام سیدہ خیرالنساء جو قرآن پاک کی حافظہ تھیں
خیر	Khair	ع	نیکی' اچھائی' بھلائی
خیط الابیض	Khaitul Abyz	ع	صبح کا اجالا' صبح کی روشنی
خیرو	Khiru	ف	زرد رنگ کا پھول

marfat.com
Marfat.com

د

داث	Dat	ا	ہجوم، گہرا، سخت، مضبوط
داماء	Dama	ف	دریا، سمندر
داد	Dad	ا،ف، ع	عدل، انصاف، بخشش، آفرین، واہوا، فریاد، پاداش
دادبخش	Dadbakhsh	ف	عادل، منصف
دادبخشی	Dadbakhshi	ا،ف	عادل وانصاف
دادرس	Dadrass	ف	فریاد سننے والا، مصنف، جج قاضی
دادگستر	Dadkusstar	ف	منصف، خداتعالیٰ
دائمہ	Daima	ع	ہمیشہ رہنے والی، ابدی، ہمیشہ
داملہ	Damla	ع	تواضع کرنا، نرمی سے پیش آنا
دامیہ	Damia	ف	شکار کرنے والی
داجن	Dajan	ع	ملی ہوئی بکری، پانی کھینچنے والا
داجیہ	Dajia	ف	اندھیری رات
دابرہ	Dabra	ف	عقب میں آنے والی، پیچھے پیچھے چلنے والی
دارباز	Darbaz	ف	نٹ بازی گر، مداری
دارہ	Dareh	ف	دائرہ، ہالہ
دارياء	Darya	ع	جاننے والی، حاجب نعمت
داستوانہ	Dastwana	ف	عورتوں کا کنگن
دائبان	Daeban	ع	رات دن
دائنہ	Daina	ف	قرضہ دینے والی
دانست	Danist	ا،ہ	دانش، سمجھ، واقفیت، علم

marfat.com
Marfat.com

دانش	Danish	ف	سمجھ، شعور، عقل
دانیا	Dania	ع	سخی دریادل، فیاض، قریب ہونے والی
دالیہ	Dalia	ت	خوبصورت پھول
دارادہ	Darada	ف	فریفتہ، عاشق
دارائی	Darai	ف	ریشمی کپڑا، حکومت، حکمرانی
دامان	Daman	ف	پلو، آنچل، کنارہ، دامن
داوری	Dawri	ف	معاملہ، حکومت
داعصہ	Daasa	ع	عزت میں مقابلہ کرنا
داسا	Dasa	ع	لونڈی، کنیز
دارمیۃ	Darmita	ع	حضرت امیر معاویہؓ کے عہد حکومت کی ایک جرأتمند خاتون دارمیہ جو دارمیۃ الجونیہ کے نام سے مشہور تھیں۔ بنو کنانہ سے تعلق رکھتی تھیں اور مکہ مکرمہ میں رہتی تھیں۔ نیک دل مسلمان خاتون تھیں۔ تابعیات میں شمار ہوتا ہے۔
دبور	Dubur	ع	بادِ صبا، بادِ نسیم
دبیر الملک	Dabeer-ul mulk	ا، ع، ف	سیکرٹری آف سٹیٹ، شاہی محرر، عہد مغلیہ کا ایک خطاب
دجلہ	Dajla	ع	عراق کا ایک دریا
دخاس	Dikhass	ع	بہت زیادہ زرہ جس کے حلقے قریب قریب ہوں
دختر	Dukhtar	ف	بیٹی
دختر عمران	Dukhtar-e-Imran	ع	حضرت مریم علیہ السلام
دخترک	Dukhtrik	ف	چھوٹی لڑکی
دخلہ	Dakhla	ت	قطرہ

marfat.com

Marfat.com

دربہ	Darba	ع	ہر کام میں دلیری کرنا' رواج' دستور
درع	Dirha	ع	زرہ
درمانہ	Dermana	ف	چارہ گر
درخشندہ	Derkhshanda	ف	چمکدار' روشن' منور
دُرہ	Dura	ع	بہت بڑا موتی' حضرت ام سلمہؓ کی بیٹی کا نام جو پہلے شوہر ابوسلمہ عبدالاسد سے تھیں۔
دُرِثمین	Dur-E-Samin	ف	گراں قدر موتی' نہایت بیش قیمت موتی
درگا	Dargah	ا'س	ہندوؤں کی دیوی بھوانی' بدصورت عورت
درونہ	Daruna	ف	سینہ' دل' قلب
دُریاب	Duryab	ف	سمندر
دریابار	Daryabar	ف	سخی' فیاض' بہت برسانے والا
دردنہ	Durdna	ف	دل' سینہ
دردانہ	Durdana	ف	موتی کا دانہ
درقہ	Durqa	ف	سپر' ڈھال
درخشاندہ	Derkhshanda	ف	چمکدار' منور' روشن
درخو	Durkhu	پشتو	سیپ
درخور	Darkhor	ف	لائق' قابل' سزاوار' رسائی' پہنچ
درشنا	Darshna	ف	نظر' روشن
درشہوار	Dur-E-Shahwar	ف	بہت بڑا موتی' شہنشاہوں کے لائق موتی
درایت	Darayat	ا'ع	سمجھ' عقل (حدیث) وہ اصول جن کا مقصد کسی روایت کو عقلی طور پر پرکھنا ہے

marfat.com

Marfat.com

دراں	Durran	ف	پھاڑنے والا
درازی	Darazi	اُف	طوالت' لمبائی
دراک	Derrak	ع	ذہین' ہوشیار' بات کی تہہ تک جانے والا
درافشاں	Durafshan	ف	موتی بکھیرنے والی
درنہ	Durna	ع	شمشیر' تلوار
درقا	Durqa	ف	بادل' ابر
درخشاں	Darkshan	ف	چمکدار' روشن' منور
دُریا	Durya	ف	موتی' لعل' گوہر
دروج	Darooj	ع	جلدی سے گزر جانے والی ہوا
درنایاب	Dur-E-Nayab	ع	نایاب موتی' بے مثل موتی
درشکا	Durshaka	ار	زندگی' جان' روح' حیات
درخش	Darekhsh	ف	بجلی' چمک' روشن' منور
دُربہ	Durba	ع	دستور' رواج' ہر کام میں جرأت کرنا
درناسفتہ	Dur-E-Nasafta	ف	کنواری لڑکی' دوشیزہ' بغیر سوراخ کے موتی
درایت	Derayat	ع	دانائی' دانش' عقل' شعور' سمجھ
درپنی	Derpani	ھ	چھوٹا شیشہ' چھوٹا آئینہ
دُری	Duri	ع	روشن بڑا ستارہ
درنگ	Darang	ف	تاخیر' دیر' توقف
دری	Dari	اُہ	لونڈی جو لڑائی میں ہاتھ آئی ہو' کنیز چھنال
دسام	Disam	ع	شیشی یا بوتل کے ڈاٹ
دستیہ	Dastiya	ع	علی' عمو' بخشش' بہت

marfat.com
Marfat.com

دستین	Dastin	ف	ہاتھ کا کنگن
دستینہ	Dastina	ف	ہاتھ کا کنگن' شاہی فرمان
دستوانہ	Dastawana	ف	عورتوں کا کنگن
دسرہ	Desra	ع	نیزہ مارنا
دسیعہ	Dasia	ع	عمدہ' بہت' بخشش
دسعید	Daseed	ع	بہت اعلیٰ' عمدہ' بخشش' نفیس
دستیار	Dastyar	ف	معاون' مددگار
دستنبو	Destambu	ف	خوشبو کا گلدستہ
دشا	Disha		حالت' کیفیت' زمانہ' عمر' نصیب' گت
دشکا	Dushka	ر	پیاری' عزیزہ
دشن	Dashan	ع	عطا کرنا' دینا
دُشنہ	Dushna	ف	کٹاری' خنجر
دشیا	Dashya	ع	مبارک روز' سعید دن
دفص	Dafas	ع	چمک اور نرمی
دلربا	Dilruba	ف	دل کو بہلانے والی' دل لبھانے والی
دلشاد	Dilshad	ف	پر مسرت' شادمان' مسرور' مگن' خوش و خرم' اپنے وقت کی مشہور ملکہ دلشاد خاتون جو فارس و عراق کے حکمران شیخ حسن ایلکانی کی اہلیہ تھی۔ بڑی دانشمند اور صاحب تدبیر خاتون تھی۔ آٹھویں صدی ہجری کی یہ مشہور مسلمان خاتون بغداد میں فوت ہوئی اور نجف اشرف میں دفن کی گئی۔
دلفریب	Dilfaraib	ف	فریفتہ کرنے والا
دل شگفتہ	Dilshagufta	ف	خوش دل' بشاش
دل پذیر	Dil Pazir	ف	دل پسند' دل کو بھانے والی

marfat.com

Marfat.com

دل آرام	Dilaram	ف	دل کو راحت دینے والی، محبوب، پیاری
دل افروز	Dilafroz	ف	دل کو منور کرنے والی، دل کو روشن کرنے والی
دل گیر	Dilgeer	ف	مغموم، غمگین
دلدار	Dildar	ف	دلبر
دلدادہ	Dildadah	ف	عاشق، فریفتہ
دلکش	Dilkash	ف	دلچسپ، خوشنما، دل کو کھینچنے والی
دلکشی	Dilkashi	ف	خوشنما
دلساز	Dilsaz	ف	دل کو لگنے والی، دل پسند
دل آراء	Dilara	ف	دل کو آراستہ کرنے والی، دل کی آرائش کرنے والی
دل آویز	Dilawaiz	ف	دل پسند، پسندیدہ، مرغوب
دل پسند	Dilpasand	ف	پسندیدہ، دل کو بھانے والی
دلکشا	Dilkusha	ف	دل کو کھولنے والی، کھلے دل والی، فراخ، وسیع، کشادہ
دل نہاد	Dilnehad	ف	جس پر دل آجائے، معشوق
دلنواز	Dilnawaz	ف	من پسند، دل کو بھانے والی
دلبر	Dilber	ف	محبوب، پیارا، دلربا
دلارا	Dulara	ا	پیاری، لاڈلی، عزیزہ
دلارام	Dilaram	ف	دل کو سکون دینے والی
دلام	Dalam	ع	سیاہی، سیاہ چیز
دلاص	Dilas	ع	نرم و چمکدار
دلال	Dallal	ف	غمزدہ، ناز
دلاور	Dilawar	ف	شجاع، بہادر
دلص	Daliss	ع	ہموار زمین بہت پھسلنے والا
دلیل	Daleel	ع	راہ نما، راہ

marfat.com
Marfat.com

دماس	Damas	ع	پوشیدہ اور پنہاں کردینے والی چیز
دمامہ	Damama	ف	رونق نظارہ
دمریزی	Damrazi	ا	وہ پھل جو درخت میں موسم کے بعد یا توڑنے کے بعد آئے
دملہ	Damla	ت	بوند قطرہ
دمساز	Damsaz	ف	ساتھی رفیق دوست ہمراز
دمیشا	Damyasha	ا (قدیم)	مالدار امیر
دمیہ	Damia	ع	خیر و برکت بھلائی اچھائی
دمنہ	Damna	ع	سبزہ ہریالی
دمینا	Damina	ھ	امیر رئیس دولت مند مالدار
دنیاز	Danyaz	عبر	سمندر
دوسی	Dossi	ا (قدیم)	داسی لونڈی باندی
دولت	Dolat	ع	مال مقدر نصیب اقبال حکومت سلطنت مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی نانی کا نام دولت ایساں جو بڑی بیدار مغز دور اندیش اور دانشمند خاتون تھی۔
دوشینہ	Doshina	ف	پچھلی رات کی
دوار الشمس	Dawar-ul-Shams	ع	سورج مکھی
دوشا	Dusha	ر	جان روح زندگی حیات
دھرن پار	Dahranpar	ا (قدیم)	دھرنے والا
دھمپال	Dhampal	ا (قدیم)	بہت موٹا
دھیرک	Dheerak	ا (قدیم)	تسلی سہارا
دینپا	Deenpa	ع	روشن کرنا چمکنا
دینیز	Diniz	ت	سمندر

marfat.com
Marfat.com

دیناز	Dinaz	عبر	سمندر
دیباج	Dibaj	ف	باریک ریشمی کپڑا
دیبی	Debi	اُہ	ملکہ رانی دیوی
دیلک	Dilak	ت	آرزو خواہش امنگ مستقبل
دیون	Daiwan	یو	زمین وآسمان کی بیٹی
دیویا	Daivia	عبر	محبوب معشوق
دیویتا	Diveta	عبر	محبوب پیارا
دیبارو	Dibaru	ف	محبوب دیبا جیسے نرم چہرے والی
دیماء	Dima	ع	دائمی ابدی تیز بارش
دیبا	Diba	ف	باریک ریشمی کپڑا
دیپا	Deepa	ہ	چراغ دیا
دیناء	Dina	ع	اطاعت مالک بنا دینا
دیمہ	Dima	ف	گال رخسار
دیانت	Dayanat		ایمانداری راستی امانت
دیانہ	Diyana	ع	دین مذہب ملت
دیال	Dayal	ہ	رحمدل مہربان

marfat.com

Marfat.com

ذ

ذابلہ	Zabela	ع	مست آنکھوں والی' نیم باز آنکھوں والی
ذات النطاقین	Zat-ul-nataqeen	ع	حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق کا لقب ہے
ذانبہ	Zanba	ع	عقب میں آنے والی' پیچھے چلنے والی
ذارعہ	Zaraa	ع	سبب' وسیلہ' مل جانا' واسطہ
ذابرہ	Zabra	ع	عالم' فاضل' علم جاننے والی
ذاخرہ	Zakhira	ع	موٹی' صحت مند
ذاکرہ	Zakira	ع	ذکر کرنے والی
ذابل	Zabel	ع	مست آنکھیں' نشیلی آنکھیں' نیم باز آنکھیں
ذاعہ	Zaa	ع	وسیلہ
ذائل	Zail	ع	لمبے دامن کی زرہ' لمبی دم کا گھوڑا' زرہ کے باریک حلقے
ذاہرہ	Zahira	ع	عالم' فاضل
ذاہلہ	Zahla	ع	نشیلی آنکھوں والی
ذبالہ	Zabala	ع	چراغ کی بتی' فتیلہ' دیے کی بتی
ذبال	Zabal	ع	دیے کی بتی' چراغ کی بتی
ذیب	Zabib	ع	بھیڑیا
ذخرہ	Zakhra	ع	ذخیرہ
ذرع	Zara	ع	قوت' خصلت' عادت
ذروت	Zarut	ع	نہایت بلند و بالا جگہ' اونچی جگہ' چوٹی
ذروت	Zardat	ع	اونچی جگہ' پہاڑ کی چوٹی

marfat.com
Marfat.com

زردس	Zardas	ع	چوٹی' بلندی
ذرہ	Zara	ع	تھوڑی سی
ذرینہ	Zareena	ع	خوبصورت
ذریہ	Zaraya	ع	اولاد' نسل' تخم
ذریت	Zarayat	ع	تخم' اولاد' نسل
ذر	Zer	ع	معمولی سی' تھوڑی سی
ذربہ	Zerba	ع	تیز شمشیر' تیز تلوار
ذرفہ	Zerfa	ع	آنسو کا بہاؤ
ذریرہ	Zarira	ع	خوشبو' ایک قسم کی مہک
ذراع	Zraa	ع	تیز کاٹنے والی
ذفرہ	Zafra	ع	حضرت ذفرہؒ کا شمار تابعیات میں ہوتا ہے۔ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی شاگرد تھیں۔
ذکرا	Zikra	ع	نصیحت' فائدہ
ذکرہ	Zakra	ع	پھرتی' چستی' تیزی
ذکیرہ	Zakira	ع	بہت ذکر کرنے والی' بہت یاد کرنے والی
ذکی	Zaki	ع	تیز فہم' ذہین
ذکیہ	Zakia	ع	تیز فہم' سمجھدار' ذہین' فہم و فراست رکھنے والی
ذکاء	Zaka	ع	ذہانت
ذکاوت	Zakawat	ع	دانائی' فہم' سمجھ' ذہانت' شعور' تیز فہمی
ذلافت	Zulafat	ع	عقلمند' فہم
ذلاقت	Zalaqat	ع	فصاحت' بلاغت' تیزی
ذلول	Zalul	ع	تابعدار' مطیع' فرمانبردار
ذمار	Zimaar	ع	بہادری' جرأت' دلیری' شجاعت

marfat.com
Marfat.com

زمام	Zemam	ع	حق واجب' حرمت وغرت' آبرو
زمامہ	Zamama	ع	بقایا' باقی' آبرو' بہادر' جرأت
زمیم	Zameem	ع	شبنم
زنوبیا	Zanobia	ع	باافراط پانی
ذوالاحترام	ZulEhtram	ع	صاحب احترام
ذوالنورین	Zu-Al-Nooran	ع	دونوروں والا' عثمانؓ کالقب کیونکہ رسول اللہ کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں
ذوبانی	Zobani	ا'ع	بے قراری' بے چینی
ذوفنون	Zufnoon	ع	وہ جو کوئی فن جانتا ہو' عالم' فاضل پرفن' عیار' چالاک
ذوقبہ	Zooqeba	ع	مرغوب
ذوقیہ	Zoqia	ع	شوق سے' ذوق سے' مرغوب' پسندیدہ
ذہالہ	Zuhaala	ع	چراغ کی بتی' دیے کی بتی
ذہب	Zaheb	ع	سونا
ذہین	Zahin	ع	ہوشیار' تیز' فہم' زیرک' ایک نام ذہین طاہرہ
ذی	Zie	ع	مالک' والد' مرکبات میں جیسے ذی شان
ذی شان	Zishan	ف	شوکت والا
ذیالہ	Ziala	ع	چراغ کی بتی
زینب	Zeenab	ع	حضرت فاطمہؓ کا ایک نام

marfat.com
Marfat.com

ر

رابعہ	Rabia	ع	چوتھی' چہارم' مشہور عارفہ زاہدہ حضرت رابعہ بصریؒ۔ آپ کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں۔ اس لیے آپ کا نام رابعہ مشہور ہو گیا۔ عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئیں۔ بصرہ میں ہی وفات پائی اور بصرہ میں ہی مدفون ہوئیں۔
رابیہ	Rabia	ع	اونچی زمین' بلند زمین
رابحہ	Rabiha	ع	نفع بخش خرید و فروخت' فائدہ مند تجارت
رابط	Rabit	ع	ربط پیدا کرنے والا
رائحہ	Raiha	ع	مہک' خوشبو
رامین	Ramin	ف	تابع' مطیع' فرمانبردار' تابعدار' اطاعت گزار
راکبہ	Rakba	ع	سواری کرنے والی
راکد	Rakid	ع	اپنی جگہ ٹھہری ہوئی چیز' برقرار رکی ہوئی چیز
راکع	Rakey	ع	رکوع کرنے والا' عبادت کرنے والا
راحم	Rahim	ع	مہرباں
راحیدہ	Rahida	ع	نگہبان' رسد پہنچانے والی
راحمہ	Rahma	ع	مہربان' رحم کرنے والی
راشدہ	Rashida	ع	ہدایت والی' ہدایت یافتہ
رازقہ	Razqa	ع	رزق دینے والی
رافغہ	Rafigha	ع	چمکنے والی' روشن
رافقہ	Rafqa	ع	حلیمی کرنے والی' نرمی کرنے والی' مہربانی کرنے والی

marfat.com
Marfat.com

راتبہ	Ratba	ع	محکم' ساکن' ثابت' قائم
رائیل	Raeel	ع	زلیخا کا نام
راشقہ	Rashqa	ع	تیر مارنے والی
راضیہ	Razia	ع	راضی' رضامند' صابر' شاکر' خوش ہونے والی' خوش کرنے والی
راستینہ	Rastina	ع	درست' واقعی' حقیقی' راست
راحجہ	Rahija	ع	جھکنے والی
راستی	Rasti	ع	سچائی' ٹھیک ہونا' سیدھا ہونا' درست ہونا' ملتان کے مشہور بزرگ حضرت رکن عالم رکن الدینؒ کی والدہ ماجدہ کا نام جو قرآن کی حافظہ تھیں اور عابدہ زاہدہ تھیں۔ ہر روز ایک قرآن مجید ختم کرنے کا معمول تھا۔ مزار مبارک ملتان میں واقع ہے۔
راشفہ	Rashfa	ع	ہمراہ' چلنا' ساتھ چلنا
رافیہ	Rafia	ع	پناہ لینا' منافقت کرنا
رافعہ	Rafia	ع	اٹھانے والی' بلند و بالا کرنے والی' اونچا کرنے والی
راحت	Rahat	ع	سکون' آرام' چین
رافہ	Rafa	ع	راحت و چین کی زندگی گزارنے والی' آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے والی
راجعہ	Rajia	ع	رجوع کرنے والی' واپس ہونے والی
راجنی	Rajni	ہ	رانی' ملکہ
رافتہ	Rafta	ع	کرم' فضل' مہربانی
راسیتہ	Raseeta	ع	حقیقی راستہ
راسیہ	Rasia	ع	پائیدار' مضبوط' محکم' ثابت
راویہ	Ravia	ع	روایت بیان کرنے والی
راصدہ	Rasida	ع	نگہبان' نگرانی کرنے والی' رسد پہنچانے والی

Marfat.com
Marfat.com

راصی	Rasi	ع	مطیع، فرمانبردار
راہبہ	Rahibah	اُ ع	عیسائی، تارک الدنیا عورت
راہنہ	Rahna	ع	شرط لگانے والی
راسبہ	Rasba	ع	تحمل والی بردبار، حلیم، نرم
راہین	Rahin	ع	فرمانبردار، تابعدار، مطیع، ماتحت، تابع
راجیہ	Rajia	ع	سائلہ، امیدوار
راقبہ	Raqba	ع	نگہبانی کرنے والی، حفاظت کرنے والی
راجلہ	Rajla	ع	پیدل چلنے والی
راحل	Rahil	ع	کوچ کرنے والا مسافر
راحلہ	Rahla	ع	مددگار، مسافرہ، معاون، مدد دینے والی
رادھا	Radha	اُ ہ	رادھکا، کرشن جی کی ایک پیاری گوپی، کامیابی، قدرت
رادفہ	Radifa	ع	پچھلی آنے والی چیز
رادہ	Radeh	ع	خوبصورت عورت، حسین عورت
رامی	Rami	ف	تابعدار، اطاعت گزار، مطیع، فرمانبردار
رافقہ	Raffa	ع	روشن، منور، چمکنے والی
راسہ	Rasa	ع	دولت مند بنانا، رئیس بنانا، امیر بنانا
راعنہ	Raana	ع	خوبصورت شہزادی، حسین شہزادی
راعیہ	Raia	ع	بہت الفت کرنے والی، بہت محبت کرنے والی
راجی	Raji	ع	امیدوار، نویں صدی ہجری کی ایک نامور خاتون راجی بی بی جو جونپور کے حکمران سلطان محمود شاہ کی اہلیہ تھیں۔ نہایت نیک اور دیندار خاتون تھیں۔ آپ نے جانپور میں بہت سی مساجد، مدرسے اور خانقاہیں تعمیر کروائیں
رائمہ	Raima	ع	تلاش کرنے والی، چاہنے والی

marfat.com

Marfat.com

رائق	Rayaq	ع	خوبصورت' اچھی چیز
رائقہ	Raiqa	ع	حسین' خوبصورت' دل کو بھانے والی
رانی	Rani	ہ	ملکہ
رانیا	Rania	ہ	ملکہ
رامشہ	Ramsha	ع۔ف	مسرور' خوش' مطمئن' خوش ہو کر گانے والی
راگنی	Ragni	ع	راگ' گیت' گانا
رافضہ	Rafiza	ع	بلند کرنے والی
رافضہ	Rafza	ع	چمکنے والی
رافضہ	Rafza	ع	کام پر لگانا
رامش	Ramish	ف	چین و سکون' آرام و راحت' خوشی میں گانا
رادفہ	Radifa	ع	پیچھے آنے والی
راقبہ	Raqiba	ع	انتظار کرنے والی
راغبہ	Raghba	ع	خواہش مند
ربید	Rabaid	ع	دلیر
ربیسہ	Rabisa	ع	جری' دلیر' بہادر' شجاع' جرأت مند
ربانہ	Rabana	ع	چھوٹا ساز' چھوٹا رباب
ربایہ	Rabaya	ع	وعدہ' پیمان' عہد' اقرار' قول
رباء	Raba	ع	فائدہ' منافع' نفع
ربطہ	Rabta	ع	پختگی کے ساتھ باندھنا' پکا باندھنا' مضبوط باندھنا
رباب	Rabab	ع	ایک مشہور ساز کا نام
ربیط	Rabit	ع	حکیم درویش
ربیع	Rabi	ع	بہار
رباض	Rabaz	ع	شیر

marfat.com
Marfat.com

ربیعہ	Rabia	ع	موسم بہار کی چیز مشہور فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہمشیرہ کا نام ربیعہ خاتون جو بڑی علم و فاضل والی خاتون تھیں۔ آپ نے دمشق میں جبل قاسیون میں ایک عظیم الشان مدرسہ تعمیر کروایا جو مدرسہ خاتونیہ کے نام سے مشہور ہے اور آج تک موجود ہے۔ آپ کا مزار مبارک اسی مدرسہ کے اندر واقع ہے
رتبہ	Rutba	ع	مرتبہ عہدہ مقام
رتل	Rutal	ع	خوبی زیبائش دانت کی سفیدی اور ہمواری درست بات
رثمہ	Rasma	ع	وادی کا پہلو وادی کا درمیان
رجلی	Rajli	ع	پیادہ عورت
رجیحہ	Rajiha	ع	جھکنے والی
رجوہ	Rajooh	ع	ڈھارس رکھنا امید رکھنا بھروسہ رکھنا آس رکھنا
رجلہ	Rijla	ع	مہلت دینا
رجاء	Rijah	ع	آس امید توقع بھروسہ
رجاس	Rajas	ع	سمندر
رجاب	Rajab	ع	عزت کرنا احترام کرنا تعظیم کرنا
رجابہ	Rijaba	ع	کشادگی
رجیبہ	Rajia	ع	احترام کرنا تعظیم کرنا عزت کرنا
رجا	Raja	ع	کنارہ سرا طرف جانب طلب کرنا مانگنا
رجائی	Rajai	ع	پرامید امید رکھنے والی
رجاہ	Rija	ع	امید بھروسہ

marfat.com
Marfat.com

رجب	Rajab	ع	ساتواں اسلامی مہینہ' نویں صدی ہجری کی نامور محدثہ گزری ہیں علم حدیث میں بلند مقام رکھتی تھیں۔ بہت سے علمائے کرام آپ سے حدیث کا سبق لیتے تھے۔ رجب بی بی کا شمار علامہ جلال الدین سیوطی کے عہد کی نامور خواتین میں ہوتا ہے۔
رچنا	Rachna	ہ	فطرت' محبت' گیت
رحاب	Rahaab	ع	فراخی' کشادگی
رحالہ	Rahala	ع	چمڑے کا زین' قرآن شریف کا رحل
رحبہ	Rehba	ع	کشادہ ذہن
رخیمہ	Rehneema	ع	نرم آواز والی
رحیمہ	Rahima	ع	رحم کرنے والا' مہربانی کرنے والی
رحیلہ	Rahila	ع	کوچ کرنے والی' سفر کرنے والی' مسافرہ
رحماء	Rehma	ع	مہربان عورت
رحمت	Rahmat	ع	بخشش' کرم' مہربانی
رحین	Rahin	ع	کریم' مہربان' پکا' مضبوط
رحمہ	Rehma	ع	رحیم ہونا' رحم دل ہونا' ترس کھانا
رُحابہ	Ruhaba	ع	فراخی' کشادگی' وسعت
رُحماء	Ruhma	ع	مہربان' کریم
رُحاب	Ruhab	ع	فراخی' وسعت' کشادگی
رحیل	Rahil	ع	حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام
رحل	Rahal	ا' ع	مسکن' منزل' اسباب' کوچ
رحلہ	Rahla	ع	کوچ' سفر
رحیق	Raheeque	ا' ع	خالص شراب
رخاخ	Rakhakh	ع	خوش عیشی' نرم زمین' فراخ زمین

marfat.com
Marfat.com

رخام	Rakham	ع	سفید اور نرم پتھر
رخامہ	Rakhama	ع	چھوٹا سنگ مرمر
رخیمہ	Rakhima	ع	نرم آواز والی، حلیم آواز والی
رُخسانہ	Rukhsana	ف	صبح صادق، طلوع صبح
رخش	Rakhsh	ف	چمک "شعاع" کرن
رخش بہار	Rakhshe-Bahar	ف	باد بہار، ابر بہار
رخشی	Rakhshi	ف	روشنی، کرن، چمک، اجالا
رُخام	Rukham	ع	سفید اور نرم پتھر
رُخسارہ	Rukhsara	ع	گال کا بالائی حصہ
رخشندہ	Rakshunda	ف	روشن، منور، چمکیلی، درخشاں، چمکتی ہوئی
رخ	Rukh	ف	توجہ، منہ، سمت
رُخسار	Rukhsar	ع	گال، عارض
رخشاں	Rakhshan	ف	روشن، چمکیلی، منور، چمکنے والی
رخشہ	Rakhsha	ف	لولیک، شعلہ
رخلہ	Rakhla	ع	تعظیم کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا
رُخامہ	Rukhama	ع	چھوٹا سنگ مرمر
رخص	Rakhs	ع	نازک، نرم
رخصت	Rukhsat	ا، ع	اجازت، منظوری، رضا، روانگی کوچ
رخود	Rikhuad	ع	نرم ہڈیوں والا، پر گوشت آدمی
رخیص	Rakhees	ع	سستا، ارزاں
رداء	Rida	ع	چادر
ردید	Radeed	ع	[illegible]

urdu...com

Marfat.com

رداء	Rida	ع	دوپٹہ' چادر' شال' اوڑھنی' حیا والی' شرم والی
ررجالس	Rarjals	ع	سمندر
رزم	Rizam	اُف	جنگ' معرکہ
رزین	Razin	ع	آہستہ' بھاری بھرکم' گراں مایہ
رزین	Razeen	ف	مضبوط' پختہ' استوار' مستحکم' قائم' پائیدار
رزاقہ	Razaqa	ع	رزق دینے والی
رزانت	Razant	ع	آہستگی' مضبوطی' پختگی
رسیع	Rasee	ع	خوشگوار زندگی
رسیلہ	Rasila	ع	بھیجی ہوئی' ارسال کی ہوئی
رِسام	Risam	ع	مصورہ' نقاش' تصویر بنانے والی
رسمین	Rasmin	ع	خاکہ' نشانی' علامت
رسمیہ	Rasmia	ع	حاکمانہ' سرکاری' نشان' نقش
رسمید	Rasmeed	ع	خاکہ' نشانی' علامت
رسمید	Rasmeed	ع	سرکاری' حکومتی' نقش' نشان
رسام	Rasaam	ع	مصور' نقاش
رسامہ	Rasama	ع	تیز رفتاری' پاؤں کے نشان چھوڑنا
رسالت	Rasalat	ع	پیغامبری' سفارت
رساں	Risan	ف	پہنچنے والا' پہنچانے والا
رسان	Rasan	ار	نرمی' آہستگی
رستمی	Rustami	ار	جرأت' بہادری' دلیری
رسیلی	Rasili	ہ	خوش مزاج' مزاحیہ' بانکی

marfat.com
Marfat.com

رشحہ	Rashaa	ع	رس' بوند قطرہ' ایران کی ایک مشہور شاعرہ رشحہ جو فارسی کے نامور شاعر مرزا احمد کشتہ کی والدہ تھی۔ صاحب دیوان تھی۔ اس کے دیوان میں تقریباً اکتیس ہزار اشعار ہیں۔
رشدہ	Rushda	ع	ہدایت والی
رشقہ	Rashqa	ع	گہری نظر سے دیکھنے والی
رشیبا	Rasheeba	ف	سچائی' راستی
رشیقہ	Rashiqa	ع	خوش کلام' خوش اندام' خوش مزاج' خوش طبع
رشتیا	Rashtia	ف	راستی' سچائی
رشادت	Rashadat	ع	ہدایت' سیدھی راہ' صراطِ مستقیم
رشافت	Rashafat	ع	جسمانی حسن والی
رشیدہ	Rashida	ع	ہدایت یافتہ' ہدایت کی گئی
رشاقت	Rashaqat	ع	جسمانی خوبصورتی' جسمانی حسن و جمال
رشاء	Rasha	ع	ہرن کا بچہ
رُشدہ	Rushda	ع	ہدایت یافتہ' ہدایت والی
رَشقہ	Rashqa	ع	گہری نگاہوں سے دیکھنا
رشاد	Rashad	ع	راہ راست پر آنا' ہدایت پانا
رصفیہ	Rasfia	ع	نظیر' دوست
رصین	Rasin	ع	مہربان' ہمدرد' مضبوط' مستحکم
رصیفہ	Rasifa	ع	رفیقہ' حبیبہ' ساتھی' دوست' نمونہ' مثال' نظیر
رضیفہ	Razeefa	ع	دوست' ساتھی

marfat.com

Marfat.com

خوش ہونے والی' راضی ہونے والی' مسرور ہونے والی' دلی کے تخت پر بیٹھنے والی پہلی اور آخری مسلمان خاتون ملکہ رضیہ سلطانہ جو سلطان قطب الدین ایبک کی نواسی اور سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی۔ اس نے تین سال تین ماہ تک حکمرانی کی۔	ع	Razia	رضیہ
رضامندی' بہشت کا دربان	ع	Rizwan	رضوان
خوشنودی' رضامندی	ع	Rizwana	رضوانہ
خوش ہونا' راضی ہونا' مسرور ہونا' خوشنودی	ع	Rizwa	رِضوہ
امام علی رضا سے نسبت رکھنے والا یا انکی اولاد	ع	Rizvi	رضوی
خوشنودی' رضامندی	ع	Riza	رِضا
شیر خوار بچہ' سلطان نورالدین محمود زنگیؒ کی اہلیہ کا نام رضیع خاتون جو نہایت نیک سیرت خاتون تھی۔ دمشق میں اس نے ایک عظیم الشان دینی مدرسہ تعمیر کروایا تھا۔ جب سلطان نورالدین محمود زنگیؒ کا انتقال ہو گیا تو انتقال سے تین سال بعد رضیع خاتون نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے نکاح ثانی کر لیا۔	ع	Razi	رضیع
تیز رفتار گھوڑی	ع	Ritilba	رطلبہ
خوش' مسرور' نعمت' عیش	ع	Rada	رعدہ
انعام واکرام	ع	Raeena	رعینہ
آگے رہنے والی' ہراول	ع	Raila	رعیلہ
خوشنما' زیبا' بناؤ سنگار کرنے والی عورت' تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی ایک مشہور خاتون بیگم رعنا لیاقت علی خان۔	ع	Rana	رعنا
ہلکی بارش' بوندا باندی	ع	Raoofa	رعوفہ

marfat.com

Marfat.com

رعاضی	Raazi	ع	فیاض
رعافی	Raafi	ع	سخی فیاض
رِطلہ	Ritla	ع	تیز دوڑنے والی گھوڑی
رغیسہ	Raghisa	ع	برکت' نعمت' انعام
رغدہ	Raghda	ع	مسرور' پرمسرت' خوش' راضی' نعمت' برکت
رغیبہ	Raghiba	ع	مائل ہونے والی' رغبت کرنے والی
رِفخہ	Rafkha	ع	شادی کی مبارک' بیاہ کی مبارک
رفعت	Riffat	ع	بلندی' اونچائی
رفسانہ	Rafsana	ف	طلوع' صبح' صبح صادق
رفیہ	Rafia	ع	شفیق' بلند جگہ
رفیقہ	Rafiqa	ع	ساتھی' دوست' ہمراہی' حبیبہ
رفاس	Rifas	ع	وہ رسی جس کی اونٹ سے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں
رفال	Rafal	ع	لمبے بال
رفاہت	Rafahat	ف	سکون' آرام' آسائش' چین' راحت
رفضہ	Rifza	ع	اختلاف
رفضد	Rafzad	ع	تضاد' اختلاف' فرق
رفعت	Riffat	ع	بلندی' بالائی' اونچائی
رفخہ	Rafkha	ع	شادی کی مبارک' بیاہ کی مبارک
رفدہ	Rafza	ع	آسرا دینا' سہارا دینا' ساتھ دینا' مدد کرنا
رِفق	Rifaq	ا'ع	نرمی' مہربانی
رفقہ	Rafqa	ع	ساتھ دینے والی' مددگار' ساتھی' ہمراہی' نفع پہنچانا
رفیعہ	Rafia	ع	اونچی' بلند وبالا
رفقہ	Rufqa	ف	دوست' رفیقہ' ساتھی' ہمراہی

marfat.com
Marfat.com

رفشہ	Rifsha	ع	کشادہ' سیراب' وسیع' فراخ
رفاہ	Rafah	ع	نیکی' بھلائی' سکون آرام
رفاقت	Rafqat	ع	ساتھ' ہمراہی' دوستی
رفاعلہ	Rafala	عبر	مسیحا' زخموں کو مندمل کرنے والی
رفیف	Rafif	ع	چمکتا ہوا' نرم کپڑا
رقبہ	Raqba	ع	پڑھنے والی
رقت	Raqat	ا ع	نرمی' پتلا پن (مجازا) رونا
رقیق	Raqeeque	ع	پتلا' لطیف' نرم' ملائم
رقیمہ	Raqima	ع	چٹھی' خط' تحریر کی ہوئی چیز' نوشتہ' رقعہ
رقیہ	Ruqqia	ع	جادو' منتر
رقیہ	Raqia	ع	پڑھنے والی' حضور نبی کریم ﷺ کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ جن کا نکاح حضرت عثمان غنیؓ سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکا ہوا جو دو برس کا ہو کر وصال کر گیا پھر اور کوئی اولاد نہ ہوئی۔
رقیبہ	Raqiba	ع	نگہبان' ہم پلہ' ہمسر
رکاز	Rikaz	ع	سونے چاندی وغیرہ کی کان
رکن	Rukan	ع	کسی چیز کا بہت مستحکم کنارہ' بڑا کام' حجر اسود' ہر امر جو قوت و شوکت اور غلبہ کا باعث ہو جیسے لشکر وغیرہ' عزت' قوت' غلبہ
رکوض	Rakuz	ع	جلد تر پھینکنے والی کمان
رکیک	Rakeek	ع	سست' دبلا پتلا' نازک' ادنیٰ' نفیس
رکین	Rakin	ع	متین' سنجیدہ' استوار' مضبوط' مستحکم
رکیبہ	Rakiba	ع	ہمرکاب' شہسوار' سواری کرنے والی
رکبابہ	Rakbaba	ع	سوار' شہسوار' عورت

marfat.com
Marfat.com

رکبانہ	Rukbana	ع	شہسوار عورت
رکیہ	Rakia	ع	کنواں' ندی
رکاز	Rakaz	ع	خزینہ' دفینہ' زمین میں گڑا ہوا خزانہ
رمایہ	Ramaya	ع	تیر اندازی کرنے والی
رمتا	Ramta	ہ	گھومنے والا' آوارہ
رموز	Ramuz	ا'ع	رمز کی جمع' اشارہ' بھید' راز
رمیصا	Ramisa	ع	ایک صحابیہ کا نام جو ابوطلحہ کی بیوی تھیں۔ اور ام سلیم کے نام سے مشہور تھیں۔
رمیہ	Ramia	ع	زیادتی' فروانی' تیرنے والی
رمیلہ	Ramila	ع	سجانے والی' آراستہ کرنے والی' حضور نبی کریم ﷺ کی خالہ ام سلیم کا ایک نام۔
رمیزہ	Ramiza	ع	سمجھدار' دانشمند' باشعور
رمشاء	Ramsha	ع	حسین وجمیل' خوبصورت
رُمان	Ruman	ف	انار
رمثہ	Ramsa	ع	ٹھیک کرنا' اصلاح کرنا' درستگی کرنا
رمیثہ	Ramisa	ع	خوبصورت پھولوں کا گلدستہ' حضور نبی کریم ﷺ کی خالہ ام سلیم کا نام۔
رِمایہ	Rimaya	ع	تیراندازی
رُمانہ	Rumana	ع	چھوٹا رباب' ایک ساز کا نام
رِمیہ	Rimya	ع	بہتات' کثرت' فراوانی' زیادتی' تیراک' تیرنے والی
رمحہ	Ramha	ع	آسمانی بجلی' بجلی چمکنا
رمل	Ramil	ع	ریت

marfat.com
Marfat.com

رملہ	Rimla	ع	آراستہ کرنا' پیراستہ کرنا' سجانا' گھوڑی' حضور نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ کا اصل نام
رمزہ	Ramza	ع	غمزہ' عشوہ
رمیضہ	Rameeza	ع	چھوٹا نیزہ
رِمونا	Rimuna	ا۔س	حفاظت میں لینے والی' تحفظ دینے والی
رمنہ	Ramna	ف	سبزہ زار
رنس	Ranas	ع	شعاع' کرن
رناء	Ranaa	ع	کسی کی جانب دیکھنا' آواز کرنا' توجہ کرنا' نظر کرنا
رنگیلا	Rangeela	ا	رنگین مزاج' زندہ دل' بازکا' عیاشی
رنم	Ranm	ا۔و	آواز
رنیم	Raneem	ا۔ع	راگ کی آواز
رنین	Raneen	ع	آواز' راگ' گرہ
روشن	Roshan	ف	چمکدار' صاف' منور' تاباں' درخشاں۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کی بیٹی کا نام روشن آراء جو ملکہ ممتاز محل کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ بڑی دین دار اور نیک خاتون تھی۔
رودہ	Rudah	ع	خوبصورت اور حسین عورت' جوان
روشی	Roshi	ف	ایک قسم کا کپڑا
روبی	Rubi	لا	بیش قیمت سرخ پتھر' یاقوت' لعل
روپلہ	Roopla	ہ	حسین' خوبصورت
روپا	Roopa	ہ	خوبصورت' حسین
روشن آراء	Roshan Ara	ف	روشنی کی آرائش کرنے والی' روشنی سجانے والی

marfat.com
Marfat.com

رودابہ	Rudaba	ف	مشہور ایرانی پہلوان رستم کی ماں کا نام' ندی کا بہاؤ' بہتی ندی
رونق	Ronaq	ف	تابناکی' چمک دمک' تازگی' زیبائش
رویت	Rovait	ا' ع	صورت کا نظر آنا' نظارہ
رویدہ	Rawidah	ف	آہستگی سے کیا ہوا' نرمی سے' حلیمی سے
رومانہ	Romana	ف	محبت والی' رومان پرور' افسانوی عورت
روشنی	Roshni	ف	اجالا' نور' چمک دمک
روشن گہر	Roshan Gohar	ف	نیک سرشت' اچھی عادت والی' اچھی خصلت والی
رومان	Roman	ف	محبت کی کہانی' افسانہ' پیار کی داستان' حضرت عائشہ صدیقہؓ کی والدہ کا نام رومان بنت عامر بن عویمر جو کہ قبیلہ بنی کنانہ سے تھیں
رودکہ	Roodka	ع	حسین بنانا' خوبصورت بنانا' آرائش کرنا' زیبائش کرنا' آراستہ و پیراستہ کرنا' سجاوٹ کرنا
روفہ	Roofa	ع	مہربانی کرنے والی' شفقت کرنے والی' رحم و کرم کرنے والی
روفی	Roofi	ع	مہربانی' صابر' شفیق
روشان	Roshan	ف	روشن ستارے' درخشاں ستارے' تابندہ ستارے' منور ستارے' مشہور نامی گرامی لوگ' نامور لوگ
روحانہ	Rohana	ع	خوشبوئیں' مہک' سہولتیں' آسائشیں
رومینہ	Romina	ف	محبت پیار والی' رومان پرور
روہت	Rohat		خوبصورتی' حسن' نرمی' چہرے کی رونق یا تروتازگی
روہینہ	Rohina	ع	فولاد' آہن' لوہا
روحی	Rohi	ع	قلبی' زندگی' دلی' روح' ایک نام روحی بانو
روحہ	Rooha	ع	روح' زندگی
روشنک	Roshnak	ف	مشعل' روشن کرنے والی' روشنی جلانے والی

marfat.com

Marfat.com

روحیلہ	Rohila	ع	مسافرہ سفر کرنے والی کوچ کرنے والی
روشانے	Roshane	ف	چمکدار ستارے روشن ستارے نامور لوگ مشہور لوگ
رومیلہ	Romila	ف	آراستہ و پیراستہ کرنے والی سجاوٹ کرنے والی آرائش کرنے والی
روشنا	Roshna	ع	روشن منور تاباں درخشاں چمکنے والی
ربینا	Robeena	اُس	درخشاں شہرت والی
روبینا	Rubina	ف	چہرہ شناس
روجہ	Roja	ع	مسرت خوشی سرور فرحت
روہین	Rohin	ع	فولاد آہن لوہا
رودارہ	Rudara	ع	حسین وجمیل شکیل خوبصورت
رودایہ	Rodaiya	ف	ندی کا بہاؤ
روفیہ	Rufia	ع	شفقت والی محبت والی شفیق اونچی جگہ بلند جگہ
روین	Raween	ف	موتیا کا پھول
رویا	Roya	ع	خواب
روما	Roma	لا	گھومنے والی پھرنے والی
روشن جبین	Roshan Jabeen	ف	خوبصورت حسین پیشانی والی
رونی	Runi	ا۔س	بااثر بارسوخ اثرورسوخ والی
رولا	Rula	ٹ	مشہور شہرت یافتہ نامور نامی گرامی
روآنا	Ruana	لا	خوش اخلاق خوش مزاج شیریں
روزا	Rosa	لا	خوبصورت گلاب کا پھول
روزی	Rosei	اُف	رزق حصہ نصیب روزگار
روزینا	Rozina	لا	گلاب کا پھول

marfat.com

Marfat.com

روبیٹا	Robita	لا	یاقوت، لعل، قیمتی سرخ پتھر
روزالیہ	Rozalia	لا	گلاب کا پھول
رونالدہ	Ronalda	ا۔س	اثرور سوخ رکھنے والی، بااثر
رولاندہ	Rolanda	ٹ	مشہور، نامور، شہرت یافتہ، نامی گرامی
روحانی	Rohani	ع	پاک، صاف، منزہ، پاکیزہ، ایک نام روحانی بانو
رواح	Rawah	ع	شام، کسی بات کا یقین ہو جانے کی خوشی ہونا، رات کے وقت جانا، رات کے وقت کوئی کام کرنا
روال	Rawal	ہ	سونے چاندی کا ذرہ
رواخ	Rawakh	ع	عصر اور مغرب کا درمیانی وقت
ریحانہ	Rehana	ع	پھول کی خوشبو، ہری گھاس، پھول کی مہک، سرسبز، حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک باندی کا نام ریحانہ بنت زید بن عمرو۔ یہ بنی نضیر کی باندیوں میں سے ہیں۔
ریوا	Riva	عبر	دل موہ لینے والی، دل میں گھر کرنے والی
ریناٹا	Rinata	لا	صلح، دوستی
ریکا	Rika	ٹ	بادشاہ کی بیٹی، شہزادی، ملکہ
ریتا	Rita	یو	موتی، گوہر
رہناز	Rehnaz	ف	ناز و انداز والی
رِھاء	Riha	ع	خودمختار، آزاد، بے قید
رِھام	Riham	ع	ہلکی بارش، بوندا باندی
رہیدہ	Rahida	ع	نازک، نرم و ملائم
رہین	Rahin	ع	گروی
رؤدہ	Raoda	ع	جوان، حسین عورت
رؤفہ	Raoofa	ع	بہت مہربان، شفقت والی

marfat.com
Marfat.com

رئیسہ	Raeesa	ع	مالدار' دولت مند
ریم	Reem	ع	سفید ہرن
ریماء	Rimah	ع	سفید ہرن
ریمیا	Remya	اُف	ایک فرضی علم جس کا جاننے والا' جہاں چاہے جا سکتا ہے
ریسمان	Resman	اُف	سوت دھاگہ' رسی' ڈوری
ریشماں	Reshman	اُر	ریشم جیسی' حریر کی طرح' پاکستان کی ایک مشہور لوک گلوکارہ کا نام۔
ریشائیل	Reshaeel	اُعبر	بڑی اور لمبی گھنی ڈاڑھی والا' زبور میں ایک فرشتہ جس نے حضرت آدم کو تعلیم دی
ریشمین	Reshmin	اُر	ریشمی' ریشم جیسا ملائم' ریشم کا بنا ہوا
رین	Reen	اُہ	شب' رات
رینی	Reni	فرنچ	دوسرا جنم
رینا	Reena	ا	یونانی گوہر' موتی
رینا	Rina	لا	شہزادی' بادشاہ کی بیٹی' صلح
ریشم	Resham	ف	حریر' سلک
ریجینا	Regina	ع	وقار والی' شاہانہ' ملکہ' بادشاہ کی بیگم
ریبا	Riba	عبر	موہ لینے والی' گھر کرنے والی
ریعان	Riaan	ع	خوشبو جیسی' مہک جیسی
ریحانی	Rihani	ع	خوشبو جیسی۔ مہک جیسی
ریاحین	Riyaheen	ع	خوشبودار پھول
ریاست	Riyasat	اُع	سرداری' افسری' امارت' راج' عملداری' حکومت
ریز	Raise	ف	بہانے والا' آنسو بہانے والا
ریختہ	Rakhtah	ف	پڑا ہوا' بکھیرا ہوا' پریشان ایک شاعر کا تخلص

marfat.com
Marfat.com

ز

زاکیہ	Zakia	ع	پاکیزہ' پاک' منزہ' مطہر' صاف' بے عیب' پاک کرنے والی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہراؓ کا لقب مبارک
زالہ	Zala	ع	جگہ سے ہٹانا' مقام سے ہٹانا
زاہراہ	Zahrah	ع	کلی' شگوفہ' چمک' آرائش' حضرت فاطمہؓ کا لقب مبارک
زاہرہ	Zahera	ع	روشن' منور' چمکدار' تاباں' درخشاں
زاہیہ	Zaha	ع	مطمئن
زافرہ	Zafera	ع	جماعت' فوج' پارٹی' جیش' گروہ
زاولہ	Zadla	ع	قصد کرنا
زادی	Zadi	ف	جنی ہوئی' جنی (جیسے شہزادے)
زارہ	Zara	ع	بات چیت' گفتگو' ملاقات' انکساری' عاجزی' دیدار' زیارت
زائل	Zaeel	ع	دور ہونے والا' کم ہونے والا
زائرہ	Zaira	ع	زیارت کرنے والی' دیدار کرنے والی
زائن	zaen	ع	سنواری ہوئی عورت' آراستہ عورت
زائنہ	Zaina	ع	فیشن ایبل عورت' بنی سنوری عورت
زاہلہ	Zahla	ع	پرسکون دل والی' مطمئن دل والی
زائیدہ	Zaida	ف	پیدا کی ہوئی' تخلیق کی ہوئی
زاہمہ	Zahma	ع	نزدیک ہونے والی' قریب ہونے والی' پاس ہونے والی
زایدہ	Zaida	ع	حضرت عمر فاروقؓ کی ایک باندی کا نام حضرت زایدہ جو بڑی نیک اور پارسا تھیں۔
زاولہ	Zawla	ع	نیت کرنا' ارادہ کرنا' قصد کرنا' کوشش کرنا

marfat.com
Marfat.com

زاکنہ	Zakna	ع	ایک دوسرے کے قریب ہونا
زامہ	Zama	ع	حاجت' طلب' ضرورت
زاہدہ	Zahida	ع	پاکباز' پارسا' پرہیزگار عورت
زارا	Zara	لا	طلوعِ صبح' فجر
زارینہ	Zarina	ی	ملکہ' بادشاہ کی بیگم
زاوی	Zavi	ع	گوشہ' کونہ' ریزہ' ٹکڑا
زبدہ	Zubda	ع	برگزیدہ' منتخب' خلاصہ' مکھن' مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی چوتھی بیٹی کا نام شہزادی زبدۃ النساء جو بڑی نیک اور پارسا تھی۔ شریعت کے احکامات پر سختی سے عمل کرتی تھی۔ دینی علوم میں خاص دسترس حاصل تھی۔
زبور	Zaboor	ا ع	تحریر' کتاب' نوشتہ' حضرت داؤدؑ پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب
زبیری	Zubairi	ع	چنی ہوئی
زبیدی	Zubaidee	ع	منتخب' چنی ہوئی' برگزیدہ
زباء	Zuba	ع	بلند پشتے
زباد	Zabad	ع	ایک طرح کی خوشبو' جنگلی بلی
زباد	Zabad	ع	بلند پشتے' جس پر پانی کا سیلاب نہ پہنچ سکے
زبانہ	Zubana	ف	شعلہ' لو' آگ کی لپٹ
زبیب	Zabib	ع	خشک انگور
زبرج	Zabrij	ع	زینت' آرائش
زبرقان	Zaberqan	ع	چودھویں رات کا چاند

marfat.com
Marfat.com

زبیدہ	Zubaida	ع	منتخب کی ہوئی، چنی ہوئی، پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی کا نام، مشہور نہر زبیدہ جو مکہ مکرمہ تک پانی پہنچانے کی غرض سے بنوائی گئی اسی ملکہ نے بنوائی تھی۔ اس نہر کی کل لمبائی 23 ہزار میٹر ہے۔ ملکہ زبیدہ کا انتقال عراق کے شہر بغداد میں ہوا تھا۔
زپورہ	Zapura	عبر	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ صفورا کا عبرانی نام
زجاج	Zajaj	ع	آئینہ، شیشہ، لیمپ
زجاجہ	Zajaja	ع	آئینہ، شیشے، شیشے کی قندیل
زحام	Ziham	ع	ہجوم، مجمع، جمگھٹا، بہتات، افراط، فراوانی
زخرف	Zakhraf	ع	ظاہری چمک دمک، ظاہری آرائش، سونے کے نقش و نگار
زخار	Zukhar	ف	شور مچانے والا
زخار	Zakhar	ع	موجیں مارنے والا، بھرا ہوا، لبالب، چڑھا ہوا
زداہر	Zdahar	ع	کھلے ہوئے
زر	Zar	ع	زرساز
زرکش	Zarkash	ف	کلابتو بنانے والا، چاندی کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا
زرقا	Zarqa	ع	سبز و نیلی آنکھوں والی عورت، عرب کی ایک مشہور شاعرہ کا نام جو بڑی جرأت مند اور پارسا خاتون تھیں۔ زرقا کے والد کا نام عدی بن قیس تھا جو کہ قبیلہ ہمدان سے تھے۔ جنگ صفین میں حضرت علیؓ کی جانب سے شریک تھیں۔ ان کے پرجوش اشعار سن کر ان کا قبیلہ بڑی بے جگری سے لڑتا رہا۔
زریتہ	Zareta	ف	سنہری، سونے کی
زرینہ	Zarina	ف	گولڈن، سنہری، طلائی، سونے کی
زرفین	Zerfain	ف	دروازے کی زنجیر

marfat.com

Marfat.com

زرگل	Zergul	ف	پھول کے اندر کا سنہرا پیلا زیرہ
زرقم	Zerqam	ع	نیلا فلک نہایت گہرا نیلا آسمان
زرافشاں	Zerafshan	ف	سونا لٹانے والی چمکدار طلائی افشاں سنہری افشاں
زرنگار	Zernigar	ف	سنہرا کام طلائی کام سونے کا کام
زرنگاہ	Zarnigah	ف	وہ چیز جس پر سنہرا کام کیا ہوا
زرناب	Zernab	ف	خالص سونا
زریں	Zarin	ف	سنہری طلائی سونے کی
زرمینہ	Zarmina	ف	رئیس عورت امیر عورت دولت مند عورت
زری	Zari	ف	سنہرا کام سونے کا کام
زرمین	Zermin	ف	رئیس دولت مند امیر مالدار
زرنین	Zernain	ف	دروازے کی کنڈی زنجیر
زرگونہ	Zergona	ف	سنہرے رنگ والی سنہری رنگت والی
زرادہ	Zerada	ع	سونے کو بنانے والی زرساز
زرنب	Zerneb	ع	زعفران خوشبودار دوا
زرق	Zerq	ع	نیلی آنکھیں صاف شفاف
زربفت	Zerbeft	ف	سونے چاندی کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا
زرباف	Zerbaf	ف	سونے چاندی کے تاروں سے بنا ہوا
زعما	Zama	ع	امرا سردار
زعیم	Zaeem	ع	کفیل ضامن
زعیم النساء	Zaeem-un-Nisa	ع	کفیل ضامن
زعیمہ	Zaima	ع	سردار پیشوا امیر رئیسہ
زعزع	Zaaza	ع	تیز ہوا طوفان آندھی

marfat.com

Marfat.com

زعفران	Zafran	ع	کیسر
زعفرہ	Zafra	ع	زعفران میں رچی بسی ہوئی
زفانہ	Zafana	ع	شعلۂ بو
زغلہ	Zaghla	ع	غنچہ' شگوفہ' کلی
زکیہ	Zakia	ع	پاک' صاف' پاکیزہ' نیک' بھوپال کے وزیراعظم منشی جمال الدین خان بہادر کی نیک سیرت سلیقہ شعار بیٹی کا نام زکیہ بیگم۔ ان کی شادی نواب سید صدیق حسن خان قنوجی سے ہوئی تھی۔
زکیاس	Zakias	عبر	پاک' معصوم' پاکیزہ
زلغہ	Zalgha	ع	خوشی
زلفہ	Zelfa	ع	حوض' سچا
زلفہ	Zulfa	ع	نزدیکی' قریبی' مرتبہ' درجہ' رتبہ' پاس
زلیخا	Zulaikha	ع	حسین وجمیل عورت' خوبصورت عورت' حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ کا نام جو اپنے وقت کی نہایت نیک' پارسا اور دیندار خاتون تھیں۔ آپ کا مزار دہلی بھارت میں شیخ نجیب الدین متوکل کے مزار کے نزدیک واقع ہے۔
زلمہ	Zalma	ع	ہموار کرنا' نرم کرنا
زلقہ	Zalqa	ع	آئینہ' شیشہ' چکنی چٹان
زلفی	Zulfi	ع	بالوں کی لٹ
زلفین	Zulfain	ف	زنجیریں
زلفت	Zulfat	ع	دوستی' نزدیکی' قربت' درجہ' رتبہ' مرتبہ
زُلال	Zulal	ع	میٹھا اور صاف وشفاف پانی
زلیبا	Zulaiba	ف	ایک مشہور مٹھائی' جلیبی

marfat.com
Marfat.com

زمزمہ	Zamza	ف	گیت
زمزمہ	Zamzama	ف	گیت' نغمہ' گانا
زمرد	Zamurd	ف	سبز رنگ کا قیمتی پتھر' سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن کا نام زمرد خاتون جو بڑی فیاض اور نیک طینت خاتون مشہور تھیں۔ علم سے گہرا شغف رکھتی تھیں۔ دمشق میں ایک عالی شان دینی مدرسہ تعمیر کروایا تھا۔
زمانہ	Zamana	ع	شعلہ
زمانی	Zamani	ف	زمانے سے تعلق رکھنے والی' زمانے والی
زمیلہ	Zamila	ع	ردیف' ہم پیشہ
زمانیہ	Zamania	ف	زمانے کی' زمانے سے تعلق رکھنے والی
زمرہ	Zumra	ع	جماعت' گروہ' پارٹی
زمردین	Zamurdin	ف	ہرا' سبز' زمرد جیسی رنگت
زنجیل	Zanjeel	ا' ع	سونٹھ' جنت کی ایک نہر کا نام
زنمہ	Zenma	ع	علامت' نشان
زنبق	Zanbeq	ع	بانسری' گل سوسن' چمبیلی کا تیل
زنبیل	Zanbeel	ع	جھول
زنبورہ	Zanbura	ف	چھوٹی توپ
زنیق	Zaniq	ع	مستحکم' استوار' مضبوط
زوفیہ	Zufia	ع	بوٹی' ایک قسم کا پودا
زویا	Zoya	ر	زندگی' حیات' عمر
زوقیہ	Zuqia	ع	ایک پودے کا نام
زورینہ	Zorina	ف	طاقت والی' زور آور' طاقتور' قوی

marfat.com
Marfat.com

زونا	Zona	ع	دانشمند عورت' عقلمند عورت' دانا عورت' سجاوٹ' آرائش زیب وزینت
زوناد	Zonad	ع	زینت' عقلمند عورت
زوقہ	Zoqa	ع	گھر کی آرائش وزیبائش کرنے والی' گھر کو سجانے والی' گھر کو زینت دینے والی
زواہر	Zawaher	ع	روشن' چمکدار' کھلے ہوئے پھول
زورین	Zorin	ف	زورآور' قوی' طاقتور
زوبیہ	Zobia	عبر	اللہ تعالیٰ کا تحفہ
زورید	Zaoraid	ع	بوٹی' ایک قسم کا پودا
زورید	Zorid	ع	ملاقات کرنے والی' مصمم ارادے والی' پختہ والی' دوری' فاصلہ
زورینا	Zorina	لا	صبح صادق' فجر
زورانا	Zorana	لا	فجر' فجر کا وقت
زورہ	Zora	ع	دوری' فاصلہ' ایک ملاقات
زہرا	Zohra	ع	پھول کی کلی' آرائش' چمک دمک' اردو کی ایک بہترین انشاء پرداز زہرا بیگم جو اپنے وقت کی مشہور مقررہ اور ادیبہ تھی۔ علامہ شبلی بھی زہرا بیگم کی علمی اور ادبی خدمات کے معترف تھے۔
زہارت	Zaharat	ع	روشن' منور' چمکدار
زہدہ	Zohda	ع	برگزیدہ
زہمہ	Zohma	ع	باز رکھنا' روکنا' منع کرنا
زہرہ جبین	Zohra Jabin	ع	چمکدار ماتھے والی' روشن پیشانی والی
زہانہ	Zahana	ف	شعلہ لو

marfat.com

Marfat.com

زہیدہ	Zahida	ع	صبر کرنے والی' صابر' قانع
زہرہ	Zohra	ع	کلی' شگوفہ
زہرہ	Zuhra	ع	ستارہ' ناہید' نظام شمسی کا سیارہ وینس
زہیرہ	Zahira	ع	چمکیلی' منور' تاباں' روشن
زہاد	Zahad	ع	زاہد کی جمع' پرہیز گار لوگ' عابد
زہادت	Zahadat	ع	پارسائی' پرہیز گاری
زیاد	Ziyad	ع	ایک قسم کی خوشبو' جنگلی بلی' وہ کاغذ جس پر سونے کے ورق ریزہ ریزہ کر کے چھڑکے ہوتے ہیں اور جو تقریبات کے خطوط میں استعمال کیا جاتا ہے
زیان	Zayan	ع	خوبصورت' خوبصورت چاند
زیب النساء	Zaibun Nisa	ف	عورتوں کی خوبصورتی' حسین وجمیل' خوبصورت' مغل بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر کی سب سے بڑی بیٹی کا نام شہزادی زیب النساء جو کہ عربی اور فارسی کے جملہ علوم وفنون پر فاضلانہ دسترس رکھتی تھی۔ شاعری اور علم و ادب کی دلدادہ تھی۔ اس کا انتقال دہلی میں ہوا اور وہیں پر دفن کی گئی۔
زیلہ	Zila	ع	جدا ہونا' الگ ہونا' پرے ہونا' متفرق ہونا
زیبادہ	Zibada	عبر	اللہ تعالیٰ کا تحفہ
زیبا طلعت	Zabatalat	ا ف	خوبصورت شکل والا' حسین
زیب	Zaib	ف	زینت' خوبی' سجاوٹ' آرائش وزیبائش
زیبندہ	Zabandah	ف	زیب دینے والا
زینا	Zina	یو	مہمان نواز
زیبان	Ziban	ف	لائق' اہل' موزوں' مناسب' زیبا

marfat.com
Marfat.com

زین	Zain	ع	سجاوٹ' آرائش' زیبائش' خوبی' دمشق کی مشہور محدثہ اور عالمہ فاضلہ گزری ہیں۔ ساتویں صدی ہجری میں آپ کی خوب شہرت تھی۔ لوگوں کو دین کا درس بھی دیا کرتی تھیں۔ زین العربؒ کے نام سے شہرت پائی۔
زیتون	Zaitoon	ع	ایک پھلدار درخت کا نام
زیبا	Zeba	ع	زیب دینے والی' موزوں' خوشنما' لائق' اہل
زینب	Zainab	ع	فیاض' سخی' خوشبودار' لمبے ہاتھوں والی' حضور نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی سیدہ زینبؓ
زینت	Zeenat	ع	آراستہ و پیراستہ' زیب و زینت' آرائش' سجاوٹ' مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ سراج الدین بہادر شاہ ظفر کی سب سے چہیتی بیگم کا نام ملکہ زینت محل۔ اس کا مزار برما کے شہر رنگون میں بہادر شاہ ظفر کے مزار کے قریب واقع ہے۔
زینہ	Zaina	ع	سجاوٹ کرنے والی' آرائش کرنے والی' زینت دینے والی
زینیا	Zinia	ی	ایک پھول کا نام
زیبائی	Zibai	ف	خوشنمائی' خوبی' اہلیت' قابلیت
زیورہ	Zaiwara	عبر	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ صفورہ کا عبرانی نام

marfat.com

Marfat.com

ژ

ژالہ	Zhala	ف	اولہ برف شبنم
ژرفا	Zharfa	ف	گہری عمیق اتھاہ
ژندہ	Zhanda	ف	عبادت گزار بزرگ قلندر مست
ژندگی	Zhandgy	اف	پراناپن شکستگی قدامت
ژویدہ	Zhawida	ف	سیماب پارہ
ژویلہ	Zhuwala	ف	برفیلی ٹھنڈی
ژیلہ	Zheela	ف	پاکیزہ
ژیوہ	Zhawa	ف	پارہ سیماب
ژیالہ	Zhiala	ف	آگ بگولہ غصیلی

marfat.com

Marfat.com

س

سابقہ	Sabiqa	ع	پچھلا' گذشتہ
ساتر	Satar	ع	چھپانے والا' پردہ ڈالنے والا
سارا	Sara	عبر	بادشاہ کی بیٹی' شہزادی' حضرت اسحٰق علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھیں
سارہ	Sara	عبر	شہزادی' حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کا نام جو حضرت اسحٰق علیہ السلام کی والدہ تھیں۔
سادنہ	Sadna	ع	ملاقات کرنے والی
سادرہ	Sadira	ف	حیرت زدہ' متحیر' مذبذب' حیران
ساونت	Sawnat	ہ	بہادر' دلیر جواں مرد' شجاع
سائرہ	Saira	ع	پھرنے والی' گھومنے والی
ساجدہ	Sajida	ع	عبادت گزار' سجدہ کرنے والی
سامی	Sami	ع	اونچا' بلند' سام کی نسل کے لوگ مثلاً یہودی' عرب وغیرہ
سامیہ	Samia	ع	اونچی' بلند و بالا' عالی
سانک	Sanik	ا' و	شاخ' ٹہنی' (مذکر) برچھا' نیزہ بھالا
ساریہ	Saria	ع	بادل' ابر' رات کو آنے والا
ساجیہ	Sajia	ع	مس کرنے والی' چھونے والی
ساریتا	Sarita	عبر	شہزادی' بادشاہ کی بیٹی
ساطع	Sata	ع	اونچا' بلند' چمکتا ہوا
ساطلہ	Satla	ع	اونچا' خبار' قصہ گو
سائمہ	Saima	ع	سیر کرنے والی

marfat.com
Marfat.com

سامرہ	Samra	ف	داستان گو' قصہ گو
ساحبہ	Sahba	ع	تیز بارش
ساحرہ	Sahra	ع	عقلمند' جادوگر' عاشق ہونے والی' فریفتہ
ساخابہ	Sakhaba	ف	جھیل' خلیج
ساحیہ	Sahia	ع	تیز بارش' سیلابی بارش' موسلا دھار بارش
سالغہ	Salgha	ع	کسی سے برابری کرنا
سالمہ	Salma	ع	سمجھوتہ کرنا' صلح کرنا' مصالحت کرنا
ساجلہ	Sajla	ع	شعر گوئی میں مقابلہ کرنے والی
سارینا	Sarina	عبر	شہزادی' بادشاہ کی بیٹی
سائلہ	Saila	ع	امیدوار' سوال کرنے والی
سارہ	Sara	ف	حجاب' پردہ
سافرہ	Safra	ع	سفر کرنے والی
سافر	Safir	ع	مسافر' لکھنے والا' عورت جس کا چہرہ کھلا ہوا ہو' رسول صلح کرنے والا' رستم پہلوان کے دادا کا نام
سامتہ	Samta	ع	سامنے ہونا' مقابل ہونا
سابلہ	Sabla	ع	راستہ' گزرگاہ
ساجع	Saja	ع	مقفی کلام بولنے والا' خوشنما چہرہ
ساجعہ	Sajia	ع	درمیانی چال چلنے والی' میانہ رفتار چلنے والی
ساہر	Sahir	ع	بیدار' بیداری کی رات
ساہرم	Sahram	ع	سیر کرنے والی
ساہرہ	Sahra	ع	بیدار' خبردار' ہوشیار' چوکنا' جاگی ہوئی
ساء	Saa	ع	ایک باریک ستارے کا نام
سائقہ	Saiqa	ع	پیچھے سے چلانے والی' عقب سے چلانے والی

Marfat.com

سائرم	Sairem	ع	پھرنے والی' گھومنے والی
سادیہ	Sadia	عبر	شہزادی' بادشاہ کی بیٹی
ساشا	Sasha	یو	حمایتی' معاون' مددگار
ساجی	Saji	ع	ہاتھ لگانا' مس کرنا' چھونا
سامنہ	Samna	ع	مقابل ہونا
سامعہ	Samia	ع	سننے کی طاقت' قوت سامعہ
ساخرہ	Sakhra	ع	دل میں گھر کرنے والی' دل موہ لینے والی
ساربہ	Sarba	ع	واضح' عیاں' آشکارہ' صاف' ظاہر
ساحنہ	Sahna	ع	اخلاق سے پیش آنا' نیک سلوک کرنا' اچھا برتاؤ کرنا' گفتگو کرنا' ملاقات کرنا' بات چیت کرنا
ساعت	Saat	ا ع	لمحہ' گھڑی' منٹ' پل
ساعفہ	Saifa	ع	مدد کرنا' مددگار' حاجت پوری کرنا' ضرورت پوری کرنا
ساعی	Saee	ع	کوشش کرنے والا' دائم' باقی' قائم
سائفہ	Saifa	ف	تلوار بند
ساعقہ	Saieqa	ع	مددگار
سامہ	Sama	ع	عہد' وعدہ' پیمان' قول' قرار
سالفہ	Salfa	ع	کسی سے برابری کرنا
ساعدہ	Saida	ع	شیر
سالکہ	Salka	ع	عبادت گزار' سیدھی راہ پر چلنے والی
سبا	Saba	ع	ملکہ بلقیس کے شہر کا نام
سباخانہ	Saba Khana	ف	جھیل
سبجا	Subja	ع	مضبوط

marfat.com

Marfat.com

سبیلہ	Sabila	ع	طریقہ صاف راستہ واضح راہ امام حسینؓ کی زوجہ مطہرہ بی بی شہر بانو کا لقب مبارک ۔
سبحان	Subhan	ہ ع	عالم دانا دانش مند
سبحہ	Subha	ع	کالی چادر کالی کملی
سبقت	Sabqat	ع	اول ہونا آگے ہونا بڑھ جانا
سباہ	Subah	ع	دور دراز کا سفر
سبطانہ	Subtana	ف	بندوق رائفل تفنگ
سبوہا	Sabuha	ف	گھڑا برتن
سبحہ	Subha	ع	ہار کینٹھی مالا تسبیح
سبیل	Sabil	عبر	نیک عورت پاکباز عورت برگزیدہ عورت
سبات	Subat	ع	عہد دور وقت زمانہ سونا نیند
سبلہ	Subla	ع	چارہ سبیل طریقہ راہ راستہ
سبزینہ	Sabzina	ف	محبوب پیارا
سبینا	Sabina	ع	کناری چھوٹی تلوار
سبرینا	Sabrina	ا۔س	شہزادی بادشاہ کی بیٹی
سبرینہ	Sabreena	ف	معشوقہ محبوبہ
سبزہ	Sabza	ف	ہریالی روئیدگی
سبین	Sabin	ا	قبیلہ سبین کی عورت
سباحت	Sabahat	ف	پیراکی تیرنا
سبیتا	Subita	ہ	اطمینان تسلی فرصت فراغت
سبتہ	Sabta	ع	سات
سبز پری	Sabz Pari	ف	بہار کا موسم فصل ربیع

marfat.com
Marfat.com

سبز بخت	Sabz Bakht	ف	خوش قسمت' نیک بخت' خوش نصیب
سپاس	Sapass	ا ف	محسن کی تعریف' اظہار احسان مندی' شکریہ
سپنا	Sapna	ہ	خواب
ستلہ	Sitla	ع	فرمان
ستلہ	Sitla	ع	تعمیل کرنا' اطاعت کرنا' پیروی کرنا
سپید بخت	Spaid Bakht	ف	نیک بخت' خوش قسمت' خوش نصیب
ستارہ	Sitara	ف	تارا' انجم' اختر' مشہور مسلمان عالم اور طبیب بوعلی سینا کی والدہ کا نام ستارہؒ جو بذات خود عالمہ اور عارفہ تھیں اور دینی علوم سے گہرا شغف رکھتی تھیں۔
ستیا	Satya	ار	طاقت' قوت
ستیزہ	Sateeza	ف	جنگ وجدل
سجبہ	Sijba	ع	کالی چادر
سجد	Sujad	ع	تسبیح' ہار' مالا
سجیلہ	Sajila	ع	زیبائش کی ہوئی' آراستہ وپیراستہ' سجی ہوئی
سجیہ	Sajia	ع	خصلت' سرشت' عادت' طبیعت
سجاح	Sajah	ع	ایک عورت کا نام جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹ میں ضرب المثل
سجاع	Saja	ع	مقفی کلام بولنے والا' خوشنما چہرہ' اپنی آواز سے مست کر دینے والی اونٹنی
سجافہ	Sajafa	ع	پردہ' حجاب
سجاف	Sajaf	ع	حاشیہ

marfat.com
Marfat.com

سجیل	Sajil	ہ	ٹھیک، اچھا، بہتر، معقول، نفیس، اعلیٰ
سجل	Sajal	ع	حکم نامہ، پروانہ
سچل	Sachal	اُ ہ	اصلی، ٹھیک، درست
سچمے	Sachme	ت	پسندیدہ، دل کو بھانے والی
سحر	Sehr	ع	نور کا تڑکا، فجر، صبح
سحن	Sehn	ف	چنبیلی
سحرش	Sehresh	ف	سحر زدہ، مسحور کن، جادو بھری
سحرہ	Sahra	ع	فریفتہ ہونا، عاشق ہونا، منتر کرنا، جادو کرنا
سحر	Sahr	ع	قلب، دل
سحاب	Sahab	ع	بادل، ابر
سحات	Sohat	ع	راحت، آرام، نیند، سر میں نیند کی گہرائی اور خمار، زمانہ، سوجانا
سحاح	Sahah	ع	بکھیرنے والا
سحل	Sahal	ع	سفید کپڑا، چاندی کی پرکھ
سحیقہ	Sahiqa	ع	موسلا دھار بارش، تیز بارش، شدید بارش
سحابہ	Sahaba	ع	بادل کا ٹکڑا
سحوح	Sahoh	ع	بادل جو برس رہا ہو
سحور	Sahur	ع	سحر کا وقت، صبح صادق سے پہلے کا وقت
سخاوت	Sakhawat	اُ ع	فیاضی، بخشش، خیرات
سخلہ	Sakhla	ع	صاف کرنا، پاک کرنا
سخرہ	Sakhra	ع	فرمانبردار، اطاعت گزار، مطیع، تابعدار
سخرہ	Sakhra	ع	لوگوں کو ہنسی میں اڑانے والی
سخران	Sukhran	ع	فرمانبردار لوگ، تابعدار لوگ، مطیع لوگ
سخرانی	Sakhrani	ع	فرمانبردار لوگ

marfat.com
Marfat.com

سخیہ	Sakhia	ع	سخاوت کرنے والی، سخی، فیاض
سداد	Sadad	ع	گفتار و کردار کی راستی و درستی، سلامت روی
سدافہ	Sadafa	ع	حجاب، پردہ
سدید	Sadeed	ع	درست، راست، محکم
سدیل	Sadeel	ع	دلہن کے کمرہ کا پردہ، ڈولے وغیرہ
سدیلہ	Sadila	ع	پالکی کا پردہ، لمبے بال، دراز گیسو
سدف	Sadaf	ع	روشنی، تاریکی
سدفہ	Dadfa	ع	اجالا، روشنی، دروازہ، چاند
سدیمہ	Sadima	ع	ذاکرہ، بہت ذکر کرنے والی
سدوس	Sadoos	ع	سبز چادر، بری چادر
سدرہ	Sidra	ع	بیری کا درخت
سدرت	Sidrat	ع	انتہا، اخیر، ایک درخت
سدنہ	Sadna	ع	دربان، نگہبان، نگران
سداب	Sudab	ع	ایک خوشبودار گھاس
سرعیہ	Suraia	ع	بہت ذکر کرنے والی
سری	Sari	ف	سرداری، ترکی کی ایک مشہور شاعرہ کا نام سری خانم جو دیار بکر کی رہنے والی تھی۔ تمام سلطنت عثمانیہ میں اس کا کلام بہت زیادہ پڑھا اور سنا جاتا تھا
سریسہ	Sarisa	ع	نگہبان، حفاظت کرنے والی، دانشمند، عقلمند، دانا
سریمہ	Sareema	ع	ذاکرہ، بہت ذکر کرنے والی
سرحان	Sirhan	ع	شیر دل، سینہ، قلب
سرحانہ	Sarhana	ع	شیرنی
سرود	Sarood	ف	نغمہ، گیت، خوشی، شادمانی، مسرت

marfat.com
Marfat.com

سرہ	Sarah	ع	اعلیٰ' عمدہ' خالص' نفیس
سرور	Serwer	ع	رہنمائی' بزرگی' پیشوائی' سرداری' رہبری
سروری	Serweri	ع	بزرگی' رہبری' سرداری' پیشوائی' رہنمائی
سریحہ	Sariha	ع	تنگ راستہ' دشوار راستہ
سربہ	Serba	ع	قریب کا سفر' نزدیک کا سفر
سربعہ	Sarba	ع	فوری اثر کرنے والی
سرفراز	Serfaraz	ف	اونچا' سربلند
سرہ	Sarah	ع	گلدستہ' پھولوں کا گچھا
سریعہ	Saria	ع	جلد اثر کرنے والی' فوری اثر کرنے والی
سروش	Serosh	ف	خوشخبری لانے والا فرشتہ' غیبی آواز
سرتاج	Sertaj	ف	سر کا تاج' آقا' مالک
سریکھا	Sarikha	ا	مانند' مثل' مشابہ' نظیر
سریتا	Sarita	ہ	عقلمند' دانشمند' ہوشیار' خبردار' چوکنا
سرینا	Sarina	لا	مطمئن' پرسکون
سروج	Saroj	ہ	کنول کا پھول
سراج النساء	Saraj-un-Nisa	ع	عورتوں کا سورج
سراط	Sarat	ع	تیز کاٹنے والی تلوار' تیز شمشیر
سراح	Sarah	ع	جلدی کرنے والے' دوڑنے والے
سرافہ	Sarafa	ع	پردہ' حجاب
سرافینا	Sarafina	لا	مطمئن' پرسکون
سریرہ	Sarira	ع	راز' بھید
سریر	Sarir	ع	ملک' تخت' مسند

marfat.com

Marfat.com

سرمدی	Sermedi	ف	دائمی' ابدی' ہمیشہ
سزیدہ	Sazida	ف	اہل' قابل' لائق' موزوں
سطوت	Satwet	ع	رعب' دبدبہ
سطوت النساء	Satwat-un-Nisa	ع	عورت کا رعب
سعادت	Saadet	ع	خوش بختی' خوش نصیبی' مبارک' خوش قسمتی
سعادت النساء	Saadatunnisa	ع	عورتوں کی نیک
سعیرہ	Saira	ع	بھڑکتی ہوئی آگ
سعی	Saee	ا ع	کوشش' جدوجہد' محنت
سعودہ	Saooda	ع	سعادت مند' خوش قسمت' مبارک' نیک' سعید جمع
سعدیہ	Sadia	ع	سعادت مند' نیک' مبارک' حضور نبی کریم ﷺ کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ۔
سعیر	Saeer	ع	شعلہ' آگ
سعیدہ	Saeeda	ع	مبارک' خوش بخت' خوش قسمت
سعتر	Saater	ع	ایک گھاس کا نام
سعاد	Suad	ع	عربی شعراء کی محبوبہ
سفری	Safri	ف	سفر کی چیز' امرود' اپنے وقت کی مشہور عالمہ فاضلہ اور محدثہ سفری جو قاضی یعقوب بن سلیمان کی بیٹی تھیں۔ چھٹی صدی ہجری میں آپ کی خوب شہرت تھی۔
سفینہ	Safeena	ع	تختہ' چبوترہ
سفینہ	Safina	ع	کشتی' ناؤ' جہاز' بیڑی
سفیرہ	Safira	ع	ایلچی' قاصد' پیامبر

marfat.com
Marfat.com

سفالینہ	Safalina	ف	مٹی کا برتن
سغبہ	Sughba	ع	عاشق' فریفتہ
سغد	Sughid	ع	بوندا باندی' ہلکی بارش
سفانہ	Safana	ع	قبیلہ بنی طے کے حاتم کی بیٹی کا نام جس نے غزوۂ طائف کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔
سقیط	Saqeet	ع	آدمی' برف' شبنم
سقیفہ	Saqeefa	ع	تختہ' چبوترہ
سکینت	Sakinat	ع	تسلی' چین' آرام' راحت' سکون
سکینہ	Sakina	ع	آہستگی' چین' آرام' راحت' سکون' قیام کرنے والی' ٹھہرنے والی' حضرت امام حسینؓ کی صاحبزادی سکینہ جو امام حسینؓ کے شیر خوار بیٹے حضرت علی اصغر کی سگی بہن تھیں۔ والدہ کا نام رباب تھا جو بنو کلب کی شاخ بنو عدی کے ایک مشہور سردار امراؤالقیس بن عدی بن اوس کی بیٹی تھیں۔
سکون	Sakoon	ع	راحت' چین' آرام' خاموشی' آسودگی
سکونت	Sakoonat	ع	رہائش
سکین	Sakin	ع	چاقو' چھری
سکھاں	Sukah	ہ	آرام و آسائش میں آرام و چین میں' راحت والی
سکندر	Sikander	یو	تیرہویں صدی ہجری میں ریاست بھوپال کی نگران مقرر ہونے والی نواب سکندر بیگم جو بڑی مخیر اور دیندار خاتون تھیں۔ آپ نے موتی مسجد کے نام سے ایک عظیم الشان جامع مسجد بھی تعمیر کروائی۔
سگات	Sagat	ع	لمبی خاموشی' کسی چیز کا شہنی' جو چیز خاموش کردے
سلیفہ	Saleefa	ع	فصیحہ' عمدہ بیان

marfat.com

Marfat.com

سلیمہ	Salima	ع	تحمل والی' بردبار' سادہ دل' برداشت والی' خاندان غلاماں کے آٹھویں حکمران سلطان ہند ناصرالدین محمود کی اہلیہ کا نام سلیمہ سلطان جو غیاث الدین بلبن کی بیٹی تھی۔ نہایت نیک سیرت تھی
سلیمے	Sulaima	ع	محبوبہ' پیاری
سلیمی	Saleemi	ع	محبوبہ' معشوق
سلیقہ	Saliqa	ع	اہلیت' لیاقت' قابلیت' شعور' تمیز
سلطانہ	Sultana	ف	حکمران عورت' ملکہ' رانی شہزادی
سلطنت	Saltanat	ع	حکومت' اقلیم' عملداری
سلاد	Salad	ع	لاثانی مطرب' لاجواب گانے والی
سلاست	Salasat	ا' ع	نرمی' روانی' فصاحت
سلاسل	Salasal	ع	زنجیریں' سطریں
سلافہ	Salafa	ع	پچھلی' سابقہ' پہلی
سلبوب	Salbob	ع	اچک لینے والا' چھین لینے والا
سلطہ	Silta	ف	دراز' تیز طرار' لمبی
سلیس	Salis	ف	سہل' رواں' ہموار' آسان
سلاء	Sula	ع	لاثانی گلوکارہ' لاجواب مغنیہ' بے مثل گانے والی
سلیط	Salit	ع	خوش کلام' فصیحہ' بلیغہ
سلوانا	Salwana	لا	جنگل کی شہزادی
سلویٰ	Salwa	ع	ایک خوش الحان پرندہ۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل (قوم موسیٰ علیہ السلام) جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے۔ تو ان پر دونوں وقت اس پرندے کا بھنا ہوا گوشت اللہ کی طرف سے اترتا تھا۔

marfat.com

Marfat.com

سلویا	Salvia	لا	جنگل کی شہزادی
سلومی	Salomi	عبر	آرام وسکون والی' راحت والی' پرامن' پرسکون' مطمئن
سلم	Sulam	ع	سیڑھی' رکاب' وسیلہ
سلمہ	Salmah	ار	کپڑوں پر لگانے والا سنہری دھاگہ' سنہری
سلمٰی	Salma	ع	تسلیم' رضا' اطاعت' قبول' محفوظ' درست' ٹھیک' نویں صدی ہجری کی نام عالمہ اور قاریہ سلمٰی جو کہ علامہ شمس الدین جزری کی بیٹی تھیں۔ قرآن مجید کی حافظہ تھیں اور ہر قرأت کے مطابق قرآن مجید سنا سکتی تھیں۔
سلامہ	Slama	ع	ہر نقص سے پاک' پاکیزہ' بے عیب' منزہ
سلیعہ	Salia	ع	طبیعت' خصلت' سرشت' عادت
سلوی	Salwi	لا	جنگل کی شہزادی
سلمہ	Salma	لا	جنگل کی شہزادی
سلسال	Silsal	ع	میٹھا اور ٹھنڈا پانی' خوشگوار
سلیل	Saleel	ع	برہنہ شمشیر' ننگی تلوار
سلطان	Sultan	ع	بادشاہ' حکمران' فرمانروا' بھوپال کی ایک حکمران سلطان جہان بیگم جو کہ پردے کی سخت پابند تھیں۔ شریعت مطہرہ پر ہر ممکن عمل کرتی تھیں۔ عمر بھر نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن پاک کا کبھی ناغہ نہ کیا۔ بھوپال میں مدرسہ حفاظ قائم کیا۔ آپ کی پچاس کے قریب تصانیف بھی ہیں جن میں ریاض الراحین' سیرت مصطفیٰ' تزک سلطانی اور سیرت شاہجہانی بہت مشہور ہیں۔
سمیع	Samee	ع	سننے والا
سمیمہ	Samema	ع	ایک' واحد' یک' تل
سمینہ	Samena	ع	صاف ستھری بات چیت' پاکیزہ گفتگو

marfat.com
Marfat.com

سمراء	Sumra	ع	گندمی رنگت والی
سمروت	Samrut	قدیم	بزرگ، صابر، نیک، لائق
سمیدہ	Sameda	ع	شریف، نیک، سخی، فیاض، بھلی، دلیر، بہادر، جری
سمیا	Sumya	ع	بلند و بالا، عمدہ، اعلیٰ، وارفع، اونچی
سماہر	Samaher	ع	مضبوط
سمامہ	Samama	ع	ایک پرندہ، خوبصورت جسم والی، حسین بدن والی
سمیرہ	Sumaira	ع	رات کا سفر کرنے والی، رات کی مسافر
سمیرہ	Sumera	ع	داستان سنانے والی، قصہ کہنے والی
سمارا	Samra	عبر	محتاط، دور اندیش
سمر	Samr	ع	رات کو باتوں میں گزارنے والی، داستان گو
سمر	Sumr	ع	رات کا سفر
سمونا	Samona	عبر	اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول، برگزیدہ
سمعیہ	Samia	ع	سننے والی، سماعت کرنے والی، اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے والی
سمیہ	Smya	ع	حسن و جمال، خوبصورتی، بصرہ کی رہنے والی ایک مشہور عالمہ سمیۃ البصریہؒ۔ آپ کا شمار تابعیات میں ہوتا ہے۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر حضرت عائشہ صدیقہؓ کی شاگردی اختیار کی تھی۔
سماح	Samah	ع	عطا کرنا، دے دینا، عنایت کرنا
سماع	Samaa	ع	سننا
سماعت	Samaat	ع	سننا
سمیحہ	Samiha	ع	جری، دلیر، بہادر، آسان، سلیس، سہل، سخی، فیاض
سمیحا	Sameeha	ع	علامت
سمن بر	SamenBer	ف	محبوب، پیاری

marfat.com
Marfat.com

سماء	Samah	ن	آسمان' فلک' بہشت' جنت
سمن	Saman	ف	جاسمین' یاسمین' چنبیلی کا پھول
سمی	Sami	ع	ثانی' مانند' مثل' ہم نام
سمرہ	Simra	ن	جنت' بہشت' فلک' آسمان
سمیہ	Simya	ع	ایک ہی نام والی' ہم نام
سمیتا	Samita	ہ	موتیوں کا ہار' موتیوں کی مالا
سمکی	Simki	ف	اہل زمین' چاندی جیسی
سمطر	Samitr	ع	ذہین' تیز فہم' فہم وفراست والی
سمین	Samin	ع	موٹا' فربہ
سمید	Samid	ع	سفید میدے کی روٹی
سمرنا	Sumerna	ہ	تسبیح پڑھنا
سنیہ	Saniha	ف	بلندوبالا' روشن' چمکدار' منور
سنور	Sinoor	ع	بلی' سردار' دم کی جڑ
سنبل	Sumbel	ف	مہک والی گھاس' ایک خوشبودار گھاس
سنجارا	Sanjara	ا' (قدیم)	رات' شب
سنجق	Sunjaq	ع	پرچم' علم' جھنڈا
سنیعہ	Sania	ع	سعادت مند' نہایت' نیک' انتہائی شریف
سنبلہ	Sumbla	ف	ستارہ' آسمانی برج' گیہوں یا جو کی بالی' خوشہ
سنینہ	Sanina	ف	ہم جولی' ہم عمر' ہمن' ہمسن' سہیلی
سناء	Sana	ع	چمک' روشنی' نور ضیاء' اونچائی' بلندی
سنیلہ	Sanila	ع	نیک خصلت' سعادت مند' اچھی' نیک' شریف
سنگھار	Singhaar	ر	آرائش' سجاوٹ
سنگیتا	Sangeeta	ہ	گیت' نغمہ

marfat.com

Marfat.com

سنجیدہ	Sanjida	ف	خاموش طبع' متین' مہذب' موزوں
سواع	Sawa	ع	عربوں کے ایک بت کا نام' رات کا حصہ' ت
سوبھا	Sobha	ا'ہ	زینت' زیبائش' خوبصورتی' شان و شوکت' رونق' عزت و آبرو
سورہ	Sorah	ا'ع	بیری کا درخت
سورہ نشین	Sorah Nasheen	ع	حضرت جبرئیل علیہ السلام
سویدہ	Swaida	ع	انسان کے دل کا سیاہ نقطہ
سویمبرا	Soyambra	ا'ع	اپنا خاوند آپ پسند کرنے والی لڑکی
سوصلہ	Sosla	ف	چھوٹی
سوزی	Suzi	عبر	سوسن کا پھول
سوسن	Sosen	ف	سفید نیلگوں مائل پھول
سوزانہ	Sozana	عبر	سوسن کا پھول
سوملہ	Somla	ف	چھوٹی پیالی
سوزین	Sozin	عبر	سوسن کا پھول' سفید نیلگوں مائل پھول
سونرا	Sonra	ت	بعد میں آنے والی
سونیا	Sonia	یو	سمجھداری' عقلمندی' دانائی' دانشمندی
سونیرا	Sonaira	ت	ختم کرنے والی
سوہنی	Sohni	ف	نہایت خوبصورت' حسین و جمیل
سوترا	Sowitra	ت	بعد میں آنے والی
سودہ	Soda	ع	سرداری' ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمعہ آپ سے پانچ احادیث مبارکہ مروی ہیں۔
سوزان	Sozaan	عبر	سوسن کا پھول

marfat.com
Marfat.com

سویرا	Swera	ہ	پہلا وقت' اول وقت' صبح کا وقت
سویٹی	Sweety	ی	خوش ذائقہ' شیریں' پاک صاف' تازہ' نرم ونازک
سوسی	Susi	ہ	ایک قسم کا رنگین کپڑا
سوسنی	Sosni	ف	نیلگوں' آسمانی
سوزن	Sozen	ف	کپڑے سینے والی سوئی
سہیمہ	Sehima	ع	حصہ دار' شریک' شراکت دار
سہیلہ	Sahila	ع	ستارے
سہلہ	Suhla	ع	تارہ' ستارہ
سہاد	Suhad	ع	بیداری
سہاء	Suha	ع	ایک ستارے کا نام
سہر	Suhar	ع	حسن' خوبصورت' وجاہت
سہران	Sahran	ع	بیدار
سہیلی	Saheli	ار	دوست' ہجولی' سکھی
سہام	Saham	ع	تیر بردار' تیر انداز' تیر
سہامہ	Sahama	ع	تیز انداز کرنے والی
سہیرہ	Suhaira	ع	خوبصورت' سوہنی' حسین وجمیل
سہلہ	Sihla	ع	دریا کی ریت
سیاہ	Siah	ع	دوردراز کا سفر
سیبہ	Seeba	ت	مورچہ
سجیہ	Sijia	ع	طبیعت
سید بخت	Said Bakht	ف	خوش بخت

marfat.com

Marfat.com

سیدہ	Saeeda	ع	سردار، پیشوا، رہبر، سیدہ عورت، سلطان محمود غزنوی کے عہد میں رہی ہمدان اور اصفہان کے دیلمی حکمران فخر الدولہ ابوالحسن علی کی اہلیہ کا نام ملکہ سیدہ جو نہایت دانشمند اور مخیر خاتون تھی۔ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد حکومت کی باگ ڈور خود سنبھالی اور مملکت کا انتظام خوش اسلوبی سے چلاتی رہی۔
سیمبا	Seemba	ف	طلسمی
سیم تن	Saimtan	ف	چاندی کے جسم والی
سیمیر	Simeer	ف	چاندی کا جسم، چاند کا بدن
سیف	Safe	ع،ا	تلوار، شمشیر
سیفور	Sefoor	ع	سیاہ رنگ کا ریشمی کپڑا
سیقہ	Seeqa	ع	بے پانی کا بادل
سیمیں عذرا	SimeenAzra	ف	گوری، سفید، چاندی جیسے رخساروں والی
سیمیں رخ	Simeen Rukh	ف	چاندی جیسے چہرے والی، گوری چٹی
سیملہ	Seemla	ف	چاندی
سیماب	Simab	ف	پارہ
سیلی	Sally	عبر	شہزادی، بادشاہ کی بیٹی
سیمون	Samone	عبر	اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول، برگزیدہ
سیمیں	Simin	ف	چاندی جیسی، چاند کی طرح
سیمی	Simi	ف	چاندی کا
سیہ	Sia	ت	مورچہ
سیمیا	Simia	ف	جادوئی، علم، طلسم، طلسمی
سیما	Sima	ف	ماتھا، پیشانی، اندازہ، قیافہ

marfat.com
Marfat.com

سیدۃ النساء	Sayyed-un-Nisa	ع	عورتوں کی سردار' حضرت فاطمہؓ کا لقب۔
سیوتی	Sayoti	ہ	سفید گلاب کا پھول' گلاب کی طرح کا پھول
سیلیہ	Silia	ع	پلکیں' جالی' جالی دار
سیراد	Sirad	ع	خالص ہونا' ریشم
سیراء	Sierra	ع	ریشم' خالص سونا
سیری	Sairee	اُف	آسودگی' اطمینان' سکون
سیادت	Sayadet	ع	سرداری' بزرگی
سیمین	Simine	ف	سفید' روشن' منور' چمکدار
سیرت	Sirat	ع	عادت' خصلت' طبیعت
سیران	Siran	ع	سیر کرنا' چلنا پھرنا' گھومنا

marfat.com
Marfat.com

ش

شاجر	Shajer	ع	روکنے والا' زمانہ کی سختی
شاربہ	Sharbah	ع	پینے والی
شارح	Sharah	ع	کھول کر بیان کرنے والا' شرح کرنے والا
شارک	Sharik	اُف	مینا' ایک پرندہ
شارکہ	Sharka	ع	باہم شامل ہونے والی' شرکت کرنے والی
شازرہ	Shazrah	ع	تیز مزاج
شازیہ	Shazia		نادر' عجیب' انوکھی' کبھی کبھی' گاہے بگاہے
شائفہ	Shaifa	ع	شوق' مشتاق
شائقہ	Shaiqa	ع	مشتاق' شوق' ذوق' شوقین
شادزی	Shadzy	ف	خوشی کے ساتھ زندہ رہ
شادنہ	Shadna	ع	ہرن کا بچہ
شادکام	Shadkam	ف	خوش' پُر مسرت' مسرور' کامیاب وکامران
شاعرہ	Shaira	ع	شعر گوئی کرنے والی
شاغلہ	Shaghila	ع	مصرف ہونے والی
شارنہ	Sharna	ع	ہرن کا بچہ
شارفہ	Sharfa	ع	صاحب شرف ہونے والی
شائستہ	Shaista	ف	مہذب' باسلیقہ' تمیز والی
شاہ	Shah		(شاہ بانو) مالک' بادشاہ' سلطان' خاوند' شطرنج کا مہرہ' دولہا' نوشہ' بڑا' عظیم

marfat.com
Marfat.com

شاہ دین	Shah Deen	ف	ہرن کا بچہ
شاہسوار	Shahsawar	اُف	گھوڑے کی سواری کا ماہر
شاہوار	Shahwar	ف	بادشاہوں کے قابل' بہت عمدہ نفیس چیز
شاہین	Shaheen	ف	عقاب
شاذ	Shaz	ع	عجیب' انوکھا' غیر معمولی' اتفاقاً' گاہے گاہے
شاذب	Shazab	ع	مقام سے ہٹ کر
شاذیہ	Shazia	ع	عجیب وغریب' انوکھی' غیر معمولی
شاکرہ	Shakra	ع	شکرادا کرنے والی
شاد	Shad	ف	بے غم' خوش' مسرور' راضی' پرمُسرت' مغل بادشاہ ظہیرالدین محمد بابر کی ممانی کا نام شاذ بیگم جو بڑی دلیر اور جرأت مند خاتون تھی۔ فنون سپہ گری میں ماہر تھی۔ چوگان میں بھی اس کو کمال درجہ حاصل تھا۔
شادبہر	Shadbher	ف	نیک بخت' خوش بخت' خوش نصیب
شاہندہ	Shahenda	ف	بادشاہوں کی مانند' بادشاہوں کی عطا کردہ
شاری	Shari	ع	خریدنے والی
شاہ رس	Shah Ras	ف	فراخ' کشادہ' بادشاہ تک رسائی حاصل کرنے والی
شامیہ	Shamia	ع	سونگھنے والی
شادی	Shadi	اُف	خوشی' عید' بیاہ
شادین	Shadin	ف	ہرن کا بچہ
شاکلہ	Shakila	ع	مشابہت رکھنے والی' مشابہ
شادیہ	Shadia	ف	سرور' مسرت' خوشی
شاذِب	Shazib	ع	اپنی جگہ سے دور' اپنے مقام سے ہٹ کر

marfat.com
Marfat.com

شادخانم	Shad Khanem	ف	خوش وخرم امیرزادی' بہت خوش بیگم' امیر تیمور کے خاندان کی نہایت اچھی خطاط جو اس فن میں بہت مشہور تھی۔ ایک مرتبہ بلخ کے حکمران نے مغل بادشاہ شاہجہاں کو تحائف بھیجے تو اس میں شادخانم کے ہاتھ کا خط ریحان میں لکھا ہوا ایک قرآن مجید بھی بھیجا جو فن خطاطی کا ایک عظیم شاہکار تھا۔
شاہینہ	Shahina	ف	مادہ عقاب' مادہ شاہین' چھوٹے عقاب
شاداں	Shadan	ف	پرمسرت' شاد' خوش' آسودہ' مسرور' خوشحال
شارق	Sharque	ع	چمکنے والا' آفتاب
شارقہ	Sharqa	ع	سورج کی روشنی' آفتابی' روشن' منور
شابان	Shaban	ف	شباب' جوانی.
شافیہ	Shafia	ع	شفا دینے والی' صحت عطا کرنے والی
شادمان	Shadman	ف	آسودہ' خوشحال' خوش
شاہجہاں	Shah Jehan	ف	دنیا کا بادشاہ' دنیا کا سردار' ریاست بھوپال کی ایک حکمران نواب شاہجہاں بیگم جو بڑی عالمہ اور فاضلہ تھی۔ اکتیس برس کی عمر میں بھوپال کی حکمران بنیں۔ علم و ادب سے بھی گہرا لگاؤ رکھتی تھیں۔ ان کی تصنیفات میں ''تہذیب النسواں'' ''تاج الاقبال'' اور ''خزینۃ اللغات'' بہت مشہور ہیں۔ 1318ھ میں وفات پائی۔
شادہ	Shadeh	ف	پرمسرت' خوش' مسرور' شاد
شارزہ	Sharza	ع	گرم مزاج والی' تیز مزاج' تندمزاج
شائزہ	Shaiza	ع	عجیب وغریب' غیر معمولی' انوکھی' حیرت انگیز
شاکیہ	Shakia	ع	شکوہ کرنے والی' گلہ کرنے والی
شاد	Shad	ف	پرمسرت' بے غم' خوش' مسرور
شازیہ	Shazia	ع	ہرن کا بچہ

marfat.com
Marfat.com

شاما	Shama	ف	ایک خوش الحان پرندہ، بلبل
شاریہ	Sharia	عبر	شہزادی، بادشاہ کی بیٹی
شارِبہ	Sharib	ع	پینے والی
شاہ رخ	ShahRukh	ف	خوبصورت چہرہ، حسین چہرہ
شاہفہ	Shafeh	ع	منہ پر بات کرنے والی
شارعین	Shareen	ع	کشادہ راہ، کھلا راستہ، چوڑا راستہ، وسیع راستہ
شابہ	Shabeh	ف	جوان عورت
شاھہ	Shaheh	ع	مشابہت رکھنے والی، مماثلت رکھنے والی
شاذہ	Shazeh	ف	غیر معمولی، تنہا، اکیلی، واحد
شاداب	Shadab	ف	سرسبز، ہرا بھرا، تروتازہ
شاق	Shaqe	ع	بلند اونچی چٹان
شاقہ	Shaqeh	ع	تنگی، مشکل، دشوار، کٹھن
شاہ سلطان	Shah Sultan	ف	حکمران، بادشاہ، ترکی کے مشہور حکمران سلطان سلیم اول کی بیٹی کا نام شاہ سلطان جو بڑی دیندار اور نیک کردار خاتون تھی۔ اس نے ایک عظیم الشان جامع مسجد اور ایک خانقاہ بھی تعمیر کروائی تھی۔ بعد میں اس خانقاہ کی جگہ مدرسہ بھی بنادیا گیا۔
شاہانہ	Shahana	ف	بادشاہوں کے موافق، بادشاہوں کے لائق
شاہدہ	Shahida	ع	خوبصورت، حسین وجمیل، حاضر، موجود، گواہ
شاہدی	Shaheedi	ا ع	شہادت، گواہی
شاہوار	Shahwar	ف	شہنشاہوں کے قابل، بادشاہوں کے لائق
شارِدہ	Sharida	ف	بھاگنے والی شیرنی، دوڑنے والی شیرنی
شاکہہ	Shakeh	ع	کسی جیسی ہونا، مشابہ ہونا، مثل ہونا

marfat.com
Marfat.com

شاہ خانم	Shah Khanum	ف	بڑے گھر کی عورت
شان	Shan	ا ع	عظمت' شوکت' توقیر' قدرت' انداز نسبت
شانہ	Shana	ع	کندھا
شانفہ	Shanefa	ع	وفا کرنے والی' باوفا
شامین	Shamin	ف	شام کی' شام کا راگ
شافعہ	Shafe	ع	شفاعت کرنے والی' سفارش کرنے والی
شافہ	Shafa	ع	جلا دینا' صیقل کرنا' اجاگر کرنا' چمکانا
شافہہ	Shafiha	ع	منہ پر بات کرنے والی
شاطرہ	Shatera	ع	چالاک' ہوشیار
شاطیہ	Shatia	ع	دریا کا کنارہ
شارد	Sharid	ع	بھاگنے والا' نفرت کرنے والا
شاردا	Sharda	ہ	ایک قسم کا باجہ' پرندہ
شاردہ	Shardah	ف	بھاگنے والی شیرنی
شارجہ	Sharjah	ع	مشابہ ہونا' مانند ہونا' مثل ہونا
شادور	Shadur	ف	چاندی کا ہالہ
شارہ	Shareh	ع	شعر کہنے والی عورت
شایاں	Shayaan	ف	لائق' موزوں
شب تاب	Shab-e-tab	اف	رات کو چمکنے والا' چاند' چراغ' جگنو' جواہر
شبعیہ	Shabee	ع	دانشمند
شبیراں	Shabbeeran	ع	دلی' بہادر
شبینہ	Shabina	ع	رات کی' شب کی
شبین	Shabin	ف	رات کا' رات کا راگ

marfat.com
Marfat.com

شبیعہ	Shabia	ع	دانشمند، عقلمند، نہایت سمجھدار
شبنم	Shabnam	ف	رات کو پڑنے والی نمی، اوس
شبرہ	Shabra	ع	عطیہ، تحفہ، نذرانہ، ہدیہ
شبابہ	Shababa	ع	بانسری، شہنائی
شبانہ	Shabana	ف	شب کی، رات کی
شب افروز	Shab Afroz	ف	رات کو روشن ہونے والی، جگنو، چاند
شبانہ	Shabana	ع	بکریاں چرانے والی
شبہ	Shibh	ع	مانند، مثل، مشابہ، شبیہ، فوٹو، تصویر
شبلہ	Shibla	ع	چھوٹی شیرنی، شیر کا بچہ
شبیہ	Shibih	ع	مثل، مانند، مشابہ، تصویر
شبو	Shaboo	ف	رات کی رانی، رات کو مہکنے والی ایک پھلواری
شبالہ	Shabala	ع	شیرنیاں۔ شیر کے بچے۔
شبانہ	Shabana	ع	شہنائی، بانسری
شبم	Shubm	ع	سردی کا موسم، موسم سرما
شجاعت	Shujat	ا، ع	بہادری، دلیری
شجیعہ	Shajia	ع	بہادر، دلیر، جری، نڈر
شجرۃ الدر	Shajra Tulder	ع	مصر کے ایوبی حکمران الملک الصالح نجم الدین ایوب کی ملکہ کا نام شجرۃ الدر نے اسی (80) یوم تک مصر پر حکمرانی بھی کی۔
شحرہ	Shahrah	ع	شمار کیا ہوا
شحم	Shaham	ا، ع	چربی، مٹاپا، فربہی
شحیمہ	Shahima	ف	فربہ، توانا، موٹی، تنومند
شحنہ	Shehna	ف	پاسبان

marfat.com
Marfat.com

شحونہ	Shehwina	ف	زورآور' قوی' توانا' طاقتور
شحبہ	Shuhbah	ف	دھار (چھری یا کسی حربے کی)
شخیصہ	Shakhisa	ع	موٹی' فربہ' توانا
شغاء	Shagha	ع	تندرستی' صحت
شغبہ	Shaghba	ف	دھار' (چاقو یا کسی ہتھیار کی دھار)
شدرہ	Shadra	ف	بکھری ہوئی
شدفہ	Shadfa	ع	ٹکڑا
شدہ	Shada	ف	جھنڈا' علم' پرچم' نشان
شروط	Sharoot	ع	شرط کی جمع' عہد' پیمان' اقرار
شروق	Sharooq	ع	آفتاب کا طلوع ہونا' کھجور وغیرہ کا خوشہ نکل آنا
شرنا	Sharna	ع	شہد
شری	Shary	ا' س	ایک شراب' سفید پھولوں کے باغ کی
شریقہ	Shariqa	ع	حسین وجمیل لڑکی' خوبصورت لڑکی' طلوع ہونے والا سورج
شریفاں	Shareefan	ع	نیک
شریفہ	Sharifa	ع	نیک لڑکی' شریف لڑکی' حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکرؒ کی صاحبزادی کا نام جو نہایت عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ آپ مخدوم علی احمد صابر کلیریؒ کے نکاح میں تھیں۔
شرارہ	Sharara	ف	چنگاری
شراکت	Sharakat	ا' ع	ساجھا' حصہ داری
شرفیہ	Sharfia	ع	عزت وتکریم' مرتبہ دینا' بزرگی دینا
شریہ	Sharia	ع	عادت' خصلت' طریقہ' اطوار' سرشت' طبیعت

marfat.com

Marfat.com

شرافت	Sharafat	ع	اچھائی' بھلائی' بزرگی' مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کی اہلیہ کا نام شرافت محل جو بڑی دیندار اور فیاض خاتون تھیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھتی تھیں۔
شرمیلہ	Shermila	ار	شرم والی' حیادار' شرمیلی
شرمیلی	Sharmeeli	ا	شرمیلی
شرکہ	Shirkah	ع	شامل ہونے والی' شریک ہونے والی
شرتا	Sherta	ع	شہد
شرمین	Shermin	ف	شرمیلی' حیادار' نرم و نازک
شرف خانم	Sherf Khanim	ع۔ف	خوبی والی امیرزادی' بزرگی اور اچھائی والی بیگم' نیک خاتون' ترکی کی ایک مشہور شاعرہ کا نام شرف خانم جو تیرہویں صدی ہجری میں گزری ہیں۔ آپ کا دیوان ترکی میں بہت شہرت رکھتا ہے۔
شرفہ	Shirfa	ع	پسندیدہ حال' کنگرہ
شرفہ	Sherfa	ع	نیک' شریف' بھلی
شربیہ	Sherbia	ع	تیر کی کمان
شریل	Sharil	ا۔س	سفید پھولوں کے باغات
شرلی	Sherli	ا۔س	سفید مرغزاروں میں رہنے والی
شرزہ	Sherza	ع	غصیلی' ٹکڑے ٹکڑے کرنا' کاٹنا
شربا	Shurba	ع	شہد
شربہ	Sherba	ع	تالاب
شریکہ	Sharika	ع	حصہ دار' شامل' شریک
شرمہ	Sherma	ف	شرمندہ' حیادار

marfat.com
Marfat.com

شرقت	Sharqat	ع	سورج نکلنے کی جگہ' سورج
شرقیہ	Sherqia	ع	مشرق رخ
شرکہ	Shirkah	ع	شریک ہونے والی
شرف	Sherf	ع	خوبی' برتری' بزرگی' لاہور کی ایک نیک سیرت خاتون شرف النساء بیگم آپ کا مقبرہ بیگم پورہ میں واقع ہے۔
شرف النساء	Sharf-un-Nisa	ع	عورتوں کی سردار
شزبہ	Shazba	ع	فرصت' فارغ
شصیفہ	Shaseefa	ع	پیار کرنے والی
شنطیہ	Shantia	ع	ٹکڑا' ریشہ' ریزہ
شنطفہ	Sihntefa	ع	روکنا' منع کرنا
شظفہ	Shazfah	ع	منع کرنا' روکنا
شعدانہ	Shadana	ف	ایک عارفہ زاہدہ کا نام جو عجمی تھیں اور انتہائی خوش الحان تھیں۔ حضرت فضیل بن عیاضؒ اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دعا کی درخواست کرتے۔ آپ کی مجلس وعظ میں بڑے بڑے عارف وزاہد حاضر ہوتے تھے۔
شعرانہ	Sharana	ف	زاہد' متقی
شعشہ	Shasha	ع	روشنی' چمک' اجالا' سورج' آفتاب' کرن' شعاع
شعیلہ	Shaeela	ع	بھڑکتی ہوئی آگ' دہکتی ہوئی آگ
شعوانہ	Shawana	ف	ایک عارفہ زاہدہ کا نام جو عجمی تھیں اور نہایت خوش الحان تھیں۔ حضرت فضیل عیاضؒ اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دعا کی درخواست کرتے۔ آپ کی مجلس وعظ میں بڑے بڑے عارف زاہد حاضر ہوکر وعظ سنتے تھے۔ آپ اکثر گریہ وزاری کرنے والی تھیں۔

Marfat.com

شعیرہ	Shaeera	ع	تلوار کا قبضہ' جو کا دانہ' عبادت
شعلہ	Shola	ف	شعاع' لو' لپک' لپٹ' آگ
شعیرہ	Shaira	ف	قربانی' صدقہ' شاخ
شعلہ رخ	SholaRukh	ف	سرخ چہرہ' دہکتا ہوا چہرہ
شعاع	Shua	ع	روشنی' چمک' کرن
شعور	Shaoor	ع	عقل' تمیز' سمجھ' جاننا
شغلہ	Shughla	ع	مشغول رکھنا' مصروف رکھنا
شفر	Shafar	ع	سینہ ور
شفیقہ	Shafiqa	ع	غم خوار' مہربان' ہمدرد' شفیق
شفت	Shaft	ع	ہونٹ' لب
شفتہ	Shuftah	ع	شفقت' رحم' کرم' مہربان
شفیعہ	Shafia	ع	شفاعت کرنے والی' سفارش کرنے والی
شفقی	Shafqi	ع	شفق رنگ' شفق جیسی' سرخ رنگ
شفق	Shafq	ع	طلوع و غروب آفتاب کے وقت کی وہ سرخی جو آسمان پر دکھائی دیتی ہے۔
شفار	Shaffar	ع	کنارا' حضرت عمر فاروق کی خالہ زاد بہن کا نام
شفا	Shifa	ع	صحت' تندرستی
شفاعت	Shafat	ا' ع	گناہوں کی معافی کی سفارش
شفاء	Shafah	ع	کنارہ' خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کی خالہ زاد بہن کا نام۔
شفقت	Shafqat	ع	پیار' اخلاص' محبت' مہربانی
شفقت النساء	Shafqat-un-Nisa	ع	محبت' اخلاص
شفقہ	Shafqa	ع	مہربانی' شفقت' کرم' رحم

marfat.com
Marfat.com

شفیفہ	Shafifa	ع	بہت محبت کرنے والی، بہت پیار کرنے والی
شفان	Shifan	ع	بارش کے ساتھ چلنے والی ٹھنڈی ہوا
شفوقہ	Shafuqa	ف	حیران کن بات کرنا
شقذ	Shaqize	ع	جاگتے رہنے والا، بہت نظر لگانے والا
شقہ	Shiqa	ع	سہندور، شنگرف (دوائی)
شقیصہ	Shaqisa	ع	تیز رفتار، شریف، شامل
شقائق	Shaqaiq	ع	گل لالہ، لالہ کے پھول
شقر	Shaqr	ع	شنگرف، سیندور
شقر	Shaqer	ع	پہاڑی لالہ
شقراء	Shaqrah	ع	آٹھویں صدی ہجری میں مصر کے سلطان الملک الناصر ناصر الدین حسن کی بیٹی کا نام شہزادی شقراء جو اپنے وقت میں مصر میں بہت مشہور تھی۔ عوامی بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ اس نے مصر میں بہت سی عمارات تعمیر کروائیں۔
شکیمہ	Shakima	ع	مشابہت، مشابہ، طبیعت، عادت، مماثلت
شکیلہ	Shakila	ع	خوبصورت، حسین وجمیل
شکیبہ	Shakiba	ف	بردبار، تحمل کرنے والی، صبر وبرداشت کرنے والی
شکمہ	Shikma	ع	عالم، دنیا، جہان، عوض، بدلہ
شکردیان	Shakerdiyan	ف	میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا
شکریہ	Shukria	ف	تشکر، تہنیت، سپاس
شکرین	Shakrin	ف	شکر جیسی، شیریں، میٹھی
شکوفہ	Shakoofa	ف	شگوفہ، ان کھلا پھول، کلی
شکورن	Shakooren	ار	شکر گزار، بہت شکر کرنے والی

marfat.com
Marfat.com

شگوفہ	Shagoofa	ف	ان کھلا پھول' کلی
شگفتہ	Shagufta	ف	کلی' ان کھلا پھول' شگوفہ
شگرفہ	Shigerfa	ف	عجیب' نادر' نیک' بزرگ' شریف
شمطہ	Shamanta	ع	نرم گفتگو کرنا' روکنا
شمول	Shamool	ع	ہوا جو قطب کی طرف سے چلے' شراب شمالی ہوا میں ٹھنڈی کی ہوئی شراب
شمیہ	Shamia	ع	عادت
شمیمہ	Shamima	ف	مہک' خوشبو
شمائم	Shamaem	ع	مہک' نکہت' خوشبوئیں
شملہ	Shimla	ع	ہوا' باد
شمظہ	Shimza	ع	باز کرنا' منع کرنا' حلیمی کی بات چیت کرنا' نرم گفتگو کرنا
شمس	Shams	ع	سورج' آفتاب' حیدر آباد دکن کی مشہور عالمہ اور واعظہ شمس النساء جو عربی اور فارسی زبانوں پر عبور رکھتی تھیں۔ قرآن پاک کی تفسیر اور دینی علوم کی دولت سے مالا مال تھیں۔ خواتین کے مجمعوں میں وعظ کیا کرتی تھیں۔
شمس النساء	Shammas-un-Nisa	ع	عورتوں کا سورج
شمرہ	Shimra	ع	دریا دل' سخی' فیاض
شمع المبین	Shama-ul-mean	ا ع	وہ تجلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دکھائی دی
شمع سحر	Shama Saher	ف	سورج' آفتاب' شمس
شماصہ	Shamasa	ع	فوری' جلدی' تیزی' عجلت' پھرتی' سرعت

marfat.com
Marfat.com

شمامہ	Shamama	ف	بھینی خوشبو، بھینی مہک
شمسی	Shamsi	ف	شمس سے منسوب
شمائل	Shimeel	ع	سرشت، طبیعت، خصلت اتر کی سمت
شمائلہ	Shamaila	ف	شکل، چہرہ، وضع، صورت
شمرانہ	Shimrana	ع	بردبار، سنجیدہ، خاموش، متین
شمیطہ	Shamita	ع	فجر، صبح
شمیرہ	Shamira	ع	تجربہ کار، ماہر، محنتی
شمع رو	ShamaRoo	ف	سرخ چہرے والی
شمسہ	Shamsa	ع	روشن دان، چھتری، کنگھی، کلس کی سنہری تھالی
شمع رخ	ShamaRukh	ف	لال چہرے والی، سرخ گالوں والی
شمیمہ	Shamima	ع	طبیعت، عادت، خصلت، سرشت
شمرہ	Shumra	ع	شمار کی ہوئی، گنی ہوئی
شمیلہ	Shamila	ف	عادت، سرشت، خصلت، طبیعت
شمشاد	Shamshad	ف	ایک خوبصورت درخت
شمشیر	Shamsheer	ا ف	شم بمعنی ناخن، شیر کے ناخن کی مانند، تلوار، تیغ
شمشیرہ	Shamsheera	ف	تلوار
شمیم	Shamim	ف	نکہت، مہک، خوشبو
شمع	Shama	ف	چراغ، موم بتی، دیا
شماقہ	Shamaqa	ع	خوشی، سرور، مسرت، تیزی، پھرتی، چستی
شمہ	Shamah	ف	عادت، طبیعت، خصلت
شمع	Shama	ع	موم یا چربی
شمعی	Shamee	ار	مونگیا رنگت، سبز رنگ
شماع	Shamaa	ع	ہنسی، دل لگی، خوشی

marfat.com
Marfat.com

شمس الضحیٰ	Shamsul Zoha	ع	سورج کی روشنی، دوپہر کا سورج، چھٹی صدی ہجری کی مشہور عالمہ اور زاہدہ کا نام شمس الضحیٰ جنہوں نے علم حدیث اور تصوف کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ اور بے شمار خواتین کو اپنے فیوض و برکات سے نوازا۔
شمامچہ	Shamamcha	ف	خوشبودار چیز
شنیدہ	Shunaida	ف	سنا ہوا، سماعت کیا ہوا
شناء	Shana	ف	تیراک، تیرنے والی
شنکول	Shinkol	ع	حسین و جمیل، خوبصورت، شوخ، زیبا
شناہ	Shuna	ف	تیراکی
شناس	Shanas	ف	جاننے والا، پہچاننے والا، شناخت کرنے والا
شنار	Shunar	ف	تیراک
شوکت	Shaukat	ع	شان، رعب، دبدبہ
شونہ	Shoona	ع	جنگی جہاز، غلے کا گودام
شواد	Shawad	ع	سرخاب، چکور
شوار	Shawar	ع	چکور، سرخاب
شوہرہ	Shohra	ف	پھولوں کا سہرا
شونیز	Shoniza	ف	کلونجی
شوبھا	Shobha	س	خوبصورت، حسن، سجاوٹ، زیبائش
شہی	Shahi	ع	خواہش مند، آرزومند، خواہش کردہ شے، پرشہوت، مرغوب
شہید ناز	Shaheed-e-Naz	ع، ف	عاشق
شہیرہ	Shahira	ع	نامور، مشہور، شہرت یافتہ، معروف
شہابہ	Shahaba	ع	آگ کا شعلہ

marfat.com

Marfat.com

شہادت	Shahadat	اُ ع	گواہی' راہ خدا میں جان دینا' کلمۂ شہادت
شہانہ	Shahana	ف	شاہی' سلطانی
شہانی	Shahani	ا	دلہن سے منسوب' عمدہ' اعلیٰ
شہپارہ	Shehpara	ف	بادشاہ کا تحفہ' بادشاہ کا عطیہ
شہرزاد	Sherzad	ف	ملکۂ الف لیلیٰ کی ملکہ
شہرے	Shehray	ت	انتہائی خوبصورت
شہنا	Shehna	ف	بانسری' شہنائی
شہریے	Shehryay	ت	پھولوں کا سہرا' حسن کی شہرت' خوبصورتی کا شہرہ
شہناز	Shehnaz	ف	دلہن' موسیقی کا راگ
شہرناز	Shernaz	ف	دلہن' موسیقی کا ایک راگ' ایران کے ایک بادشاہ جمشید کی بہن کا نام
شہلا	Shehla	ع	گہری نیلی آنکھوں والی جوان لڑکی
شہرت	Shohret	ع	مشہوری' ناموری' نیک نامی' چرچا
شہزادی	Shahzadi	ف	بادشاہ کی بیٹی
شہامہ	Shahami	ع	سجی سجائی گھوڑی
شہامہ نن	Shahama Nin	ع	خوبصورت گھوڑی
شہودہ	Shahooda	ع	حاضر ہونا
شہور	Shawer	ع	حاضر ہونا' (مذکر) شاہد کی جمع
شہوار	Shehwar	ف	شاہوں کے لائق' بادشاہوں کے قابل

marfat.com

Marfat.com

شہربانو	Sherbano	ف	خاتون شہر' معزز خاتون' ایران کے بادشاہ یزدجرد کی صاحبزادی کا نام جو ایران فتح ہونے کے بعد امام حسینؓ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کا مزار مبارک ایران کے شہر تہران کے نزدیک ایک اونچی پہاڑی پر واقع ہے۔
شہقہ	Shehqa	ف	نعرہ بازی
شہرہ	Shehra	ع	تحفہ' عطیہ
شہرہ	Shuhra	ف	شہرت' چرچا' مشہوری
شہامت	Shahmat	ع	دلیری' جرأت' شجاعت' بزرگی' شادمانی
شہبا	Shahba	ع	سیاہی مائل سفید رنگ' سفید و سیاہ گھوڑی
شہباز	Shahbaz	ف	بڑا باز' بڑا شاہین' حضرت بی بی پاک دامناںؒ میں سے ایک بی بی کا نام بی بی شہباز۔ مزار مبارک ایمپرس روڈ لاہور میں واقع ہے۔
شہدہ	Shehdah	ف	ایران کے شہر دینور کی رہنے والی عباسی خلیفہ مستعفی بامر اللہ کے عہد کی مشہور عالمہ' محدثہ اور عارفہ کا نام فخر النساء شہدہؒ۔ آپ نے عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک عظیم الشان درس گاہ تعمیر کروائی تھی۔ بغداد میں وفات پائی۔
شیاج	Shiyaj	ع	کوشش' پرہیز' قحط
شیلہ	Sheela	ع	شیر کا بچہ' شیرنی
شیلانہ	Shilana	ف	عناب
شیبا	Shiba	و	فریفتہ' دیوانی' شیفتہ
شیزی	Shizi	ف	آبنوس
شیرنیستان	Shirneestan	ف	جنگل کا شیر' بڑا بہادر

marfat.com
Marfat.com

شیریں	Shirin	ف	مٹھاس' میٹھی' مزیدار' لذیذ' ساتویں صدی ہجری کی نامور عالمہ اور محدثہ بی بی شیریں بنت عبداللہ ہندیہ۔ بے شمار لوگوں کو درس حدیث سے مستفید کیا۔ بہت سے مشہور علماء کرام آپ کے شاگرد تھے اور آپ کی مجلس وعظ میں سماعت کرتے تھے۔
شیریں کار	Sheerenkar	ف	خوبصورت کام کرنے والی
شین	Shin	ت	خوبصورت' حسین' اچھی' عزیز' پیاری
شینا	Shina	عبر	خلیق' ملنسار' خوش خلق' مہربان' کریم' وضع دار
شیدہ	Shaida	ف	چمکدار' روشن' منور
شیوا	Shiwa	ف	خوش کلام' خوش گفتار' فصیحہ بلیغہ
شیما	Shima	ع	عادت' طبیعت' خصلت' حضور نبی کریم ﷺ کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا نام۔
شیرارہ	Shirara	ف	چنگاری
شیراز	Sheeraz	ف	ایک شہر کا نام
شیرازی	Sheerazi	ف	شیراز کا باسی' ایک قسم کا کبوتر
شیرانہ	Shirana	ف	شہد جیسی' شیریں' میٹھی
شیوہ	Shewa	ف	عادت' طریقہ' اطوار
شیلا	Shaila	ا (قدیم)	ململ
شیلا	Shila	ک	پرنغمہ' سرود آگیں
شیفتہ	Shafta	ف	فریفتہ عاشق

marfat.com

Marfat.com

ص

صائبہ	Saiba	ع	مستقیم' سیدھی پہنچنے والی
صاحبہ	Sahiba	ع	سہیلی' عورت' خاتون' بیوی' مالکہ
صارمہ	Sarma	ع	جرأت مند عورت' دلیر عورت' بہادر عورت' چھوٹی تلوار
صاقبہ	Saqba	ع	نزدیک کرنا' قریب کرنا
صابرہ	Sabra	ع	صبر کرنے والی' برداشت کرنے والی
صابری	Sabri	ا' ع' ف	صابر سے منسوب سید علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری سے منسوب
صابیہ	Sabia	ع	شمال مشرقی ہوا' ستارہ پرست
صاحب دل	Saheb-E-Dil	ع	دلیر' عقلمند' حساس' دانشمند' روشن دل
صاحب صفین	Sahab-e-Safeen	ع	حضرت علیؓ
صاحب	Saheb	ع	دوست' ساتھی' اورنگ زیب عالمگیر کے عہد میں کابل کے نامور گورنر امیر خان کی اہلیہ کا نام جو بڑی دانشمند اور دلیر خاتون تھی۔ اپنے خاوند کی وفات کے بعد دو سال تک کابل کی گورنر بھی رہی۔
صاحی	Sahi	ف	چالاک' ہوشیار' روشن دن
صارہ	Sarah	ع	حاجت' ضرورت
صائقہ	Saiqa	ع	آسمانی بجلی' کڑکنے والی بجلی
صائلہ	Saila	ع	وار کرنے والی' حملہ کرنے والی

marfat.com
Marfat.com

صائم الدہر	Saim-ul-Dahir	ع	ہمیشہ روزہ رکھنے والا
صائمہ	Saima	ع	روزہ دار روزہ رکھنے والی
صالحہ	Saleha	ع	متقی' نیک' شریف' پرہیزگار
صامت	Samit	ع	چپ رہنے والا' خاموش رہنے والا' جما ہوا دودھ جیسں اونٹ سونا چاندی اور جواہرات
صانع	Sania	ع	کاریگر' بنانے والا' پیدا کرنے والا' خالق
صادرہ	Sadria	ع	اصرار کے ساتھ' مطالبہ کرنا
صادقہ	Sadiqa	ع	سچ بولنے والی' سچی' صدیقہ' راست گو
صاعدہ	Saida	ع	اونچائی پر چڑھنے والی' اوپر چڑھنے والی' بلندی پر چڑھنے والی
صاغیہ	Saghia	ع	آدمی' انسان' ماتحت
صافقہ	Safqa	ع	اترنے والی' جماعت
صارجہ	Sarja	ع	سچ بولنا' صاف گو' سچ بیان کرنا
صافرہ	Safra	ع	ایک پرندہ
صارف	Sarif	ع	درگذر کرنے والا' خرچ کرنے والا' کسی چیز کو استعمال کرنے والا شخص
صارفہ	Sarifa	ع	زمانہ کی گردش
صاحبزادی	Sahebzadi	ع	شریف زادی' بیٹی' لڑکی
صاحب جمال	Saheb-E-Jamal	ع	خوبصورت' حسین و جمیل
صبہہ	Sabha	ع	پرہیزگار
صبیرہ	Saibira	ع	قناعت کرنے والی' صبر کرنے والی' صابرہ
صبوح	Sabooh	ف	صبح کی شے

marfat.com
Marfat.com

صباح	Sabah	ف	خوبصورت' حسین وجمیل' اچھا' گورا' سفید' خوب
صبیحہ	Sabiha	ف	خوبصورت' گوری عورت' حسین وجمیل' اندلس کے مشہور اموی خلیفہ الحکم ثانی کی ملکہ کا نام ملکہ صبیحہ جو بڑی دانا اور نیک سیرت خاتون تھی۔ امور مملکت میں خلیفہ اس سے مشورے لیتا رہتا تھا۔ ملکہ صبیحہ نے قرطبہ شہر میں ایک عظیم الشان مسجد بھی تعمیر کروائی۔
صبار	Sabar	ف	بہت زیادہ صبر کرنے والی
صبورہ	Saboora	ع	صبر کرنے والی' صابرہ
صبح دل	Subh-E-Dil	ف	صاف دل' روشن قلب' نیک' پرہیزگار' روشن ضمیر
صبحی	Subha	ع	خوبصورت عورت
صباحت	Sabahat	ف	گوراپن' خوبصورتی' سفیدی' حسن
صبیہ	Sabia	ع	بیٹی' صاحبزادی' لڑکی' دختر
صباحہ	Sabaha	ف	حسین وجمیل لڑکی' خوبصورت لڑکی
صبا	Saba	ع	پروا' موسم بہار کی ہوا' ایک نغمہ
صبحہ	Subh	ف	گوری' چٹی' سفید
صبحا	Subha	ف	سفید رنگت والی عورت' گوری عورت' چٹی عورت
صباحیہ	Subahia	ف	خوبصورت' حسن' جمال
صبوحی	Saboohi	ف	صبح کو پینے کا مشروب
صبوری	Saburi	ع	نرمی کرنے والی' صابرہ
صبی	Sabie	ع	شوق' ذوق' بچپن' لڑکپن
صحبت	Sohbat	ا ع	یاری' دوستی' مل بیٹھنا' محفل' عورت کے ساتھ ہم بستری
صحہ	Saha	ف	گوری چٹی

marfat.com
Marfat.com

صحیفہ	Sahifa	ع	کتاب' رسالہ' کتاب کا لکھا ہوا صفحہ
صحفہ	Sahfa	ع	چھوٹے چشمے' جام' پیالہ
صحابت	Sahabat	ع	روشنی' اجالا' چمک' رفاقت' دوستی
صحاح	Sahah	ع	ٹھیک ہونا' صحت یاب ہونا' تندرست ہونا
صخریہ	Sakhria	ع	پہاڑی مقام' پتھروں کی جگہ
صخرہ	Sakhra	ع	بڑا پتھر
صدر	Sadar	ع	ہر چیز کا شروع' سینہ
صدر جہاں	Sadr-E-Jehan	ع	جہان کی حکمرانی' دنیا کی صدر' ریاست اودھ کے حکمران نواب شجاع الدولہ کی والدہ کا نام نواب صدر جہاں بیگم جو بڑی ولیہ' خدا ترس اور دیندار خاتون تھی۔ سال میں تین مہینے روزے رکھتی تھی۔ عوام کی فلاح و بہبود کی غرض سے کئی عمارات تعمیر کروائیں۔ ستانوے برس کی عمر میں فوت ہوئی۔ ان کا مزار مبارک اودھ میں موجود ہے۔
صدرالنساء	Sadr-un-Nisa	ع	سینہ
صدور	Sadoor	اُ ف	صادر ہونا' اجراء' صدر کی جمع
صدوقہ	Sadooqa	ع	بہت سچ بولنے والی' نہایت سچی' راست گو
صدفی	Sadfi	ف	سیپ کی مانند' صدف جیسی
صدف	Sadf	ف	سپی' سیپ
صدیق	Sadique	ع	نہایت سچا
صدیق	Sadiq	ع	دوست
صدیقہ	Sadiqa	ع	ہمیشہ سچ بولنے والی' سچی' راست گو' ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ

marfat.com

Marfat.com

صدکان گوہر	Sadkan Goher	ف	بہت حسین وجمیل بہت خوبصورت
صداقت	Sadaqat	ع	سچائی' سچ' سچا پن' خلوص
صدقی	Sadqi	ع	سچی' سچ کہنے والی' ترکی کی ایک مشہور شاعرہ کا نام صدقی جو دسویں صدی ہجری میں گزری ہے۔ بڑی عالمہ فاضلہ تھی۔ نیک کردار خاتون تھی۔ عارفانہ کلام میں ان کو خوب شہرت ملی۔ایک دیوان بھی ان کا شائع ہو چکا ہے۔
صرحہ	Serha	ع	ٹھوس زمین' سخت زمین
صرعیہ	Saraia	ع	ارادہ' عزم
صریر	Sareer	اُ ع	صدا' قلم چلنے کی آواز
صریمہ	Sarima	ع	کہانی' قصہ' داستان' ارادہ' عزم
صراحہ	Saraha	ع	تفصیل' تشریح' وضاحت' خلوص' سچائی
صراط	Sarat	اُ ع	راستہ' راہ راست' جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے
صرہ	Sarah	ع	روپوں کی تھیلی
صراحت	Sarahat	ع	صفائی' آشکارہ' عیاں' وضاحت
صریف	Sarif	ع	تازہ دودھ' خالص چاندی
صرح	Sarah	ع	کھری' خالص' ملاوٹ سے پاک
صرامت	Saramat	ع	بہادری' ہوشیاری' چالاکی' شجاعت' بزرگی
صعید	Saeed	اُ ع	سطح زمین' مٹی وہ مٹی جس سے مسح کریں
صعیدہ	Saeeda	ع	مٹی' خاک
صعوہ	Saudha	اُ ع	ممولا' جھانواللہ میاں کی دھوبن ایک چڑیا کا نام
صعودہ	Saooda	ع	اونچائی پر چڑھنے والی بلندی پر چڑھنے والی

marfat.com

Marfat.com

صغریٰ	Sughra	ع	چھوٹی، کمسن
صغیرہ	Saghira	ع	کم عمر، کمسن، چھوٹی
صفوت	Safwat	ع	برگزیدہ، صاف، پاکیزہ، ترکی کی ایک مشہور شاعرہ کا نام صفوت جس نے تیرہویں صدی ہجری میں ترکی میں خوب شہرت پائی
صفورا	Safoora	ع	برگزیدہ، متقی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کا نام جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔
صفدری	Safdri	ع	صفوں کو چیرنے والی، صفوں کو پھاڑنے والی
صفیر	Safeer	ع	پرندوں کی چہچہاہٹ
صفیحہ	Safyaha	ع	چوڑی، تلوار، کوئی بڑی چیز
صفیہ	Safia	ع	برگزیدہ عورت، پاک دامن عورت، پاکیزہ، خانہ کعبہ کے کلید بردار حضرت شیبہ بن عثمانؓ کی صاحبزادی کا نام صفیہ۔ آپ کا شمار تابعیات میں ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی شاگرد تھیں۔ احادیث مبارکہ کی تمام کتب میں آپ کی روایات موجود ہیں۔
صفیحہ	Safiha	ع	چوڑی شمشیر، چوڑی تلوار، چوڑا پتھر
صفواء	Safwa	ع	نرم پتھر
صفوار	Safwar	ع	نرم پتھر
صفاء	Safa	ع	خالص، رفاقت، پاکیزگی، پاکی
صفات	Sifaat	ع	تعریف، علامتیں
صقوت	Saqoot	ع	خالص
صقیل	Saqeel	ع	روشن، چمکدار
صلابت	Salabat	ا،ع	سختی، مضبوطی، استحکام

marfat.com

Marfat.com

صلحہ	Sulha	ع	رفاقت' ملاپ' دوستی
صلبیہ	Salbia	ع	آنکھوں کا ساتواں پردہ
صمد	Samad	ع	بے نیاز' اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام
صمود	Samood	ع	عربوں کا ایک بت
صمیان	Samyan	ع	دلاور اور حملہ کا سچا آدمی' ماہر آدمی
صمیدہ	Samida	ع	تھوڑے پر صبر کرنے والی' قناعت کرنے والی' بے پرواہ' بے نیاز
صمہ	Samih	ع	جرأت مند' دلیر' نڈر' بہادر
صمیمہ	Samima	ع	راست گو' سچی' مخلص' خالص
صماء	Sama	ع	فدیہ' بچائی ہوئی شے
صناعت	Sanat	ا' ع	ہنر' کاری گری' دست کاری
صندلین	Sandlin	ف	صندل کی بنی ہوئی' صندل جیسی
صنوبر	Sanober	ف	سرو کا درخت' ایک درخت کا نام
صندل	Sandal	ف	ایک خوشبودار لکڑی' چندن
صنم	Sanam	ف	خوبصورت' حسین وجمیل' رفیق' دوست' محبوب
صنیعہ	Sania	ع	نیکی' شرافت' بھلائی
صواب اندیش	Sawab Andesh	ا' ع	ٹھیک اور مناسب سوچنے والا' بہتر سوچنے والا
صولت	Solat	ع	دبدبہ' رعب' سلطان ٹیپو شہید کے خاندان کی ایک نیک دل اور مخیر خاتون صولت النساء بیگم جو کلکتہ سے حج کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئیں تو وہیں پر ایک دینی مدرسہ قائم کرنے کی غرض سے ایک خطیر رقم اپنی طرف سے پیش کی اس مدرسہ کا نام ''مدرسہ صولتیہ'' ان کے نام پر رکھا گیا جو آج تک قائم ہے

marfat.com
Marfat.com

صوفیہ	Sufia	ع	پرہیزگار عورت' متقی' برگزیدہ
صومعہ	Suma	ع	عبادت خانہ
صومر	Sumer	ع	ایک خوشبو' تلسی' ریحان' نازبو
صوفیا	Sofia	یو	دانائی' دانشمندی' عقل مندی' سمجھداری
صویب	Saoeeb	ع	راست و درست
صہیرہ	Sahira	ع	سورج کی تپش' پگھلانے والی
صورت	Surat	ع	نمونہ' پیکر' شکل
صہبا	Sehba	ع	خیبر کے ایک علاقہ کا نام' انگور کی سرخ شراب
صیدا	Saida	ع	صحرا' جنگل' ریگستان
صیدافگن	Saydafgan	ع' ف	شکاری
صیحہ	Saiha	ع	بلند آواز' اونچی آواز
صیاح	Siah	ع	ایک خوشبو
صیانت	Sianat	ع	حفاظت' پاسبانی' بچاؤ
صیرفی	Sairfi	ع	صراف' کھوٹا کھرا پرکھنے والا
صیمہ	Saima	ع	بہادر

marfat.com
Marfat.com

ض

ضابطہ	Zabita	ع	محافظ' مدبر' قابض' حاکم محتاط
ضامنہ	Zamina	ع	ضمانت دینے والی' ذمہ دار
ضادہ	Zadeh	ع	فتح پانا' حاوی ہونا' غالب آنا
ضارب	Zarib	ع	مارنے والا' چوٹ لگانے والا
ضاربہ	Zareba	ع	لڑاکا' جنگجو' مارنے والی' ضرب لگانے والی
ضاری	Zari	ع	رات کو آنے والی
ضابر	Zahir	ع	پہاڑ کی چوٹی' وادی
ضامرہ	Zamira	ع	چھپی ہوئی' پردے میں' پوشیدہ' مخفی
ضامل	Zamil	ع	خشک
ضاہبہ	Zahiba	ع	ظاہر' عیاں
ضاحکہ	Zahika	ع	ہنسنے والی
ضاحکمہ	Zahkma	ع	ہنسنے والی
ضاحیہ	Zahia	ع	آشکارا' ظاہر' عیاں
ضافرہ	Zafira	ع	حمایت کرنے والی' مدد کرنے والی' مددگار' معاون
ضاحنکہ	Zahinka	ع	ہنسنے والی' ہنستی ہوئی
ضالہ	Zaleh	ع	گمشدہ چیز' کھوئی ہوئی چیز
ضافہ	Zafa	ع	کسی کا مہمان ہونا
ضطمر	Zutmer	ع	موتی' گوہر
ضغیرہ	Zagheera	ع	گھنگھریالے
ضتیفہ	Zatifa	ع	مہمانداری کرنا' خاطر و مدارت کرنا

marfat.com
Marfat.com

ضجن	Zajan	ع	ایک پہاڑ کا نام
ضحک	Zahak	ع	ہنسنا
ضحکہ	Zahika	ع	سب پر ہنسنے والی' جس پر لوگ ہنسیں' مسخرہ
ضحاکہ	Zahaka	ع	ہنسنے والی عورت
ضخامہ	Zakhama	ع	بڑے ڈیل ڈول والی عورت
ضخیم	Zakheem	ع	بڑے حجم والا' بہت بڑا' موٹا
ضربان	Zarban	ف	ایک' کوند' چمک
ضروب	Zaroob	ع	بہت مارنے والا
ضریبہ	Zariba	ع	خصلت' عادت' سرشت' تلوار کی تیزی
ضرغامہ	Zerghama	ع	شیرنی' چھوٹا شیر
ضرغامر	Zarghamar	ع	شیرنی' چھوٹا شیر
ضرمہ	Zurma	ع	آگ' آتش
ضفیرہ	Zafira	ع	سر کے گندھے ہوئے بالوں کا جوڑا' چوٹی
ضفہ	Zafa	ع	دریا کا کنارہ
ضمانت	Zamanat	ا'ع	ذمہ داری' کفالت' ضامنی
ضمائر	Zamaer	ا'ع	ضمیر کی جمع' دل' قلب' خیال' راز
ضمین	Zamin	ع	ضامن' کفیل' ذمہ دار
ضمیر	Zamir	ع	قلب' دل' راز' خیال' تصور' بھید
ضمرہ	Zumra	ع	پتلی کمر والی
ضمیرہ	Zumaira	ع	دل میں گزرنے والی بات
ضہوہ	Zahuwa	ع	پانی کا حوض
ضوفشاں	Zufishan	ع۔ف	روشن' منور' چمکدار' تاباں' درخشاں
ضیشمہ	Zeesma		

marfat.com
Marfat.com

ضیف	Zayaf	ع	مہمان
ضیفاں	Zeefan	ع	مہمانی' مہمانداری
ضیفہ	Zaifa	ع	مہمان' سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بھتیجی کا نام ضیفہ خاتون جو بڑی نیک سیرت اور دانشمند خاتون تھی۔ حلب کی حکمران بھی رہی۔ عوام میں ہر دلعزیز تھی۔ حلب میں اس کی بنوائی ایک مسجد' ایک خانقاہ اور ایک مدرسہ آج بھی موجود ہے
ضیاء	Zia	ع	روشنی' نور' اجالا
ضیاذائقہ	Zia Zaieqa	ع	چاند کی روشنی
ضیاءالنساء	Zia-un-Nisa	ع	عورت کی روشنی
ضیغاں	Zeeghan	ع	شیرنی
ضیغمہ	Zighma	ع	شیرنی
ضیب	Zaib	ع	تلوار کی دھار
ضیمراں	Zimran	ف	پھول کی ایک قسم
ضیاالقمر	Zia-Ul-Qamer	ع	چاند کی روشنی

marfat.com
Marfat.com

ط

نام	Name	زبان	معنی
طائرہ	Taira	ف	اڑنے والی' پرواز کرنے والی
طائز	Taiz	ف	پرواز کرنے والی' اڑنے والی
طاب	Tab	ع	خوشبودار' خوش گوار' نفیس' پاک
طابقہ	Tabiqa	ع	موافق ہونا
طابنہ	Tabena	ع	دانشمند' سمجھدار' عقلمند' دانا' زیرک
طاہرہ	Tahira	ع	پاکباز' عورت' پاک دامن عورت' پاکیزہ عورت۔
طامحہ	Tamiha	ع	سرکش' بلند
طالتہ	Talta	ع	نصیب والی
طالحہ	Taleha	ع	باغی' سرکش
طالمیہ	Talmia	ع	باغی' سرکش
طالعہ	Taleh	ع	نصیب' مقدر' نصیب والی' بخت' روشنی
طالیہ	Talia	عبر	اللہ تعالیٰ کا تحفہ
طابہ	Tabeh	ف	مدینہ طیبہ کا نام
طابہ	Tabah	ع	کھجور' کھجور کی شراب' مدینہ طیبہ
طاع	Taa	ع	فرمانبردار
طاغیہ	Taghia	ع	سرکش
طافحہ	Tafiha	ع	سوکھی' خشک
طالبہ	Taliba	ع	علم حاصل کرنے والی' طلب کرنے والی
طارمہ	Tarima	ف	بلند مکان' اونچا مکان
طاری	Taree	ع	ناگہاں' ظاہر کرنے والا' چھا جانے والا' غالب آنے والا

marfat.com
Marfat.com

طائف	Taef	ع	چوکیدار' نگہبان' طواف کرنے والا' حجاز کا ایک قصبہ
طاؤس	Taoos	ع	مور
طائی	Taee	ع	عرب کے قبیلہ "طے" سے منسوب جس میں حاتم بڑا سخی گزرا ہے
طاؤسہ	Taoosa	ف	مورنی
طاصحہ	Taseh	ع	اونچی' بلند' سرکش' باغی
طاضہ	Taza	ع	عقل مند
طائل	Tael	ع	زیادتی' قدرت' دلتمندی' فراخی
طائلہ	Taila	ع	مالدار' امیر' دولت مند' فائدہ' نفع
طاحونہ	Tahuna	ف	پرسکون' مطمئن
طارحہ	Tareh	ع	شعر یا گانے میں مقابلہ کرنا
طارفہ	Tarefa	ف	امیر' دولت مند' رئیس' کثیر' وافر
طافیہ	Tafia	ع	ہلکی چیز
طبیبہ	Tabiba	ع	ڈاکٹر' حکیم
طبنہ	Taabna	ع	ہوشیاری' چالاکی' زیرکی
طبہ	Tuba	ع	علاج کرنا
طبہ	Tabah	ع	نرمی کرنا
طپنچہ	Tapancha	ف	پستول' چھوٹی بندوق' ایک نام طپنچہ خانم
طحرت	Tahrat	ع	بادلوں کو جانا
طحمہ	Tahma	ع	بڑی چیز' اطاعت
طحمہ	Tehma	ع	جنگجو' تیز بہنے والا دریا
طخیا	Takhya	ع	تاریک رات' وقتی اور گہری بات
طریقہ	Tareeqa	ف	انوکھی' عجیب
طریفہ	Tarifa	ع	عمدہ اور نئی چیز

marfat.com

Marfat.com

طرقہ	Tirqa	ع	خصلت' عادت' سرشت
طرب	Tarb	اُ ع	خوشی' شادمانی' انبساط
طربہ	Tarba	ف	خوشی' انبساط' مسرور ہونا' خوش ہونا
طریفہ	Tarifa	ف	عجیب' انوکھی' نادر
طریدہ	Tarida	ع	تلاش کرنے والی' ڈھونڈنے والی' کھوج لگانے والی
طرزہ	Terza	ع	پیچھے ہٹانا' پرے ہٹانا
طرفہ	Turfah	ف	عجیب' انوکھی' نادر' غیر معمولی
طروب	Taroob		ملکہ' حکمران' اندلس کے خلیفہ عبدالرحمن ثانی کی ملکہ
طروبہ	Tarooba	ف	خوش وخرم' مسرت' مسرور' شاداں وفرحاں
طرویہ	Tarvia	ف	شادمانی
طراب	Tarab	ع	خوشی ورنج
طراوت	Tarawat	اُ ع	نمی' تری' رطوبت' ٹھنڈک' تازگی
طراد	Terad	ع	چھوٹی کشتی' ناؤ' تیز رفتار
طرازی	Tarazi	اُ ف	سجانا' آراستہ کرنا' پیراستہ کرنا
طرازیہ	Terazia	ع	زیبائش کرنے والی' آرائش کرنے والی' سجاوٹ کرنے والی
طریرہ	Tarira	ف	خوبصورت عورت' حسین وجمیل
طرہ	Turah	ع	عجیب' بالوں کی زلف
طرفندہ	Turfanda	ت	غیر موسمی پھل
طرفہ	Terfah	ع	حسین' خوبصورت' نئی اور عمدہ چیز
طرازہ	Tarazah	ع	سجانے والی' آراستہ کرنے والی
طرازہ	Terazah	ع	نقش ونگار
طعب	Taab	ع	ذائقہ' مزہ' خوشبو
طعمہ	Taama	ع	خوراک' غذا' نوالہ' لقمہ

marfat.com
Marfat.com

طغادہ	Taghadah	ع	سورج کا ہالہ
طغیہ	Taghia	ع	ہر اونچی جگہ، پہاڑ کی چوٹی
طغوہ	Taghwah	ف	بلند مقام، پہاڑ کی چوٹی
طغرہ	Tughra	ف	علامت، تحریر، نشانی
طفیہ	Tufia	ع	پہاڑ کی چوٹی، ہر بلند جگہ
طفیفہ	Tafifa	ع	تھوڑی
طفادہ	Tufadeh	ع	سورج کا ہالہ
طلبعہ	Talbaa	ع	بلند ہونا
طلبیدہ	Talbidha	ف	بلایا ہوا
طلبیہ	Talbia	ف	مطلوب، طلب کی ہوئی
طلح	Talh	ع	نعمت، تازگی، نزاکت
طلق اللسان	Talqu-ul-Lisan	ع	تیز زبان
طلیق	Taliq	ع	ہنس مکھ، بے قید، آزاد
طلعت	Talat	ع	نظارہ، دیدار، منظر، شکل، چہرہ
طلالہ	Talala	ع	خوبصورتی، حسن، مسرت، شادمانی، خوشی
طلیعہ	Talia	ع	نکلنا، بلند ہونا
طلاقت	Talaqat	ع	فصاحت، بلاغت، تیز زبانی
طلسہ	Tulsa	ع	ہلکا بادل
طلایہ	Talalia	ع	رات کے وقت حفاظت کرنے والی فوج
طلیقہ	Taliqa	ع	خوش مزاج، آزاد، ہنس مکھ
طمار	Tamar	ع	بلند مقام، اونچی جگہ
طنازی	Tanazi	ف	اشارہ، شوخی

marfat.com
Marfat.com

طناز	Tanaz	ف	نازو ادا والی۔شوخ۔نخرے والی
طنب	Tunb	ع	خیمہ کی ڈوری
طواسیم	Tawaseem	ع	قرآن شریف کی وہ سورتیں جن کے شروع میں طسمہ ہے
طوالت	Tawalat	ا'ع	طول' درازی' زیادتی' تاخیر
طولانی	Tulani	ف	لمبا' دراز
طولہ	Tula	ع	کامل' اکمل' اعلیٰ' عمدہ' لمبا کرنا' مہلت دینا
طولیٰ	Toola	ع	خوبصورت
طوسہ	Tusa	ع	آرائش کرنا' زینت دینا' زیبائش دینا
طوبیٰ	Tuba	ع	پاکیزہ تر' رشک' خوشبودار' سعادت' پاک صاف' جنت کا ایک درخت
طوسیہ	Tusia	ع	پینے کا برتن' ایک رنگ
طہافہ	Tahafah	ع	بال' زلف' گیسو
طہور	Tahoor	ع	پاک
طہیرہ	Tahira	ع	اقدس' پاک' پاکیزہ' پاک صاف
طہرہ	Tahra	ع	صفائی' پاکی' پاکیزگی
طیاب	Tuyyab	ع	خوشبو' خوب' اچھی چیز' پاکیزہ' پاک
طیات	Tayat	ع	بہت پاک' بہت اچھا
طین	Tain	ع'ا	مٹی
طیفیہ	Taifia	ع	روح سے متعلق
طیرہ	Taira	ع	اڑانے والی' پرواز کرنے والی
طیبہ	Tayyeba	ع	پاک' صاف' منزہ' پاکیزہ
طیرزہ	Tirza	ع	ہلکا' لطیف' پرندہ
طیبہ	Tayyaba	ع	مہک' خوشبو' مسرت
طیب	Tayyab	ع	پاک' پاکیزہ

marfat.com

Marfat.com

ظ

ظاعنہ	Zaina	ع	راستہ چلنے والی' سفر کرنے والی' مسافرہ' راہرو
ظاہرہ	Zahira	ع	ظاہر ہونے والی' آشکارا ہونے والی' واضح ہونے والی
ظافرہ	Zafra	ع	کامیاب' جیتی ہوئی' فتح مند' فتح یاب
ظبیہ	Zabia	ع	ہرنی
ظبہ	Zabeh	ع	ہتھیار کی دھار
ظرافت	Zarafat	ع	عقلمند و دانا
ظریر	Zareer	ع	پتھریلی زمین' سخت زمین' منارہ جس سے راستہ معلوم ہو
ظریفہ	Zarifa	ع	لطیفہ گو' بذلہ سنج' خوش طبع' ہنس مکھ
ظرف	Zarf	ع	عقل مندی' دانش' سمجھ' شعور' برتن
ظعیفہ	Zaeefa	ع	ہودج نشین عورت
ظعینہ	Zaina	ع	پردہ نشین' عورت
ظعین	Zuain	ع	مسافر
ظفر	Zafar	ع	کامیاب
ظفر النساء	Zafar-un-Nisa	ع	جیتی ہوئی عورت' کامیاب عورت
ظفیرہ	Zafira	ع	ہر میدان میں کامیاب' ہر جگہ فتح مند
ظفارہ	Zafara	ع	ایک خوشبو
ظلامہ	Zlama	ع	ترچھی نظر والی
ظل قمر	Zil-E-Qamer	ع	چاند کا سایہ
ظل ہما	Zil-E-Huma	ع	ہما کا سایہ' خوش قسمت

marfat.com

Marfat.com

ظلہ	Zulla	ع	چھاؤں کرنے والی' سایہ کرنے والی' سائبان
ظلہا	Zullha	ع	اس عورت کا سایہ
ظل	Zul	ع	چھاؤں' سایہ
ظِنّیہ	Zunnia	ع	جس بات کا گمان غالب ہو
ظنی	Zanni	ع	خیالی' قیاسی' واہمی' عقل کے قریب
ظہارہ	Zuhara	ع	بادل' ابر
ظہرہ	Zuhra	ع	دوست' حبیب' رفیق
ظہیرہ	Zahira	ع	گرم دوپہر' حمایتی' مددگار' دوست' معاون
ظہری	Zuhri	ع	پشت والی' عقب والی
ظہارت	Zaharat	ع	قوی پشت ہونا
ظہور	Zahoor	ع	ظاہر ہونا
ظہورالنساء	Zahoor-Un-Nisa	ع	ظاہر ہونے والی عورت

marfat.com
Marfat.com

ع

عابشہ	Abisha	ع	کھلنڈری' کھلاڑی
عاتکہ	Atika	ع	نیک' پارسا' شریف' حضور ﷺ کی والدہ محترمہ جناب آمنہؓ کی پر نانی کی پرنانی عاتلہ لیلی بنت عوف ایک صحابیہؓ عاتکہ بنت خزاعیہ جو اُم معبد کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر ﷺ نے ان کے خیمہ میں قیام فرمایا تھا
عاطف	Atif	ع	جھکنے والا' شفیق' مہربان
عاطفت	Atifat	اُ ع	شفقت' مہربانی' لطف' عنایت
عاطفہ	Atifa	ع	شفقت کرنے والی' کرم کرنے والی' مہربانی کرنے والی
عامرہ	Amera	ع	معمور' لبریز' آباد کرنے والی
عافمہ	Afma	ع	شرارتی
عافین	Afeen	ع	خطا بخشنے والی' غلطی معاف کرنے والی
عاثمہ	Asma	ع	دیر لگانے والی' سست' کاہل
عازمہ	Azma	ع	قصد کرنے والی' ارادہ کرنے والی' نیت کرنے والی
عاصبہ	Asiba	ع	کھلاڑی
عاصرہ	Asra	ع	لبریز' معمور
عاصیہ	Asia	ع	گنہگار عورت' خطا کار
عاصمہ	Asma	ع	نگاہ رکھنے والی' نظر رکھنے والی' روکنے والی' منع کرنے والی' باز کرنے والی' نگہبان' حفاظت کرنے والی
عائرہ	Aira	ع	کثرت' بہتات' افراط' زیادتی
عاجزہ	Ajiza	ع	مجبور' ناچار

marfat.com
Marfat.com

عاذرہ	Azira	ع	معافی کی طلب گار' معافی مانگنے والی
عارفہ	Arifa	ع	خداشناس' خدارسیدہ' پہچاننے والی
عاریہ	Ariya	ع	رات کی پہرے دار
عاطر	Atir	ع	عطر کا شوقین
عاطرہ	Atira	ع	خوشبودار' مہک والی
عالیہ	Alia	ع	بلند و بالا' برتر' اونچی' مشہور تابعی امام ابواسحٰق سبیعی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ کا نام۔ عالیہ بنت ایفع رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہا۔ آپ کا شمار بھی تابعیات میں ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا تھا۔
عاجلہ	Ajila	ع	فوری کرنے والی' جلدی کرنے والی' عجلت کرنے والی
عابدہ	Abida	ع	نیک' پرہیزگار عورت' عبادت کرنے والی
عابعہ	Abia	ع	غور کرنے والی
عالم آراء	Alam-Ara	ف	دنیا کی سجاوٹ کرنے والی' جہان کی آرائش کرنے والی
عالم افروز	AlamAfroze	ف	دنیا کو روشن کرنے والی
عالم تارا	Alam Tara	ع	دنیا کی خوبصورتی
عائنہ	Aina	ع	چیک کرنا' نظر کرنا' دیکھنا' معائنہ کرنا
عادرہ	Adira	ع	گرنے والی' پھیلنے والی
عافیہ	Afia	ع	خیریت معلوم کرنے والی' خیر و عافیت پوچھنے والی
عائلہ	Aila	ف	نسل' قبیلہ' خاندان
عاکفہ	Akifa	ع	تنہائی میں رہنے والی' گھنگھریالے بالوں والی
عابر	Abir	ع	گزرنے والا' آنسو بہانے والا
عابرہ	Abira	ع	غور و فکر کرنے والی' راستہ چلنے والی' راہگیر

marfat.com
Marfat.com

عابثہ	Abisa	ع	کھیلنے والی' کھلاڑی
عاطہ	Ateh	ع	سامنے آنے والی' مقابل ہونے والی
عارمہ	Arma	ع	شوخ' شریر' شرارتی
عاقدہ	Aqida	ع	عہد و پیمان کرنے والی' وعدہ کرنے والی
عاصفہ	Asifa	ع	تیز ہوا' تیز آندھی' طوفان
عاتفہ	Atifa	ع	نوچنے والی
عاتمہ	Atima	ع	کامل' مکمل' پوری' تمام
عالم	Alam	ع	دنیا' جہان
عالمہ	Alma	ف	علم رکھنے والی' جاننے والی' عالم
عافہ	Afeh	ع	خطا بخشنے والی' غلطی معاف کرنے والی
عادلہ	Adila	ع	انصاف کرنے والی' عدل کرنے والی' جج' منصف' بغداد کے مشہور عثمانی حکمران سلیمان پاشا مرزا قلی کی اہلیہ کا نام عادلہ خاتون جو بڑی دانشمند اور منتظم خاتون تھی۔ حکومت کا نظام و نسق چلانے میں اپنے خاوند کی بھرپور مدد کرتی تھی۔ اس نے ایک عظیم الشان مسجد اور ایک کارواں سرائے بھی تعمیر کروائی تھی۔
علا	Ula	ع	بزرگی' بلندی' اعلیٰ مرتبہ
علالہ	Aleh	ع	گشت کرنا' چلنا' گھومنا' پھرنا
عاہدہ	Aheda	ع	عہد' پیمان' وعدہ' قرار
عاملہ	Amla	ع	عمل کرنے والی
عادہ	Adeh	عبر	سجاوٹ کی چیز' آرائش و زیبائش کی چیز
عاتقہ	Atiqa	ع	کشادہ' فراخ' کندھا' شانہ
عاقلہ	Aqila	ع	سمجھدار' ہوشیار' دانا' عقلمند' زیرک' دانشمند

marfat.com
Marfat.com

عافرہ	Afra	عبر	گرد، خاک، مٹی
عامدہ	Amda	ع	لمبی رات، طویل شب
عاجمہ	Ajma	ع	آزمائش، امتحان، تجربہ
عائشہ	Aisha	ع	راحت وسکون سے رہنے والی، آرام پانے والی، حضرت ابوبکر صدیقؓ کی پیاری صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہؓ جو حضور سرور کائنات ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔
عاھرہ	Ahira	ع	عہد و پیمان
عانیہ	Ania	ع	اسیر، قیدی
عانشہ	Anisha	ع	لڑائی کے بعد صلح کرنا
عامیہ	Amia	ع	فخر کرنے والی، اترانے والی
عاشبہ	Ashiba	ع	کھلاڑی، کھیلنے والی، کھلنڈری
عاشرہ	Ashra	ع	مل جل کر رہنے والی
عاسیہ	Asiah	ع	رات کی پہریدار، شب کی رکھوالی
عارکہ	Arika	ع	مقابلہ کرنا
عایذہ	Ayeza	ع	اندلس کے عامل احمد بن محمد کی صاحبزادی کا نام۔ جو فن کتابت میں شہرت رکھتی تھیں۔ اس دور میں ان جیسا خوش نویس اور کوئی نہ تھا۔ انہوں نے اس دور کے خلیفہ الحکم کے لیے بے شمار کتابوں کی کتابت کی۔ اندلس میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بلند پایہ کی شاعرہ بھی تھیں۔ نہایت نیک کردار خاتون تھیں۔
عبادت	Ibadat	ع	پرستش، بندگی، پوجا
عبالہ	Ibala	ع	جنگل کا گلاب
عبام	Abbam	ع	بہت، کافی، زیادہ
عبسار	Absar	ع	فقیری، درویش

marfat.com
Marfat.com

عبلہ	Ibla	ع	سفید' گوری چٹی' ٹکڑا' ریزہ' حصہ
عبرد	Aburd	ع	نازک اندام' گوری لڑکی
عبرہ	Ibra	ع	غور و فکر' نصیحت' توجہ' وعظ
عبیلہ	Abila	ع	صحت مند' موٹی' توانا' فربہ
عبودیہ	Abudia	ع	عبادت' توحید' واحدانیت' ریاضت
عبیدہ	Abaida	ع	باندی' لونڈی' کنیز' عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور کی ایک عارفہ زاہدہ خاتون جو نہایت نیک سیرت خاتون تھیں۔
عبرود	Abrood	ع	خوبصورت' حسین و جمیل' گوری سفید' نازک اندام لڑکی
عب الشمس	Abb-ul-Shams	ع	سفید لڑکی' نرم و نازک' سورج کی روشنی
عبرت	Ibrat	ع	نصیحت' تنبیہ' خوف
عبق	Abq	ع	مہکتی ہوئی چیز' خوشبودار' مہکنا
عبقر	Abqar	ع	ایک مقام ایک گاؤں اور ایک عورت کا نام
عبقری	Abqari	ع	سردار' عمدہ اور نفیس شے
عبیر	Abeer	ع	زعفران' ایک خوشبو زعفران ملی ہوئی' برگروہ' بہت پروں والا تیر
عبیرہ	Abira	ع	خشک خوشبو' مہک
عباسہ	Abasa	ع	خلیفہ ہارون الرشید کی بہن کا نام شہزادی عباسہ جو قرآن پاک کی باکمال مفسرہ تھیں۔ بہترین قاریہ تھیں۔ شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتی تھیں۔
عتیقہ	Atiqa	ع	برگزیدہ' بزرگ' رہا' آزاد
عتیلہ	Atila	ع	خادم' خدمت گار' پیاسا' تشنہ
عترہ	Itra	ع	خالص مشک کا ایک ٹکڑا

marfat.com
Marfat.com

عتیدہ	Atida	ع	رضامند' تیار' آمادہ
عترت	Itrat	ع	رشتہ دار' قریبی عزیز' قرابت دار' نسل' اولاد
عتمہ	Itma	ع	رات کا پہلا تہائی پہر
عتاقہ	Attaqa	ع	آزاد ہونا' رہا ہونا' رہائی پانا
عتابہ	Attaba	ع	خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر اعظم یحییٰ برمکی کی اہلیہ کا نام جو بہترین خطاط اور عالمہ فاضلہ تھی' اصل نام فاطمہ تھا مگر عتابہ کے لقب سے مشہور تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کی رضاعی والدہ بھی تھی۔
عجیلہ	Ajila	ع	نہایت تیز چال والا
عجلہ	Ujla	ع	فوری کرنے والی' تیزی دکھانے والی' جلدی کرنے والی' پھرتی دکھانے والی
عبرہ	Ibra	ع	غور و فکر' نصیحت' توجہ' وعظ
عجیبہ	Ajiba	ع	انوکھی' نرالی' نادر
عجمہ	Ajma	ع	امتحان' تجربہ' آزمائش
عجولہ	Ajula	ع	تیز بھاگنے والی' جلد باز
عجابہ	Ajaba	ع	عجیب و غریب' انوکھی' نرالی
عحارہ	Ahara	ع	جہازوں کا بیڑا' دستار' سورج' حضرت امیر حمزہ کی بیٹی کا نام
عحیہ	Ahia	ع	فخر' غرور
عدرج	Adrraj	ع	ہلکا اور تیز رو
عدیفہ	Adeefa	ع	رئیس' امیر
عدینہ	Adina	ع	جنت میں رہنے والی' بہشت میں رہنے والی
عدلیہ	Adlmia	ع	ناپید' نایاب
عدلہ	Adla	ع	گواہ' شاہد

marfat.com

Marfat.com

عدیمہ	Adima	ع	نادر' نایاب' معدوم' ناپید
عدن	Aden	ع	جنت' بہشت
عدیلہ	Adila	ع	عدل کرنے والی' انصاف کرنے والی' جج' منصف' عادلہ
عدسہ	Adsa	ع	خدمت کرنے والی' خادم
عدفہ	Adfa	ع	جماعت' جمعیت' گروہ' پارٹی
عدین	Adin	ع	جنتی' بہشت میں رہنے والی
عدوہ	Adweh	ع	دریا کا کنارہ
عدولہ	Adula	ع	جس پر عدل کیا گیا' جس کے ساتھ انصاف ہوا
عدوس	Addos	ع	بہادر عورت' دلیر عورت' نڈر عورت
عدیدہ	Adida	ع	مانند' مثل' گنتی' شمار کی ہوئی گنتی
عدیسہ	Adaisa	ع	ایک صحابی حضرت اہبان بن صیفیؓ کی بیٹی کا نام آپ کا تعلق بنو غفار سے تھا۔ آپ کا شمار مشہور تابعیات میں ہوتا ہے۔
عرس	Uros	ع	دلہن' کسی افسانہ یا ڈرامہ کی ہیروئن
عریج	Areej		خوشبو' خوشبودار مہک
عریشہ	Areesha		(عریش سے) دھوپ سے بچنے کے لئے کوئی سایہ دار جگہ' گھاس پھوس سے بنا ہوا مکان جو اکثر باغات اور فصلوں میں عارضی بناتے ہیں
عرین	Areen	ف	جنگل' فاختہ کی آواز
عریں	Ureen	ع	جنت میں رہنے والی
عرش	Arsh	ع	تخت' آسماں
عرش افروز	ArshAfroz	ع	تخت کو روشن کرنے والی
عرشفہ	Arshfa	ع	فلک پہ رہنے والی

marfat.com
Marfat.com

عرشیہ	Arshia	ع	آسمان پر رہنے والی' فلک پر رہنے والی
عربہ	Arbah	ع	تیز بہتی ہوئی نہر
عرجت	Arjat	ع	آفتاب کا مائل بہ غروب ہونا
عرض	Urze	ع	پہاڑ کی جڑ' کنارہ' طرف' ندی
عرضہ	Urzah	ع	قوت' طاقت' زور' ہمت' حوصلہ' نشانہ
عرزم	Arzem	ع	گیسو دراز' لمبے بال
عزبزہ	Azabza	ع	طلسم' دعا' ارادہ' لگن
عزرہ	Azreh	ع	طاقت' زور' قوت
عذبہ	Azba	ع	پرچم
عذیرہ	Azira	ع	عذر کرنے والی' بہانہ کرنے والی
عذرا	Azra	ع	دوشیزہ' کنواری
عذرہ	Azrah	ع	دوشیزگی' ایال
عذراجہاں	Azrajahan	ع	کنواری
عذار	Azar	ع	رخسار' گال' آشکارا' عیاں' ظاہر
عدبلہ	Abdla	ع	جج
عدبہ	Adbah	ع	پرچم' جھنڈا
عذوبت	Azoobat	ع	مٹھاس' شیرینی' لذت
عزما	Azma	ع	خاندان' کنبہ' نسل' قبیلہ
عزلہ	Azla	ع	الگ کرنا' جدا کرنا' منع کرنا' باز رکھنا
عرکہ	Arkah	ع	تنگی' تکلیف اور مشقت برداشت کرنے والی
عروفہ	Arufa	ع	صبر کرنے والی' تمیز کرنے والی' پرکھنے والی' پہچاننے والی' صابرہ
عرفان	Irfan	ع	پہچاننا' معرفت
عرفانہ	Irfana	ع	ایمان' پہچان' [illegible] تمیز' علم والی' سمجھ والی

Marfat.com

عریفہ	Ireefah	ف	پہچاننے والی
عریفہ	Arifa	ف	سردار رئیس رہنما لیڈر امیر
عربیہ	Arbia	ع	عرب کی عورت' عربی خاتون
عرفہ	Urfa	ع	بلند مقام' اونچی جگہ
عروسہ	Arusa	ف	دلہن
عروب	Aroob	ف	محبت کرنے والی شریک حیات' پیار کرنے والی بیوی
عروبہ	Arubah	ع	خاوند سے محبت رکھنے والی عورت
عریسہ	Arisa	ف	دلہن
عروس	Aroos	ف	دلہن
عرشی	Arshi	ع	آسمانی' فلکی
عرینہ	Arina	ف	جنگل' فاختہ کی آواز
عریس	Aris	ف	شیر کی کچھار
عرونہ	Aroona	ع	صبر کرنے والی' پہچان کرنے والی
عروج	Arooj	ع	اونچائی' بلندی
عربانہ	Arbana	ع	دائرہ' دف
عراہیم	Arahim	ع	شیر' موٹی' اونٹنی
عرازہ	Arazeh	ف	سوغات' تحفہ' ہدیہ' نذرانہ
عروضیہ	Aroozia	ع	ظاہر ہونے والی' پیش ہونے والی' اندلس کی ایک مشہور عالمہ کا نام جو پانچویں صدی ہجری میں گزری ہیں۔ علم نحو اور علم لغت میں کمال حاصل تھا۔ دیگر تمام علوم میں اپنی مثال آپ تھیں۔ مزار مبارک دانیہ شہر میں واقع ہے۔
عزیف	Azeef	ع	فضا میں ہوا کی سرسراہٹ
عزیمت	Azimat	ع	ارادہ' دعا' طلسم' لگن' لگاؤ' انس

marfat.com

Marfat.com

عزیہ	Azia	ع	لگاؤ، لگن، صابر، انتساب
اعزا	Azaa	ع	واجب، حق، حوصلہ، ہمت، جائز، طاقت
عزہ	Azah	ع	عزیز، مرغوب، پیاری، کمیاب، اچھی
عزیزہ	Aziza	ع	عزیز، پیاری، محبوبہ، رشتہ دار، قرابت دار
عزت	Izzat	ع	احترام، منزلت، توقیر، تعظیم، تکریم
عزیز النساء	Aziz-un-Nisa	ع	پیاری عورت، اچھی خاتون، رشتہ دار عورت، سر سید احمد خان کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم جو بڑی دانشمند اور خدا ترس خاتون تھیں۔ آپ کا انتقال بھارت کے شہر میرٹھ میں ہوا۔
عسار	Assar	ع	شان، مرتبہ، وجاہت، شہد کی مکھی
عسجد	Asjad	ع	موتی، یاقوت وغیرہ، جواہرات، سونا، مضبوط و جسیم اونٹ
عسکری	Askari	ف	لشکری، فوجی، ایک نام، عسکری خانم
عشق النساء	Ishq-un-Nisa	ع	پرانا، بزرگ
عشیہ	Ishia	ع	عیش کی زندگی
عشیقہ	Ashiqa	ع	بہت دوست رکھنے والی، بہت زیادہ رفاقت کا اظہار کرنے والی
عشبر	Ashbar	ع	ایک بوٹی
عشبہ	Ashba	ف	ایک بوٹی کا نام
عشوہ	Ashwah	ع	نخرہ، ادا، ناز
عشنا	Ashna	ع	خوشبودار گھاس، مہک، خوبصورت لڑکی، حسین و جمیل لڑکی
عشرت	Ishrat	ف	راحت، خوشی، انبساط، نشاط، عیش، آرام
عشرہ	Ishra	ف	ناز، ادا، نخرہ
عشیرہ	Ashira	ف	اہل خانہ، کنبہ، گھرانہ، قبیلہ
عشبہ	Ashba	ع	ایک موتی

marfat.com
Marfat.com

عشیقہ	Ashiqa	ع	پیاری، دل کو بھانے والی
عشی	Ashaa	ع	شام کا وقت
عصنفہ	Isnafa	ع	پاکباز
عصفر	Asfar	ع	ایک پھول کا نام، کسم کا پھول
عصفہ	Asfa	ع	ایک پھول، کسم کا پھول
عصمت	Ismat	ع	پاکیزگی، پارسائی، پاکدامنی، زنانہ عزت
عصرہ	Usra	ع	خوشبو کی بھڑک، تیز خوشبو
عصارہ	Asara	ع	نچوڑ، رس، جوس
عصابہ	Asaba	ع	خواتین کے سر باندھنے والا کپڑا
عصود	Aswad	ع	نازک جسم والی عورت
عصیر	Asir	ع	رس، جوس، نچوڑ، شیرہ
عصیدہ	Asida	ع	گھی اور آٹے سے بنا ہوا ایک قسم کا حلوہ
عصری	Asri	ع	زمانے کی، زمانے سے متعلق
عصرا	Asra	ع	وقت کی، زمانے کی، زمانے سے متعلق
عصمۃ	Ismat	ع	پارسا، پاکیزہ، سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہلیہ کا نام عصمۃ خاتون جو بڑی عقل مند اور دانا خاتون تھی۔ اس نے کئی مساجد تعمیر کروائیں جو آج تک قائم ہیں۔ دمشق میں حجر الذہب محلہ میں واقع مشہور درس گاہ اور سرائے باب النصر کے باہر موجود مہمان خانہ بھی عصمۃ خاتون نے ہی تعمیر کروایا تھا۔
عضاد	Izad	ع	بازو میں پہننے والا زیور، کنگن
عضال	Azal	ع	سخت، دشوار، عاجز کر دینے والی چیز
عضرین	Azreen	ع	چالاک، فوری ختم کرنے والی

marfat.com

Marfat.com

عطا	Ata	ع	عنایت' بخشش' کرم' فضل
عطارد	Atarad	ف	ایک ستارے کا نام
عطیفہ	Atifa	ع	کریم' شفیق' مہربان' لطف وکرم والی
عطوفہ	Atoofa	ع	شفقت کرنے والی' مہربان' کریم' شفیق
عطبل	Atbal	ع	خوبصورت جوان اور لمبے جسم فربہ و دراز گردن والی عورت' بہت لمبے قد اور لمبی گردن والی ہرنی
عطبہ	Atba	ع	نخرہ' ناز' ادا' نزاکت
عطفہ	Atfa	ع	دوستی' رفاقت' کرم' مہربانی' شفقت
عطیہ	Atia	ع	انعام' بخشش' ایک نام عطیہ فیضی
عطموس	Atmoos	ع	حسین وجمیل دراز قد عورت
عطمہ	Atma	ع	بڑائی' بزرگی
عطیل	Atil	ع	حسین وجمیل فربہ جسم اور لمبی گردن والی عورت' جواں ہرنی
عطاف	Attaf	ع	چادر
عطافت	Atafat	ع	مہربانی' کرم' بخشش
عظیمہ	Azima	ع	بزرگ' برگزیدہ' عظیم خاتون
عظمٰی	Uzma	ع	بزرگ عورت' برگزیدہ' ایک نام عظمٰی گیلانی
عظم	Uzam	ع	بزرگی' بڑائی' زیادتی' جماعت' کثیر
عظمہ	Izma	ع	عزت واحترام' تعظیم وتوقیر
عظموت	Azmoot	ع	بزرگی' خودنمائی' ناز' گردن کشی' غرور' خوف
عظمت	Azmat	ع	بڑائی' شان' بزرگ' قدر
عفہ	Iffa	ع	پاکیزگی' پارسائی' پاک بازی
عفانہ	Afana	ع	درگزر کرنے والی' معاف کرنے والی' بخشنے والی
عفت	Iffat	ع	پاکی' پرہیزگاری' پاکیزگی' پارسائی' عصمت

marfat.com

Marfat.com

عفت رحیم	IfatRaheem	ع	پرہیزگاری
عفی	Afi	ع	پاکیزہ' پاکباز' نیک' پارسا
عفرین	Afrin	ع	ہوشیار' چالاک' زیرک' معاملہ فہم' دانا' فوری کام ختم کرنے والی
عفاف	Afaf	ع	نیک' پاکیزہ' پاکباز' پارسا
عفیفہ	Afifa	ع	پرہیزگار عورت' پارسا عورت
عفرنا	Aferna	ع	ایال دار شیر
عفیرہ	Afira	ع	معاف کرنے والی' اپنے دور کی مشہور عارفہ زاہدہ عفیرہ عابدہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہا بصرہ کی رہنے والی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی مشہور شاگرد حضرت معاذۃ عدویہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہا کی خدمت میں رہ کر کسب فیض حاصل کیا۔ آپ کا شمار تبع تابعیات میں ہوتا ہے۔
عقبیٰ	Aqba	ا' ع	عاقبت' آخرت' اگلا جہاں
عقدہ	Aqda	ع	پاس' قریب
عقلہ	Aqla	ع	بند' گتھی
عقید	Aqeed	ع	عہد و پیمان کرنے والا' گاڑھی بہنے والی چیز
عقیق	Aqeeq	ع	ایک سرخ قیمتی پتھر
عقلیہ	Aqlia	ع	دانشمند عورت' عقلمند عورت' سمجھدار عورت' دانا عورت
عقیلہ	Aqila	ع	عقلمند عورت' دانشمند خاتون' پہلی صدی ہجری کی ایک نیک سیرت مسلمان خاتون عقیلہ بنت ضحاک بن عمرو بن محرق بن نعمان بن منذر جو بنو حنیفہ سے تعلق رکھتی تھیں۔
عکرمہ	Akramah	ع	کبوتری' ابوجہل کے بیٹے کا نام
عکسہ	Aksa	ع	تصویر' عکس' فوٹو

marfat.com
Marfat.com

عَلسیلہ	Akseela	ع	پیاسا
عَلہ	Aka	ف	جنگلی کوا
علبہ	Alba	ع	ذبیحہ
علضہ	Ulza	ع	تحفہ' عطیہ
علفہ	Alfa	ع	عطیہ' تحفہ
علق	Alaq	ع	ہر بیش قیمت چیز' جھولی' برتن' شراب
علیمہ	Alima	ع	علم رکھنے والی' جاننے والی' عالم' سمجھدار عورت' عقلمند عورت' دانا عورت' دانشمند عورت
علطہ	Ulta	ع	بے نام ستارے
علیا	Ulya	ع	بہت اچھی' نہایت عمدہ' اونچی چیز' بلند و بالا چیز' بزرگ عورت
علیان	Alyan	ع	دراز قامت' جسیم مرد دراز قد موٹی تازی عورت
علم افشاں	Ilm Afshan	ف	علم بکھیرنے والی
علمص	Almes	ع	حیرت انگیز' نادر
علوفہ	Alufa	ع	خوراک' وظیفہ
علیشیہ	Alishia	ع	مضبوط باندھنا' پکا باندھنا
علیہ	Alia	ع	بلند مرتبہ' بلند و بالا' تیسرے عباسی خلیفہ مہدی کی بیٹی کا نام شہزادی علیہ جو بڑی نیک سیرت اور دیندار تھی۔ نماز روزے کی پابند تھی۔ مشہور زیور جھومر اسی شہزادی علیہ کی ایجاد ہے۔ اس کا انتقال خلیفہ مامون الرشید کے دور خلافت میں ہوا تھا۔
عمصیرہ	Amseera	ع	لبریز' بھری ہوئی
عملیہ	Amkia	ع	ناز نخرہ
عمیرہ	Ameera	ع	بڑا قبیلہ

marfat.com
Marfat.com

عمیرہ	Umaira	ع	معمور لبریز بھری ہوئی
عماس	Amas	ع	سخت لڑائی' سختی' دشوار کام خوب اندھیری رات
عمالہ	Amala	ف	جاننے والی
عاملہ	Amamla	ع	عمل کرنے والی
عمامہ	Umama	ع	پگڑی' دستار
عمارہ	Umara	ع	دستار' آفتاب' سورج' حضرت حمزہؓ کی بیٹی کا نام حضرت عمارہؓ
عمادہ	Imada	ع	ستون' کھمبا
عمیمہ	Amima	ع	سب پر حاوی۔ تمام۔ پوری
عمائم	Amaim	ع	نویں صدی ہجری کی مشہور عالمہ فاضلہ کا نام جو مشہور عالم دین مولانا حسام الدین بن محمد بن ایوب الحسینی کی صاحبزادی تھیں۔ بی بی عمائم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہا کے درس وعظ میں وقت کے نامور علماء شریک ہوتے تھے۔
عمیہ	Amia	ع	ناز' فخر' نخرہ
عمیدہ	Amida	ع	معزز' برگزیدہ' قوم کی سربراہ' سردار
عمرالنساء	Umar-un-Nisa	ع	زندگی
عمری	Umri	ع	زندگی' حیات
عمورہ	Amura	ار	گھر سے الگ نہ ہونے والی
عمارہ	Imara	ع	عبادت گزار' پابند صلوٰۃ' علم وحکمت والی' عابدہ' زاہدہ
عمولہ	Amula	ع	محنت ومشقت کرنے والی
عمرہ	Umra	ع	عبادت کا نام' چھوٹا حج
عمدہ خانم	Umda Khanem	ع	نفیس' امیرزادی' اچھی بیگم

marfat.com
Marfat.com

عمائدہ	Amaida	ع	معزز، سردار، سربراہ
عمرانہ	Umrana	ع	آبادی، معاشرت
عمرہ	Amrah	ع	انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جلیل القدر صحابی حضرت اسعد بن زرارہ انصاریؓ کی پوتی کا نام عمرہ بنت عبدالرحمٰن رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہا آپ کا شمار مشہور تابعیات میں ہوتا ہے۔
عنترہ	Antrah	ع	نیزہ مارنا
عنصر	Unsar	ع	جز، اصل، مادہ، مصیبت، ہمت، ارادہ
عنوہ	Anwah	ع	دوستی، رفاقت، قہر، غضب
عنبرین	Ambrin	ف	عنبر کی مانند، عنبر کی طرح
عنبیہ	Anbia	ع	آنکھ کا تیسرا پردہ
عندلہ	Andela	ف	بلبل کی طرح
عنابی	Anabi	ع	عناب کے رنگ کا سیاہی مائل سرخ رنگ کا
عنار	Anar	ع	رخسار، گال
عنشہ	Ansha	ع	خوشبودار گھاس
عناس	Inas	ع	آئینہ، شیشہ
عنیا	Ania	ع	خوبصورت آنکھوں والی
عنیفہ	Anifa	ع	تیز مزاج، درشت لہجے والی، بدمزاج
عنوان	Unwan	ع	سرخی، دیباچہ
عندلیب	Andaleeb	ف	بلبل، گل دم
عنیدہ	Anida	ع	لڑاکا، جنگجو، سرکش
عندہ	Inda	ع	پاس، نزدیک، قریب

marfat.com
Marfat.com

عنشہ	Ansa	ع	خوشبو،مہک،ایک خوشبودار گھاس
عنفیہ	Anfia	ع	بدمزاج
عنفہ	Infa	ع	تیز مزاج،سخت مزاج،غصیلی
عنیقہ	Aniqa	ع	گردن میں باہیں ڈالنے والی،گردن میں بازو حمائل کرنے والی
عنبر	Anber	ف	ایک خوشبو
عنقا	Anqa	ع	نایاب،کمیاب،لمبی گردن والی عورت
عنزہ	Anza	ع	نیزہ مارنا
عندل	Andal	ف	بلبل کا چہچہانا
عنبرینہ	Amberina	ف	ایک زیور کا نام،عنبر کی طرح خوشبودار
عندیہ	Andia	ع	مدعا،خواہش،مقصد،مطلب،ذاتی رائے
عنایت	Anayat	ع	مہربانی،توجہ،احسان،کرم،قصد
عوازب	Awazib	ع	بیویاں،خاوند والیاں،سہاگنیں
عوبیہ	Ubia	ع	یار،مددگار
عودہ	Odah	ع	نہایت مفید،فائدہ مند،واپس آنے والی،لوٹ کر آنے والی،دوبارہ آنے والی،پلٹ کر آنے والی
عون اللہ	Aun-Ullah	ع	اللہ کی مدد
عویسہ	Owaisah	ع	رفیقہ،حبیبہ،مددگار،دوست،حمایتی،معاون
عویصہ	Owaisa	ع	دشوار،مشکل
عیاذ	Ayaz	ع	حفاظت کی جگہ،پناہ کی جگہ،گناہ سے بچنا
عیزہ	Aeeza	ع	خاص،مہک
عینہ	Aina	ع	چشم دید

marfat.com
Marfat.com

عینو	Ainu	ع	خوبصورت' افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی کی فوج کے ایک دلیر سپاہی کی جرأت مند' نیک سیرت اور غیرت مند بیوی کا نام عینو جس کے دل میں قومی حمیت اور اسلام سے محبت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ قندھار کی رہنے والی اس خاتون کو احمد شاہ ابدالی نے انعام کے طور پر ایک کاریز دی تھی یہ کاریز اسی خاتون کے نام کاریز عینو مشہور ہے اور قندھار سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی طرف واقع ہے۔
عینین	Ainin	ع	دونوں آنکھیں
عین الحیات	Ainul Hayat	ع	زندگی کی آنکھ
عیشہ	Eesha	ع	چین وراحت کی زندگی' آرام وسکون کی زندگی
عین	Ain	ع	آنکھ' چشم
عین الحق	Ain-ul-Haq	ع	سچائی کی آنکھ' حق کی آنکھ
عینی	Aini	ع	آنکھوں دیکھی' چشم دید
عینا	Aina	ع	خوبصورت آنکھوں والی' پیاری آنکھوں والی' حسین آنکھوں والی
عیطاء	Aitaa	ع	لمبی گردن والی' دراز گردن والی
عیمہ	Aima	ع	عمدہ حال' اچھا حال
عیوق	Ayooq	ع	ایک چھوٹے ستارے کا نام
عیفہ	Aifa	ع	تیز' درشت مزاج
عیقہ	Aiqa	ع	ندی کا کنارہ' ساحل
عسیقہ	Asiqa	[illegible]	[illegible] میں ڈالنے والی

marfat.com
Marfat.com

عیلہ	Aila	ع	درویش، فقیری
عیسفہ	Aisfa	ع	غصیلی، تیز مزاج
عیسدہ	Aisda	ع	باغی، سرکش
عینیہ	Ainia	ع	عینک، چشمہ

marfat.com
Marfat.com

غ

غازیہ	Ghazia	ع	صبح، صبح کے بادل، صبح کی بارش
غازیہ	Ghazia	ع	اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والی، فتح مند خاتون
غافرہ	Ghafra	ع	معاف کرنے والی، پردہ ڈالنے والی، گناہ بخشنے والی
غافنہ	Ghafna	ع	نازک دل، آسودہ زندگی والی
غالبہ	Ghaliba	ع	فتح کرنے والی
غالی	Ghali	ع	حد سے بڑھا ہوا، اونی قالین، ایک فرقہ جو حضرت علیؓ کو خدا مانتا ہے
غالیہ	Ghalia	ع	وہ خوشبو جو کافور، مشک اور عنبر وغیرہ کے مرکب سے تیار کی جاتی ہے
غادرہ	Ghadra	ع	غور کرنے والی
غادفہ	Ghadfa	ع	کشتی بان
غاربہ	Gharba	ع	کندھا
غارقہ	Gharqa	ع	چاندرات، پروین
غارسہ	Gharsa	ع	گزری ہوئی
غاشیہ	Ghashia	ع	ڈھانپ لینے والی، زین پوش، پردہ پوش، پردہ
غاصفہ	Ghazifa	ع	نازک اندام، خوشحال زندگی والی، آسودہ زندگی والی
غانیہ	Ghania	ع	مال و دولت والی، رئیسہ، امیر، دولت مند، گلوکارہ، گانے والی، بے پرواہ، بے نیاز، خوبصورت
غادہ	Ghadeh	ع	صبح کے وقت برسنے والی بارش، نازک اندام عورت
غاطیہ	Ghatia	ع	انگوری بیل

marfat.com
Marfat.com

غائرہ	Ghaira	ع	دوپہر کا سونا
غائی	Ghaee	ع	آخری' غایت سے منسوب
غاسقہ	Ghasiqa	ع	پروین' چاند' رات
غادیہ	Ghadia	ع	صبح کی بارش' صبح کے وقت کا بادل
غامر	Ghamer	ع	ویران زمین' پانی میں ڈوبی ہوئی زمین
غامض	Ghamiz	ع	عقل سے پرے' سمجھ سے باہر' ناقابل فہم
غامضہ	Ghamiza	ع	خفیہ کلام' پوشیدہ کلام
غازہ	Ghazeh	ف	خوشبودار پاؤڈر
غابر	Ghabar	ع	سابق' گذشتہ' گزرا ہوا' بچا ہوا' موخرالذکر
غابہ	Ghaba	ع	جنگل' درختوں کا جنگل
غابطہ	Ghabita	ع	رشک کرنے والی' فخر کرنے والی
غایت	Ghayat	ع	مطلب' غرض' منتہا' آخر انجام جمع غایات
غبرا	Ghabra	ع	مٹی والی زمین' خاک آلود زمین
غبرہ	Ghabrah	ع	درختوں کا جنگل' گرد و غبار
غبیط	Ghabeet	ع	ایک قسم کا پالان' سیلاب کا بہاؤ اور اس کا راستہ
غدیرہ آراء	GhadiraAra	ع	بال سجانے والی' زلف کی آرائش کرنے والی
غدیرہ	Ghadira	ع	بال' گیسو' زلف
غدور	Ghadoor	ع	بے وفا
غدوہ	Ghudwah	ع	سپیدۂ سحر
غداۃ	Ghadat	ع	وقت سحر' صبح کا وقت
غرسیلہ	Gharseela	ع	نخرہ' ادا
غرفہ	Gharfah	ع	دریچہ' کھڑکی
غراز	Gharaz	ا (قدیم)	سرکش' مغرور' متکبر' شجاع' بہادر

marfat.com
Marfat.com

غراضہ	Gharaza	ع	تازگی' نزہت
غرام	Gharam	ع	محبت' پیار' انسیت' عشق' شیفتگی
غرہ	Ghara	ع	روشنی' چمک' سفید' فریفتہ ہونا' عاشق کرنا' فخر کرنا' رشک کرنا' چاند کی پہلی رات
غربان	Gharban	ع	بھوکا
غربیلہ	Gherbila	ع	ناز وادا' نخرہ
غریر	Gharir	ع	عادت' طبیعت' خصلت' سرشت
غریق	Ghareeq	ع	ڈوبا ہوا' سمایا ہوا' محو
غریف	Ghareef	ع	گھنا اور گنجان درخت
غزام	Ghazam	ع	پیار و محبت
غزال چشم	Ghazal-e-Chasham	اُف	بڑی بڑی آنکھوں والا ہرن معشوق
غزال رعنا	Ghazal-e-rana	ع' ف	معشوق
غزالہ	Ghazala	ف	ہرنی' محبوب
غزنوق	Ghaznoque	ع	خوبصورت' گورا' جوان
غزنوی	Ghaznavi	ف	غزنی کا رہنے والا (کنایتاً) سلطان محمود غزنوی
غزوہ	Ghazwah	ع	ام المومنین حضرت ام حبیبہؓ کی بہن کا نام غزوہ بنت ابوسفیان
غزل	Ghazel	ف	شعر' اشعار' محبوب سے گفتگو کرنا
غزلہ	Ghezla	ف	ہرنی
غزال	Ghazal	ف	ہرنی' محبوبہ
غزیزہ	Ghazira	ع	فطرت' خصلت' عادت
غزرا	Ghazra	ع	زرخیز زمین

marfat.com
Marfat.com

غزرات	Ghazrat	ع	زیادتی' کثرت' افزونی
غزال	Ghazal	ف	ہرنی
غزالہ	Ghazala	ع	سوت کاتنے والی
غسوم	Ghasam	ف	انگور کا تازہ پکا ہوا دانہ
غشمیرہ	Ghashmira	ع	فیاض' سخی
غصن	Ghasan	ع	ٹہنی' شاخ
غضبارہ	Ghazbara	ع	خوشحال
غضیرہ	Ghazeera	ع	نرم و نازک
غضیض	Ghaziz	ع	نازک کلی' نرم و نازک تازہ پھول
غضنفرہ	Ghazanfra	ع	شیرنی
غضنہ	Ghazna	ع	منع کرنا' باز کرنا' روکنا
غصنہ	Ghasna	ع	کونپل' کلی
غضارہ	Ghazara	ع	انعام' نعمت' خوشحالی' آسودگی
غفیر	Ghafeer	ع	محیط' ہجوم' انبوہ
غفیرہ	Ghafira	ع	چھپانے والی' کثیر' وافر
غفوراں	Ghafooran	ع	معاف کرنے والی
غلیتہ	Ghalita	ع	ایک قسم کی گھاس
غلیم	Ghalim	ع	حسین و جمیل نوعمر لڑکی' خوبصورت لڑکی
غلفہ	Ghalfa	ع	عیش و نشاط' عشرت' آرام' راحت
غلبہ	Ghulba	ع	درختوں کے جھرمٹ کی جگہ
غلبہ	Ghalba	ع	ترجیح' غالب ہونا' زیادتی
غلالہ	Ghulala	ف	محبوب کی زلف
غلصفہ	Ghulsefa	ع	خوشحال' آسودگی

marfat.com
Marfat.com

غلفان	Ghulfan	ع	دراز قد عورت' تیز رفتار
غمد	Ghamd	ع	تلوار یا چھری کا نیام
غمزاختر	Ghamz-e-Akhtar	ف	ستارے کی چمک
غمزہ	Ghamza	اُر	ناز وادا' نخرہ' پیار
غمزہ گل	Ghamza-e-gul	ف	پھول کا کھلنا
غمیس	Ghamess	ع	تاریک رات' نادر شے' گنجان درخت یا جنگل
غمیز	Ghameez	ع	سبز گھاس جو خشک گھاس کے نیچے اگی ہو بہت پانی
غمرہ	Ghamra	ع	زعفران
غمرہ	Ghumra	ع	ناز وادا
غمزہ اختر	Ghamza Akhter	ف	ستارے کی روشنی' ستارے کی چمک
غماشیہ	Ghamashia	ع	پردہ کرنے والی
غمامہ	Ghamama	ع	بادل' ابر
غمار	Ghamar	ع	کثرت' زیادتی' بہتات
غموضہ	Ghamuza	ع	علم و ہنر کے خفیہ گوشے
غمزہ	Ghamza	ع	اشارہ' آنکھ مارنا
غناء	Ghana		بے نیازی' نغمہ' موسیقی
غنار	Ghanaar	ع	دولت مندی' بے نیازی' راگ
غنہ	Ghuna	ع	منع کرنا' روکنا
غنبر	Ghunbar	ع	گرد و غبار
غنیان	Ghunyan	ع	بے نیازی' دسترس' قدرت' کفایت' چارہ و تدبیر

marfat.com
Marfat.com

غنیمت	Ghaneemat	ا'ع	عمدہ' قدر جنگ کے بعد ملنے والا مال' مال غنیمت' مفت ملی ہوئی چیز' جمع غنائم
غنچہ	Ghuncha	ف	ان کھلا پھول' پھول کی کلی
غنجرہ	Ghunjera	ع	غازہ' ابٹن' ادا' ناز و کرشمہ' ناز و نخرہ
غنجارہ	Ghunjara	ع	ابٹن' غازہ' ناز و ادا
غوشاد	Ghoshad	ع	اونچا درخت' قافلے کے پڑاؤ کی جگہ
غوزہ	Ghooza	ع	گل' رخسار
غواث	Ghuwas	ع	فریاد' فریادرس
غوار	Ghuwar	ف	ترش انگور' ابوجہل کی لڑکی کا نام
غواصہ	Ghawasa	ع	غوطہ لگانے والی
غوزہ	Ghoza	ع	چاندی کی گیند' بند کلی' رخسار' گال
غورا	Ghora	ع	ترش انگور' ابوجہل کی بیٹی کا نام
غوری	Ghoree	ع	تیمارداری کرنے والا' خبر گیری کرنے والا' افغانستان کے ایک شہر غور سے منسوب
غوثیہ	Ghosia	ع	فریادرس' بزرگ عورت' برگزیدہ
غیاب	Ghayab	ا'ع	پوشیدہ' اوجھل' مخفی' غیب کی جمع
غیاث	Ghayass	ع	فریاد سننے والا' فریاد کو پہنچنے والا
غیدا	Ghaida	ع	خوبصورت عورت' نازک اندام عورت' حسین خاتون
غیشان	Ghaishan	ع	جوانی' نوجوانی' قسم وصنف
غیض	Ghaiz	ع	شگوفہ
غیرت	Ghairat	ع	شرم' عار
غیرت حور	Ghairat Hoor	ع	جسے دیکھ کر حور کو حیا آ جائے

marfat.com

Marfat.com

غیرت النساء	Ghairat-ul-Nisa	ع	حیادار عورت' عورت کی حیاء' عورت کی شرم
غینان	Ghainan	ع	کفایت' طاقتور' قدرت' دسترس' بے پروائی
غیبہ	Ghaiba	ع	ترکش' تیردان
غیور	Ghayyoor	ع	شرمیلی

marfat.com
Marfat.com

ف

فاطنہ	Fatina	ع	عقل مند' سمجھدار' دانا' دانشمند
فاضلہ	Fazila	ع	برگزیدہ عورت' صاحب علم وفضل عورت' بخشش علم رکھنے والی
فاضیلہ	Fazeela	ع	لباس' بنیاد
فاعنہ	Faina	ع	حنا کی کلی
فاغرہ	Faghira	ع	چمپا کی کلی
فاطرہ	Fatira	ع	پیدا کرنے والی' تخلیق کرنے والی
فاعلہ	Faila	ع	کسی کام کے کرنے والی
فاکرہ	Fakira	ع	سوچ بچار کرنے والی' غوروفکر کرنے والی
فائق	Faique	ع	فوقیت رکھنے والا' برگزیدہ' بہتر بلندیوں کا مالک
فائقہ	Faiqa	ع	بلندوبالا' اونچی ہونے والی' بلند ہونے والی
فاتحہ	Fatiha	ع	کھولنا' فتح کی جمع
فاتکہ	Fatika	ع	شجاع عورت' دلیر' جری' بہادر
فائزہ	Faiza	ف	جیتنے والی' پہنچنے والی' فتح پانے والی
فاروق	Farooq	ع	حق وباطل میں فرق کرنے والا
فاروق النساء	Farooq-un-Nisa	ع	فرق کرنے والی
فارہ	Farah	ع	مشک کا نامہ' تیز رفتار
فارہ	Fara	ع	سمجھدار' ذہین
فازرہ	Fazrah	ع	ریگستان کا راستہ

marfat.com
Marfat.com

فاخر	Fakhir	ع	فخر کرنے والی' پیاری' عمدہ' اچھی' محبوب
فالطہ	Falta	ع	اچانک آنا' یکدم آنا
فالقہ	Falqa	ع	دو پلوں کے درمیان راستہ
فاکہہ	Fakeh	ع	خوش مزاج' خوش طبع' پھل' سبز میوہ
فارقہ	Farqa	ع	امتیاز کرنے والی' تمیز کرنے والی' فرق کرنے والی
فارعہ	Farea	ع	خوش مزاج عورت' آسودہ حال' خوشحال
فارہہ	Fareha	ع	خوبصورت لڑکی' حسین وجمیل
فامیا	Famia	یو	نیک شہرت والی
فانطہ	Fanita	ع	یکدم آنا' اچانک آنا
فانی	Fani	ع	فنا ہونے والی' ختم ہو جانے والا' ت جانے والا' بہت بوڑھا
فانیلہ	Fanila	ع	بنیاد' اساس' نیوز جڑ
فاقدہ	Faqda	ع	کھو دینے والی' گم کر دینے والی
فارسہ	Farsa	ف	شہسوار عورت
فانیا	Fania	لا	بے قید' آزاد
فاتن	Faten	ع	فریفتہ کرنے والی
فادیہ	Fadia	ع	فدا ہونا' نچھاور ہونا' فدیہ دینا
فائضہ	Faiza	ع	فیض دینے والی
فاطمہ	Fatima	ع	جہنم کی آگ سے بچانے والی' بچے کا دودھ چھڑانے والی' حضور نبی کریم ﷺ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا اسم مبارک' آپ کا نکاح حضرت علیؓ سے ہوا' مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔
فائحہ	Faiha	ع	خوشبو' مہک
فارد	Farid	ع	گلے سے الگ ہو جانے والی ہرنی

marfat.com

Marfat.com

فاختہ	Fakhta	ع	سرخی مائل خاکی خاکستری مشہور صحابیہ حضرت ام ہانیؓ بنت ابی طالب کا ایک نام فاختہ۔
فبہا	Fabha	ع	بہت خوب بہتر مراد حاصل
فتیہ	Fatia	ع	سخی فیاض جوان عورت بہادر عورت
فتیحہ	Fatiha	ع	فتح کرنے والی مصر کے ایک بادشاہ فاروق کی بہن کا نام
فتات	Fitat	ع	جوان عورت
فتاش	Fatash	ع	متلاشی تلاش کرنے والا
فتح	Fatah	ع	کامیابی
فتحہ	Fateh	ع	مفتوح فتح کیا ہوا
فتاح	Fattah	ع	کھولنے والا
فتاح النساء	Fatah-un-Nisa	ع	اداوالی
فتح النساء	Fatah-un-Nisa	ع	کامیاب عورت
فتاحہ	Fataha	ع	مدد نصرت معاونت حمایت
فتوت	Fatoot		مروت سخاوت بہادری
فتین	Fateen	ع	ہوشیار زیرک چالاک
فتاہ	Fatah	ع	جوان عورت
فخر	Fakhar	ع	بزرگی بہتر
فخری	Fakhri	ف	فخر سے منسوب انگور کی ایک قسم

marfat.com
Marfat.com

فخر النساء	Fakhr-ul-Nisa	ع	عورت کی بزرگی' ہندوستان کے بادشاہ محمد شاہ کے عہد کے ایک نامور امیر نواب شجاعت علی خان کی اہلیہ کا نام فخر النساء۔ نہایت خدا ترس خاتون تھی۔ دہلی میں کشمیری گیٹ کے قریب موجود مسجد ''فخر المساجد'' اسی نے تعمیر کروائی تھی۔
فخیرہ	Fakhira	ف	فخر کرنے والی' ناز کرنے والی
فخیرہ	Fakheera	ف	ناز کرنے والی
فحیلۃ	Fahila	ع	اچھے خاندان والی' شریف' نیک
فخیمہ	Fakhima	ع	برتر' برگزیدہ
فدا	Fida	ع	صدقہ' سربہار
فدوی	Fidvi	ع	فدا ہونے والا' قربان ہونے والا' جاں نثار
فدیہ	Fidya	ع	مال قید کے عوض میں' معاوضہ' صدقہ
فرستادہ	Farstada	ف	ایلچی' سفیر' بھیجا ہوا' قاصد
فروا	Ferwa	ف	شوق' ذوق' اشتیاق
فرصہ	Farsa	ع	وقت' فرصت' فراخ' مجال
فروزاں	Ferozan	ف	روشن' تابناک' منور' چمکدار' تاباں
فرامین	Faramin	ف	فرمان' حکم' شاہی پروانہ
فرازیہ	Farazia	ع	اونچائی' بلندی
فرازیں	Farazeen	ف	بلند' اونچا' عالی مرتبہ
فربا	Farba	ع	تعجب
فرحت	Farhat	ف	سرور' شادمانی' مسرت' خوشی
فرحت النساء	Farhat-un-Nisa	ع	خوش قسمت عورت
فردا	Farda	ف	شوق' ذوق' اشتیاق

marfat.com

Marfat.com

فردوس	Firdous	ع	بہشت' جنت' عدن
فراہت	Farahat	ع	عقلمندی' دانائی' سمجھدار' استادی
فروز	Froze	ف	روشنی' نور' چمک' اجالا
فریص	Farees	ا	فراست مند' عقل مند
فریبا	Fariba	ف	فریفتہ' نچھاور' نثار' فدا' عاشق
فرعہ	Fara	ع	خوشبو کی مہک
فرعہ	Fira	ع	دانشمندی' عقلمندی' سمجھداری' دانائی
فرحاد	Farhad	ف	غالب' حاوی
فرحال	Farhaal	ف	خوش' مسرور
فرحاں	Ferhan	ف	مسرور' پرمسرت' شادمان' خوشی
فرحانہ	Ferhana	ف	خوش وخرم' شاداں' پرمسرت' مسرور
فرزعہ	Farza	ع	الگ شے
فرزند	Farzand	ف	بیٹا' لڑکا' اولاد' لڑکا یا لڑکی
فرزہ	Firza	ع	الگ کی ہوئی چیز کا حصہ
فرزام	Farzam	ف	بہت برگزیدہ
فرزان	Firzan	ف	شطرنج کی ملکہ
فرخ	Farukh	ف	مبارک' خوبصورت' سعید
فرخندہ	Ferkhanda	ف	مبارک' نیک' رخ' زیبا' نجستہ
فرقان	Furqan	ع	امتیاز کرنے والا' فرق کرنے والا' قرآن پاک
فرقت	Furkat	ا' ع	جدائی' ہجر' علیحدگی
فریا	Ferya	ع	حیرت' تعجب
فراختہ	Farakhta	ف	فرار کیا ہوا' بلند کیا ہوا
فرزہ	Ferza	ف	دانش' عقل' سمجھ' شعور

marfat.com
Marfat.com

فراست	Farasat	ع	سمجھداری' دانش' تیز فہمی' دانائی
فروید	Fervid	ع	شوق' اشتیاق' ذوق
فریدہ	Farida	ف	لاثانی' بے نظیر' اکیلی' بے مثل' تنہا' یکتا' واحد
فرہ	Farrah	ع	خوش مزاجی' خوش اخلاقی' خوش طبع' شان وشوکت
فرحہ	Farha	ف	راضی کرنا' خوش کرنا
فرجام	Ferjam	ف	لائق' موزوں' قابل' اہل' انجام' انتہا
فراخ رو	FarrakhRoo	ف	ہنس مکھ' خوش اخلاق
فریال	Faryal	ف	شیر کی ایال
فرال	Firal	ف	شیر کی ایال
فراخور	Farakhur	ف	سلیقہ مند' شائستہ' موزوں' اہل' قابل' لائق
فرغہ	Fargha	ع	فراز اور فراخ جگہ' اونچی اور کھلی جگہ' بلند اور کشادہ جگہ
فریحہ	Fariha	ف	خوش وخرم' مسرور' پرمسرت
فرح	Farah	ع	شادمانی' سرور' مسرت' خوشی
فرحین	Farhin	ف	پرمسرت' مسرور' شادمان' خوش وخرم
فرہاد	Farhaad	ف	ایک شخص جو ایران خسرو کی ملکہ شیریں پر عاشق ہو گیا تھا' عاشق صادق
فرہین	Ferhin	ت	کامل' ماہر' عقلمند' دانشمند' سمجھدار' باشعور
فرزانہ	Farzana	ف	سمجھدار' عقلمند' دانا' ہوشیار' علم ودانش والی
فرخاد	Farkhad	ف	حاوی' غالب
فرخار	Farkhar	ف	سجاوٹ' زینت' ترکی کا ایک شہر جو اپنے باشندوں کی خوبصورتی کے لئے مشہور ہے
فروہیدہ	Faruhida	ف	زیرک' دانشمند' دانا' عقلمند' سمجھدار
فرزہ	Farza	ف	لہلہاتا ہوا سبزہ

marfat.com
Marfat.com

شان وشوکت، رعب ودبدبہ، ہیبت	ف	Farah	فرہ
فروخت کرنے والی، بیچنے والی	ف	Faroshinda	فروشندہ
بسیرا، قیام، ٹھہراؤ	ف	Farudah	فرودہ
خوش بختی، خوش نصیبی، مبارکی	ع	Farkhi	فرخی
کامیاب وکامران	ع	Farzan	فرزان
شاخ، ٹہنی	ع	Fara	فرع
شاہی حکم، حکم نامہ، شاہی سند	ف	Farman	فرمان
فرمایا ہوا	ف	Farmin	فرمین
صاحب عزت، ذی مرتبہ، بلند مرتبہ	ف	Farjmand	فرجمند
جنت، بہشت، فردوس کی جمع	ع	Farades	فرادیس
زیادہ کرنے والی، بڑھانے والی، افزائش	ف	Fiza	فزاء
جوان خوبصورت لڑکی، دوشیزہ، کنواری	ع	Fizra	فزراء
کثرت، بہتات، افراط، کثیر، زیادہ، وافر	ف	Fazin	فزین
فراخ اور کشادہ	ع	Fassah	فساح
زخمی عورت	ف	Fisgar-un-Nisa	فسگار النساء
فراخ، کشادہ	ع	Fasjah	فسجہ
سحر، جادو	ف	Fasoon	فسوں
کشادہ، فراخ	ع	Faseeha	فسیحہ
عطردان	ع	Fashooh	فشوہ
شہر پناہ، چاردیواری	ع	Fasila	فصیلہ
خوش کلام عورت	ع	Fasiha	فصیحہ
خوش بیانی، خوش کلامی	ع	Fasahat	فصاحت

marfat.com

Marfat.com

فضرہ	Fazra	ع	وادی کا دہانہ
فضیلت	Fazilat	ع	بزرگی' بڑائی' برتری' بلندی
فضہ	Fizh	ع	چاندی' نقرہ' آٹھویں صدی ہجری کی ایک نامور عارفہ زاہدہ کا نام فضہ" جو صاحب کرامت تھیں۔ مولانا عبدالرحمٰن جامیؒ فرماتے ہیں کہ آپ کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔
فضاء	Fiza	ع	وسیع' کشادہ' فراخ
فضائل النساء	Fazael-un-Nisa	ع	بخشش والی عورت
فضا	Feza	ف	زمین پر جاری پانی
فضل	Fazal	ع	بخشش' بزرگی' دسویں عباسی خلیفہ التوکل علی اللہ کے دور خلافت میں ایک مشہور شاعرہ فضل گزری ہے۔ اپنے وقت میں اس کا خوب شہرہ تھا۔ اس کا کلام ہر خاص وعام میں مقبول تھا
فضل النساء	Fazal-un-Nisa	ع	بزرگ عورت
فطرت	Fitrat	ع	عقلمندی' پیدائش' خلقت' قدرت' دانائی
فطانت	Fatanat	ع	فہم وفراست' دانشمندی' عقلمندی' ذہانت
فطنت	Fitnat	ع	دانشمندی' عقلمندی' دانائی' ترکی کی ایک مشہور شاعرہ کا نام فطنت خانم
فغان	Faghan	ف	فریاد' اپیل' نالہ' واویلہ' آہ وزاری
فکرت	Fikrat	ف	غور وفکر' دھیان' اندیشہ' خیال' تصور
فگارنساء	FigarNisa	ف	زخمی عورت
فلورا	Flora	لا	کھلتا ہوا پھول' پھول کھلنا

marfat.com
Marfat.com

آسمان، قسمت	ع	Falak	فلک
آسمان جس پر ناز کرے	ف	Falknaz	فلک ناز
زراعت، کھیتی باڑی، کاشتکاری	ف	Falahat	فلاحت
آسمان کی آرائش کرنے والی	ع	FalakAra	فلک آراء
آسمانی	ع	Falki	فلکی
تلوار کا ٹکڑا	ع	Falqa	فلقہ
جگر کا ٹکڑا، پیارا، محبوب، عزیز	ف	Filza	فلذہ
ایک آسمان	ع	Falka	فلکہ
نیکی، بھلائی	ف	Falah	فلاح
سونا، چاندی	ف	Falza	فلزہ
بھرتی گھاس	ت	Faleez	فلیز
کسی پر کام چھوڑ دینا	ع	Fofia	فوفیہ
فضیلت، سبقت، بلند و بالا، اونچی	ع	Foqia	فوقیہ
جوشیلی، پرجوش	ع	Fawar	فوار
شہنشاہ بہرام گور کی ملکہ کا نام جو رجہ قنوج کی بیٹی تھی	ف	Fork	فورک
کامیاب	ع	Foze	فوز
ملکہ	ف	Fozak	فوزک
کامیابی و کامرانی، فتح، نصرت، آزادی، رہائی	ع	Fozia	فوزیہ
جادوگر	ف	Foon	فون
دانشمند، عقلمند، سمجھدار، دانا، باشعور	ف	Fahmida	فہمیدہ
عقلمند، سمجھدار، دانشمند	ف	Fahmid	فہمید
سمجھ والی، دانش والی، عقل والی، دانائی والی	ف	Fahmi	فہمی
فہم و دانش والی، سمجھنے والی	ف	Fahminda	فہمندہ

marfat.com

Marfat.com

فہیم النساء	Faheem-un-Nisa	ع	عقلمند
فیونا	Fayona	یو	حسین وجمیل، خوبصورت، صبیح، سوہنی
فیلافہ	Feelafa	یو	ہمدرد، غمگسار
فیلانہ	Filana	یو	انسان دوست، غمگسار، مونس، ہمدرد
فیضہ	Faiza	ع	فائدہ مند، جس سے فیض پہنچے
فیض	Faiz	ع	بخشش، کرم
فیضار	Feezar	ع	کشادہ، وسیع
فیہد	Faizd	ع	فیض بخشنے والی، نفع بخش، فائدہ مند
فیض النساء	Faiz-un-Nisa	ع	بخشش، کرم، مہربان
فیروز	Feroze		کامیاب، فتح مند، کامران، ظفریاب
فیروزہ	Feroza	ف	ایک عمدہ قسم کا قیمتی پتھر، نیلے رنگ کا
فیلیز	Faliez	ت	تروتازہ، سرسبز وشاداب، ہری بھری، کونپل
فیناتہ	Finata	ع	لمبے بالوں والی حسین وجمیل
فینہ	Feena	ع	ساعت
فیز	Fez	ت	ترکی ٹوپی
فیاضی	Fayazi	ع	صحرا، جنگل

marfat.com
Marfat.com

ق

قاجار	Qajar	ف	شاہان ایران کا ایک خاندان
قاچار	Qachar	ف	فارس کے شاہی خاندان کا نام
قاحرہ	Qahera	ع	کوتاہی کرنے والی
قادمہ	Qadma	ع	آنے والی
قاذف	Qazif	ع	پتھر پھینکنے والا' تیز رفتار اونٹنی جو خود کو اونٹوں کے آگے ڈال دے اور آگے آگے چلے
قاربہ	Qarba	ع	قریب ہونے والی' قربت چاہنے والی' نزدیک ہونے والی
قارعہ	Qaraa	ع	آخرت' قیامت
قارفہ	Qarifah	ع	قریب ہونا
قاز	Qaz	ات	اک آبی پرندہ' راج ہنس
قامعہ	Qamia	ع	توڑنے والی
قارہ	Qara	ع	سرد' ٹھنڈک
قاسرہ	Qasra	ع	قناعت کرنے والی' صبر کرنے والی' صابرہ
قادرالنساء	Qadir-un-Nisa	ع	قدرت والی
قادرہ	Qadira	ع	طاقت رکھنے والی' قدرت رکھنے والی
قاطنہ	Qatina	ع	مقیم رہنے والی' ساکن' جامد
قابلہ	Qabila	ف	سلیقہ مند عورت' شائستہ عورت' قابل عورت' لائق عورت' دایہ
قاریہ	Qaria	ع	خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنے والی
قاصبہ	Qasiba	ع	بانسری بجانے والی

marfat.com

Marfat.com

قاضرہ	Qazra	ع	تیز رفتار گھوڑی
قاضیہ	Qazia	ع	فیصلہ کرنے والا، حکم کرنے والی
قائم المزاج	Qaim ulmazaj	ع	مستقل مزاج، دھن کا پکا
قائم النار	Qaim-un-Nar	ع	آگ پر ٹھہرنے والا
قائمی	Qaimi	ف	استقلال، قیام، پائیداری
قائفہ	Qaifa	ع	اندازہ لگانے والی، قیافہ شناس
قاصف	Qasif	ع	سخت، تند
قاصفیہ	Qasfia	ع	حکم کرنے والی، فیصلہ کرنے والی
قاسمہ	Qasma	ع	بانٹنے والی، تقسیم کرنے والی
قادحہ	Qadeha	ع	مقابل ہونا، آمنے سامنے ہونا
قاہر	Qahir	ع	غالب، زبردست، قہار
قاہرہ	Qahera	ع	طاقتور، زبردست، قہر کرنے والی
قاثمہ	Qasema	ع	عنایت کرنے والی، دینے والی، عطا کرنے والی
قاصیہ	Qasia	ع	جانب، طرف، جہت، سمت
قاصید	Qasid	ع	دور، فاصلے پر، بعید
قاصرہ	Qasira	ع	کوتاہی کرنے والی
قائلہ	Qaila	ع	بیان کرنے والی، کہنے والی
قانتہ	Qanita	ع	اطاعت گزار، تابعدار، خاموش، فرمانبردار
قائزہ	Qaiza	ع	باگ ڈور، لگام
قاصدہ	Qasida	ع	ایلچی، پیامبر، پیغام رساں، ارادہ کرنے والی، نیت کرنے والی
قافتہ	Qafeta	ع	خاموش، چپ
قافزہ	Qafiza	ع	تیز رفتار گھوڑی

marfat.com
Marfat.com

قاعفہ	Qaifa	ع	سیلاب' شدید بارش' موسلا دھار بارش
قاطعہ	Qatia	ع	سیلانی پرندے
قادری	Qadri	ع	شیخ عبدالقادر جیلانی سے منسوب' قادریہ سلسلہ سے نسبت رکھنے والا (اردو مؤنث) ایک قسم کا سینہ بند
قادرین	Qadrin	ع	قدرت رکھنے والے
قاطرہ	Qatira	ع	ریل کا انجن' ٹپکنے والی
قاقلہ	Qaqla	ع	الائچی' بڑی الائچی
قانی	Qani	ع	بہت زیادہ سرخ
قبطیہ	Qubtia	ع	قدیم مصری قوم کی عورت
قبرہ	Qabra	ع	جنت' بہشت' خلد بریں' پرچم' جھنڈا
قبالہ	Qibala	ع	آمنے سامنے' مقابل' برابر
قباچہ	Qabacha	ف	چھوٹی قبا
قبطیر	Qabteer	ع	فرعون مصر کی قوم سے
قبول النساء	Qabool-un-Nisa	ع	ماننا' بادصبا
قبیل	Qabeel	ع	قبیفہ شناس
قتلق	Qutlaq	ت	مبارک' خجستہ امیر تیمور گورگان کی بڑی بہن کا نام قتلق آغا جو بڑی خدا ترس' دیندار' نیک سیرت اور سخی تھی۔ قتلق آغا کا مزار سمرقند میں حضرت قثم بن عباسؓ کے مزار کے قریب واقع ہے
قتیلہ	Qatila	ع	شہید' مقتولہ قتل کی گئی' حضرت ابوبکر صدیقؓ کی اہلیہ کا اسم مبارک
قتین	Qateen	ع	جوش دیا ہوا ریشم' خوبصورت عورت' خوار و ذلیل آدمی

marfat.com

Marfat.com

قتلغ خاتون	Qatlagh Khatoon	ع	کرمان کے ایک حکمران قطب الدین محمد کی اہلیہ کا نام جو بڑی دانا اور معاملہ فہم خاتون تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد قتلغ خاتون نے چھبیس برس تک کرمان پر حکومت کی
قدومہ	Qadooma	ع	فیاض' سخی' دلیر' بہادر' جرأت مند' بڑا اقدام کرنے والی
قدویمہ	Qadveema	ع	بڑا قدم اٹھانے والی
قدوہ	Qadooh	ع	رہنما' پیشوا' امیر' رہبر' سرکردہ
قدیرہ	Qadira	ع	طاقتور' زور آور قدرت رکھنے والی
قدیمہ	Qadima	ع	اونچی' بلند' مقدم' امیر' رئیسہ
قدسیہ	Qudsia	ع	پاکیزہ' پاک' متبرک' مقدس' ہندوستان کے حکمران فرخ سیر کی بیٹی کا نام جو محمد شاہ کی ملکہ تھی' نہایت ذہین اور دانا خاتون تھی۔ ملکہ قدسیہ زمانی نے سنہری مسجد کے نام سے ایک عالیشان مسجد شاہجہان آباد کے قلعہ کے ساتھ تعمیر کروائی جو آج بھی قائم ہے۔ اس نیک خاتون کا انتقال افغانستان میں ہوا تھا اور وہیں پر دفن کیا گیا۔
قدوسیہ	Qadusia	ع	پاکیزہ' نیک' پاک' بڑی
قدر	Qadar	ع	اندازہ' حکم
قدر النساء	Qadr-un-Nisa	ع	اندازہ' حکم
قدرت	Qudrat	ع	طاقت' قوت' زور
قدامہ	Qadama	ع	برگزیدہ' سردار
قدفہ	Qadfa	ع	خلیفہ حکم ثانی کے عہد میں اندلس کی ایک مشہور عالمہ فاضلہ کا نام قدفہ جو علم و ادب سے گہرا شغف رکھتی تھیں۔ اپنے وقت کی نامور مقررہ بھی تھیں
قرطیس	Qartees	ع	کاغذ' ورق
قریرالعین	Qarir-ul-Ain	[illegible]	[illegible] خنک چشم

Marfat.com

قراد	Qarad	ع	مہمانی
قرار	Qarar	ف	راحت، چین، سکون، آرام
قرام	Qaram	ع	باریک تاروں سے بجی ہوئی
قریطہ	Qarita	ع	وہ عورت جس کے کان میں بندے ہوں
قریحہ	Qariha	ع	عمدہ، بہتر، عادت، طبیعت، خصلت سرشت
قرینہ	Qarina	ع	انداز، ڈھب، طرز، سلیقہ
قراء	Qira	ع	مہمانی
قراء	Qura	ع	خوش الحان، قاریہ
قرام	Qiram	ع	باریک رنگین نقش ونگار سے مزین پردہ
قراۃ العین	Qurat-ul-Ain	ع	آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی روشنی پاکستان کی مشہور مصنفہ اور ناول نگار قراۃ العین حیدر
قراضہ	Qaraza	ع	سونے چاندی کا باریک ذرہ
قرۃ	Qurt	ع	آنکھ، ٹھنڈک
قرۃ الحق	QartalHaq	ع	سچائی کی آنکھ، حق کی آنکھ
قرہ	Qirah	ع	روشنی چمک، آنکھ، چشم، ٹھنڈک
قریشہ	Qarisha	ع	قریش کی عورت
قریشیہ	Qureshia	ع	عرب کے مشہور قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والی
قرسم	Qersem	ع	حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کی والدہ محترمہ کا نام جو صاحب کرامت ولی اللہ تھیں۔ قرسم خاتون۔ عابدہ زاہدہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مقرب تھیں
قریر	Qarir	ع	خوش وخرم، پرمسرت، شاداں وفرحاں
قرناق	Qarnaq	ت	خادمہ، خدمت کرنے والی
قرابہ	Qaraba	ع	ٹھنڈا پانی، عرق رکھنے کا بڑا شیشہ

marfat.com

Marfat.com

قرین	Qarin	ف	مصاحب' ہم نشین' ساتھ بیٹھنے والی
قربہ	Qurba	ع	قربت' نزدیکی
قربہ	Qarba	ع	مشکیزہ
قذفہ	Qazfa	ع	عمارت کی برجی' کنگرہ
قزلہ	Qazla	ت	لال' سرخ' احمر
قزح	Qazah	ع	رنگین' رنگارنگ' رنگوں سے بھرپور
قزل	Qazal	ت	سرخ' لال' احمر
قزوین	Qazwin	ف	ایران کا ایک شہر
قزحہ	Qizha	ع	سرخ' سبز اور زرد لکیروں والا' رنگ برنگی
قسطان	Qastan	ع	قوس وقزح' دھنک' عنار
قسیمہ	Qasima	ع	خوبرو' مشک نافہ' تقسیم کرنے والی
قسام	Qassam	ع	تقسیم کرنے والا' بانٹنے والا
قسامت	Qasamat	ع	خوبصورتی' حسن وجمال' اچھائی' خوبی' بھلائی
قسوم	Qasome	ع	تقسیم کرنے والا
قسمت	Qismat	ا' ع	تقدیر' نصیب' حصہ' احاطہ' علاقہ
قسمیہ	Qasmia	ع	نافہ مشک' خوبرو
قشرہ	Qashra	ع	گھر کا سامان
قشقہ	Qushqa	ف	تلک' ٹیکہ' صندل وغیرہ' نشان جو ہندو ماتھے پر لگاتے ہیں
قشم	Qasham	ع	فیاض' سخی' نفیس کپڑے' چرخ
قصمہ	Qasma	ع	ٹکڑا' مسواک کا ٹکڑا
قصیب	Qaseeb	ع	تیز تلوار
قصیدہ	Qaseeda	ع	پستہ قد والی
قصیرہ	Qasira	ع	چھوٹے قد کی صورت' پستہ قد عورت

marfat.com
Marfat.com

قصواء	Qaswa	ع	حضور نبی کریم ﷺ کی اونٹنی کا نام
قصوری	Qasuri	ا (قدیم)	قصوری، کوتاہی، کمی، قصور شہر کا باشندہ
قضارا	Qazara	عف	اچانک، اتفاقیہ، ناگاہ، یکا یک
قضاب	Qazab	ع	تیز کاٹنے والی تلوار
قطق	Qataq	ت	مبارک، سعید
قطف	Qataf	ع	میوہ
قطف	Qutf	ع	بنولے کا ساگ
قطیبہ	Qateeba	ع	بزرگ عورت
قطین	Qateen	ع	خدمت گار، لونڈیاں
قطیفہ	Qatifa	ع	مخمل، چادر، ایک قسم کا کپڑا
قطب النساء	Qutb-un-Nisa	ع	عورتوں کی سردار
قطبیہ	Qatbia	ع	برگزیدہ عورت، بزرگ عورت
قطرالندی	Qutrulndi	ع	اٹھارہویں عباسی خلیفہ المقتدر باللہ کی والدہ ماجدہ کا نام جو بڑی صاحب علم وفضل والی خاتون تھیں۔ عقل اور دانشمندی میں مشہور تھیں۔ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں
قراطیس	Qaratis	ف	ایک ملکہ کا نام، ورق، کاغذ
قرشی	Qarshi	ع	قریش کی
قفلہ	Qufla	ع	ہر سنی ہوئی بات کو یاد رکھنے والی، حافظہ
قفہ	Qufa	ع	بلند زمین، اونچی جگہ، بلند و بالا مقام
قفاز	Qafaz	ع	دستانہ
قلیاق	Qalyaq	ت	ٹوپی، کلاہ
قلیح	Qaleeh	ع	تلوار، شمشیر

marfat.com

Marfat.com

قلاری	Qalari	ع	سفید انجیر
قلاوزی	Qalawzi	ت	رہبری' رہنمائی
قلاوہ	Qulawa	ع	گلے کا ہار
قلقان	Qalqan	ت	ڈھال' سپر
قلچ	Qalch	ف	شمشیر' تلوار' تیغ
قلوص	Qaloos	ع	جوان اونٹنی
قلدوہ	Qildooh	ع	گلے کا ہار
قلدری	Qaladri	ع	سفید انجیر کی ایک قسم
قمیر	Qamir	ع	کنواری' دوشیزہ' مشہور تابعی اور محدث حضرت مسروق کی اہلیہ کا نام قمیر بنت عمرو آپ کا شمار مشہور تابعیات میں ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی شاگرد تھیں۔
قمرہ	Qumra	ع	ٹھنڈک
قمر	Qamer	ف	چاندنی' چاند تیسری رات کے بعد کا چاند
قمرالنساء	Qamar-un-Nisa	ع	عورتوں کا چاند
قمری	Qamri	ف	چاند سے متعلق' چاند
قمرین	Qamrin	ف	چاند اور سورج
قمران	Qumran	ف	چاند اور سورج
قمراء	Qamra	ع	چمک' چاندنی' روشنی
قمر پیکر	Qamar Peker	ف	خوبصورت' حسین و جمیل
قمہ	Quma	ع	کلس' بلندی' نوک
قمہ	Qama	ت	خنجر' ایک تھیار

marfat.com

Marfat.com

قناعت	Qanaat	اُع	قناعت کرنے والا' تھوڑے پر ہی صبر کرنے والا
قنادیز	Qanadeez	اُت	ایک قسم کا نہایت چمکدار ریشمی کپڑا
قنبہ	Qanha	ع	غنچہ' کلی
قنیبہ	Qaneeba	ع	شگوفہ' غنچہ
قنیہ	Qania	ع	سرمایہ' پونجی' رقم' راس
قنط	Qanta	ع	منع کرنا' روکنا' باز کرنا
قنطبہ	Qantaba	ع	مصر کی عورت
قنطورا	Quntura	ع	حضرت ابراہیم کی لونڈی جس کی نسل سے ترک ہیں اس لوے ان کو قنطورا کہتے ہیں
قنپہ	Qanpa	ع	ان کھلا پھول' شگوفہ' کلی
قنوا	Qinwa	ع	اونچی ناک والی عورت
قنوت	Qanoot	اُع	اطاعت کرنا' نماز عشاء کے وقت وتر میں پڑھی جانے والی سورت
قنطرہ	Qantara	ع	پل
قندیل	Qandil	ع	چراغ' فانوس
قنتورہ	Qantoora	ت	لباس کی ایک قسم
قویہ	Qawwia	ع	پکی' مضبوط
قویمہ	Qaweema	ع	استوار' سیدھی' مضبوط' پکی' پائیدار' خوش قامت
قوسیہ	Qosia	ع	کمان رکھنے والی' قوس' دھنک
قوسہ	Qosa	ع	دھنک' کمان
قوسین	Qosain	ع	دو کمانیں
قولچی	Qolchi	ت	خدمتگار
قہری	Qahri	ع	غصے والا

marfat.com
Marfat.com

قیصر	Qaisar	ع	شہنشاہ
قیصری	Qaisery	ف	بادشاہ سے متعلق' سلطان سے متعلق' نویں صدی ہجری میں مالوہ کے حکمران سلطان غیاث شاہ خلجی کی کنیز کا نام قیصری بیگم جو حیدر آباد دکن کی رہنے والی تھیں۔ عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ نے قرآن پاک کی آیات کو موضوع کے لحاظ سے ترتیب دے کر اس کا نام تفہیم القرآن رکھا۔
قیومہ	Qayuma	ع	قائم رہنے والی' زندہ رہنے والی
قیصرہ	Qaisara	ف	سلطانہ' ملکہ
قیماق	Qimaq	ت	ملائی' بالائی
قیطون	Qitoon	ت	ریشم کی ڈوری
قیدافہ	Qidafa	ف	یمن کی ملکہ نوشابہ کا نام

marfat.com
Marfat.com

ک

کابرہ	Kabra	ع	عظیم' بڑی' بزرگ' برگزیدہ
کاظمہ	Kazma	ع	غصے کو پی جانے والی
کاشان	Kashan	ف	ایک مشہور شہر کا نام
کاشفہ	Kashifa	ع	افشاء کرنے والی' ظاہر کرنے والی' کھولنے والی' عیاں کرنے والی
کاشفلہ	Kashifla	ع	ظاہر کرنے والی
کاکل	Kakal	اُف	سر کے بڑھے ہوئے آگے کے بال' زلف' گیسو' لٹ
کائنہ	Kaina	ع	حاضر ہونے والی' موجود ہونے والی' شاہدہ
کارسنج	Karsenj	ف	صاحب لیاقت' کام سے واقف' معاملہ فہم
کارمہ	Karmah	ع	مہربانی کرنے والی' کرم کرنے والی
کارمیلہ	Karmila	عبر	گلستان' چمن' باغ' باغیچہ' پھلدار' میوہ دار
کامرانہ	Kamrana		کامیاب' خوش قسمت' خوش نصیب
کامگار	Kamgar	ع	کامیاب' بامراد
کاملہ	Kamla	ع	مکمل' پوری' کامل' مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور کی ایک نامور شاعرہ کا نام کاملہ بیگم جو فارسی زبان میں شعر کہتی تھی
کارزہ	Karza	ع	واعظ عورت' خطیب' وعظ کرنے والی
کافلہ	Kafla	ع	کفالت کرنے والی' ضامن' ذمہ دار
کاست	Kaset	اُف	کمی' گھٹاؤ
کاسفہ	Kasfa	ع	ترش' کھٹی
کاشلی	Kashli	ت	فیض بخش' نفع بخش' فائدہ مند

marfat.com
Marfat.com

کا ریحان	Karehan	ع	کرم کرنے والی
کاریمان	Kariman	ع	مہربانی کرنے والی' کرم کرنے والی
کافیہ	Kafia	ع	قناعت کرنے والی
کاشدہ	Kashda	ع	محنت ومشقت کے ساتھ رزق کمانے والی
کاشرہ	Kashra	ع	آپس میں ہنسنا' باہم ہنسنا
کاربہ	Karba	ع	قریب ہونا' نزدیک ہونا' پاس ہونا
کاشی	Kashi	ف	نقش ونگار
کاتفہ	Katfa	ع	کسی کو اچھا نہ سمجھنے والی' ناپسند کرنے والی
کاثرہ	Kasira	ع	کثرت پر غلبہ پانے والی' زیادہ پر حاوی ہونے والی
کامنہ	Kamna	ع	پوشیدہ ہونے والی' چھپنے والی' مخفی
کانبہ	Kanbeh	ع	خوشحال' شکم سیر' آسودہ
کاسبہ	Kasebah	ع	کمانے والی
کاثمہ	Kasma	ع	پاس لانا' قریب لانا' نزدیک لانا' ملنا جلنا' میل جول رکھنا' قربت رکھنا
کانسر	Kansar	ع	ہروقت خیال میں رہنے والی
کانسہ	Kansa	ع	ہروقت پناہ گاہ میں رہنے والی
کانتی	Kanti	ہ	درخشاں' تابندہ' شان وشوکت
کامنی	Kamni	ہ	حسین وجمیل' نازک اندام حسین' پھول کی ایک قسم
کامنا	Kamna	ہ	حسرت' آرزو' خواہش' تمنا' شہرت
کاعب	Kaab	ع	کنواری' دوشیزہ
کارلہ	Karla	ٹ	باہم' حوصلہ مند' طاقتور' قوی
کارا	Kara	ک	ہمدم' ساتھی' دوست' رفیقہ
کاجل	Kaja	ا	آنکھ میں لگانے کی سیاہی' سرمہ

marfat.com
Marfat.com

کانتا	Kanta	ہ	درخشندہ، شان وشوکت
کابیشہ	Kabisha	ف	گل معصفر، کسنبھ
کاتمہ	Katma	ع	چھپانے والی، پوشیدہ رکھنے والی
کاجیرہ	Kajira	ف	گل معصفر، سنبھ
کازیرہ	Kazira	ف	گل معصفر، کسنبھ
کبیرہ	Kabira	ع	بزرگ عورت، بڑی، عظیم
کبریٰ	Kubra	ع	عظیم، بڑی، بزرگ
کبشہ	Kabsha	ع	حضرت ابوقتادہ انصاریؓ کے بیٹے حضرت عبداللہؓ کی اہلیہ کا نام حضرت کبشہ۔ آپ کا شمار مشہور تابعیات میں ہوتا ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت کعب بن مالک انصاریؓ کی صاحبزادی تھیں۔
کبودی	Kabudi	ف	نیلگوں، آسمانی
کتارہ	Katara	ف	خنجر، تلوار
کتبلہ	Katbala	ع	سرخ آنکھ والی
کتیبہ	Katiba	ع	فوج، لشکر، جیش، سپاہ
کثبہ	Kasba	ع	جمع شدہ چیز
کثیر	Kaseer	ع	فوج، لشکر، سپاہ
کثنر	Kasnar	ع	عربی گلدستہ
کثنہ	Kasna	ع	گلدستہ
کحلہ	Kajla	ع	کاجل والی
کحل	Kahal	ع	سرمہ، سرمئی، کاجل
کحیلہ	Kahila	ع	وہ آنکھ جس میں سرمہ لگا ہو
کحیل	Kahil	ع	سرمئی آنکھ

marfat.com

Marfat.com

کحلی	Kahli	ع	ایک عمدہ قسم کا کپڑا' سرمئی رنگ
کذافہ	Kazafah	ع	بے حسب' بے شمار
کرارہ	Karrara	ع	حملہ کرنے والی
کراسہ	Karasa	ع	کتاب' قرآن مجید
کرامت	Karamat	ع	نرالی' انوکھی' عجیب
کربانو	Karbano	ا	دلہن' بیگم' بیوی' گھروالی
کرمانی	Karmani	ع	کرم کرنے والا' حضرت شجاع شاہ کرمانی
کرن	Kiren	ار	روشنی' شعاع' چمک' سونے یا چاندی کا دھاگہ۔
کریمہ	Karima	ع	کرم کرنے والی' سخی عورت' فیاض عورت' بی بی صاحبہ ادبی۔ پانچویں صدی ہجری کی نامور عالمہ فاضلہ حضرت کریمہ مروزیہؒ۔ ایران کے شہر مرو میں پیدا ہوئیں' مکہ مکرمہ میں حدیث کا درس دیتی تھیں۔ اندلس کے مشہور محدث ابوبکر محمد بن سابق صقلیؒ آپ کے شاگرد تھے۔
کرکم	Kurkam	ف	زعفران' دھنک' کیسر
کسرا	Kasra	ف	بادشاہ' حکمران
کسول	Kasool	ع	نازونعمت میں پلنے والی لڑکی
کسفہ	Kisfa	ع	ٹکڑا' ریزہ' ذرہ
کسمہ	Kasma	ع	رخساروں پر لٹکائے ہوئے بال
کسفہ	Kasfa	ع	پارہ' ٹکڑا
کستوری	Kastoori	ہ	خوشبو' مشک
کسیفہ	Kaseefa	ع	پردہ کرنے والی' چھپنے والی
کشالہ	Kashala	ف	پھولوں کا تار
کشود	Kashud	ف	کھلنا' پھیلاؤ' خوشی سے پھیلنا' کامیابی' فائدہ

marfat.com

Marfat.com

کشور آراء	Kishwer-Ara	ف	ملک کی آرائش کرنے والی' ملک کو سجانے والی
کشمالہ	Kishmala	ف	پھولوں کا ہار
کشاء	Kusha	ف	ظاہر کرنے والی' کھولنے والی' ظاہر ہونے والی' کھلنے والی
کشادہ	Kashada	ف	ہنسنے والی' خندہ رو' ہنس مکھ
کشادہ جبیں	Kushada Jabeen	ف	خندہ رو' ہنسنے والی' ہنس مکھ
کشفہ	Kashfa	ف	عیاں کرنا' کھولنا' ظاہر کرنا' افشاء کرنا
کشفیہ	Kashfia	ف	کشف دکھانے والی' کھولنے والی' ظاہر کرنے والی' عیاں کرنے والی' افشاء کرنے والی
کشف الخیر	Kashf-ul-Khair	ع	خیر کا عیاں ہونا' خیر کا ظاہر ہونا' خیر کا کھلنا
کشور	Kishwer	ف	ملک' سلطنت' اقلیم' ولایت' اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی والدہ کا نام نواب ملکہ کشور جو نہایت دانشمند اور نیک سیرت تھی۔ نواب ملکہ کشور کا انتقال فرانس کے شہر پیرس میں ہوا اور وہیں پر ان کو دفن کردیا گیا۔
کشور جہاں	Kishwar Jahan	ف	دنیا کو سجانے والی
کشنیز	Kashniz	ف	دھنیا
کعسیب	Kaseeb	ع	عندلیب' بلبل
کظیمہ	Kazima	ع	غصہ پینے والی
کظامہ	Kuzama	ع	وادی کا دہانہ
کفلاء	Kafla	ع	ضامن' کفیل' ذمہ دار
کفی	Kafi	ع	بس' قناعت ہونا' کافی ہونا

marfat.com
Marfat.com

کفیلہ	Kafeela	ع	کفالت کرنے والی
کفیہ	Kafia	ع	گزارا
کلثوم	Kalsoom	ع	بھرے گال' بھرے رخسار' حضرت ابوبکر صدیقؓ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا نام حضرت ام کلثومؓ۔ آپ کی شادی مشہور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت طلحہؓ سے ہوئی تھی۔ جنگ جمل میں حضرت طلحہؓ شہید ہو گئے تو کچھ عرصہ کے بعد آپ کا نکاح حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی ربیعہ سے ہوا۔
کلابہ	Kalaba	ف	ریشم کے ڈوروں کی لچھی
کلالہ	Kulala	ف	زلف' گھنگھریالی
کلاں	Kalan	ف	اونچا' بزرگ' بڑا' طویل
کلدار	Kaldar	ف	گھنگھریالے بالوں والی
کلہ	Kulla	ع	تاج پہنانا
کلیمہ	Kalima	ع	ہم سخن' کلام کرنے والی' بات کرنے والی' گفتگو کرنے والی
کلاتہ	Kalata	ت	کھیت' چھوٹا گاؤں
کلثم	Kulsem	ع	حضرت عائشہ صدیقہؓ کی ایک شاگرد کا نام حضرت کلثم بنت عمرو القرشیہؓ۔ آپ سے چند احادیث مروی ہیں۔ آپ کا شمار تابعیات میں ہوتا ہے
کلبدیہ	Kalbadia	ف	ریشم کے کپڑے والی
کلبہ	Kulba	ف	چھوٹا سا گھر
کلارا	Kalara	لا	روشن' چمکدار' منور
کملا	Kamla	ہ	حسین وجمیل عورت' خوبصورت عورت
کمل	Kamal	ع	کنول کا پھول
کماسر	Kamasar	ع	کمال دیکھنے والی

marfat.com

Marfat.com

کمالہ	Kamala	ع	قابلیت دکھانے والی، اہلیت دکھانے والی، لیاقت دکھانے والی
کمل	Kamal	ع	مکمل، کامل، پوری
کنیا	Kanya	اہ	چھوٹی عمر کی لڑکی، معصومہ، دوشیزہ
کنیفہ	Kaneefa	ع	پردہ کرنے والی، چھپنے والی
کنیت	Kunniyat	ا ع	وہ نام جو باپ، ماں، بیٹا، بیٹی وغیرہ کے تعلق سے بولا جائے
کنیز	Kaniz	ف	لونڈی، باندی، نوکرانی، کنواری
کنیزیہ	Kaneezia	ت	تاروں کا جھنڈ
کنیزک	Kanizak	ف	چھوٹی کنیز، چھوٹی باندی
کنوز	Kanooz	ع	خزانے، کنیز کی جمع
کنول	Kanwal	ہ	گل نیلوفر، پانی کا ایک پھول
کنول نین	Kanwelnain	ا	کنول سی آنکھوں والا
کنار	Kunar	ت	مشہور پھل بیر
کنزا	Kinza	ع	خزانہ رکھنے والی
کنز	Kinz	ع	خزانہ، گنج
کنیکا	Kanika	ہ	دوشیزہ، کنواری لڑکی
کنیر	Kanir	ہ	ایک پھول کا نام
کوفان	Kufan	ع	ریت کا تودہ، عزت، سرداری، بلندی، رنج و سختی
کوئل	Koel	ف	ایک خوش الحان پرندہ
کورین	Korin	یو	خوبصورت لڑکی، حسین و جمیل لڑکی
کوفان	Kufan	ف	حفاظت، پناہ
کورینا	Korina	یو	خوبصورت لڑکی، حسین و جمیل لڑکی
کوپلہ	Kopla	ف	کونپل، بلبلہ، گل، زلف، گیسو

marfat.com

Marfat.com

کواکب	Kowakab	ف	روشن ستارے' بہت سے ستارے
کوشک	Koshak	ف	محل' قصر' ایوان
کومے	Komay	ت	ستاروں کا جھرمٹ' تاروں کا جھنڈ
کوفیہ	Kofia	ع	خیمہ' ٹوپی' کوفہ کی رہنے والی
کوشیہ	Koshia	ف	درخشاں ستارے
کوشیار	Koshiar	ف	ایران کے ایک مشہور حکیم کا نام
کوشید	Koshid	ف	درخشاں ستارے' منور تارے' روشن ستارے
کوشی	Koshi	ف	کوشش کرنے والی' جدوجہد کرنے والی
کوکبہ	Kokba	ف	آن بان' ٹھاٹھ باٹھ' شان وشوکت' ستارہ' تارہ
کوکب	Kokab	ف	روشن ستارہ' منور ستارہ' درخشاں ستارہ
کورا	Kora	یو	دوشیزہ' جوان' کنواری
کوثر	Kosar	ع	جنت کی ایک ندی' بہشت کا ایک حوض
کورہ	Korah	ع	شہر' آبادی
کومل	Komal	ہ	نرم و نازک' نازک اندام
کولت	Kolat	لا	فاتح' فتح مند' جیتی ہوئی
کورالیہ	Koralia	یو	جل پری
کوہکن	Kohkan	ف	پہاڑ کھودنے والا' نیز شیریں کے عاشق فرہاد کا لقب
کہتہ	Kehta	ع	بہت چھوٹی
کہن	Kahan	اُ ہ	کہنے کا ڈھنگ' کہاوت' قول مقولہ
کہینہ	Kahina	ع	بہت چھوٹی چیز
کہکشاں	Kehkshan	ف	ستاروں کی قطار' تاروں کا جھنڈ' ستاروں کا جھرمٹ
کہیب	Kaheeb	ع	بلبل
کہیل	Khail	ف	سرمئی آنکھ' سرمے والی آنکھ' چشم

marfat.com
Marfat.com

کیاست	Kayaset	ا ع	دانائی' فراست' زیر کی' ہوش وخرد
کیانی	Kayani	ن	فطرت والا' خصلت والا
کیش	Kaish	ف	دین' مذہب' عادت' فطرت' ترکش
کیفیہ	Kaifia	ف	نشیلی' مخمور' مدہوش
کیف	Kaif	ن	مستی' سرور' مزا
کیزیا	Kaizia	عبر	ایک خوشبودار پودا
کیفی	Kaifi	ف	مخمور' نشیلی' مدہوش' تیموری خاندان کی ایک مشہور شہزادی کا نام شہزادی کیفی جو ایک بلند پایہ شاعرہ تھی۔ تیسری صدی ہجری کے آغاز میں بطور شاعرہ اس کی خوب شہرت تھی۔
کیقباد	Kaiqbad	ف	عادل' برحق (مذکر) عجم کا ایک بادشاہ جس نے سو سال تک حکومت کی' دہلی کے بادشاہ معز الدین کا لقب جو امیر خسرو کا مداح تھا
کیہان	Kaihan	ف	دنیا' زمانہ' جہان' کائنات
کیہن	Kaihan	ف	بہت چھوٹا

marfat.com
Marfat.com

گ

گابانگ	Gabang	ف	نعرہ جنگ، طبل کے بجنے کی آواز
گاز	Gaz	ف	ہری گھاس
گازہ	Gaza	ف	پالنا، جھولنا
گاگر	Gagar	ا،ہ	مٹی یا دھات کا گھڑا، مٹی کا وہ برتن جس میں شربت ڈال کر اس کا منہ سرخ کپڑے سے بند کر کے پھولوں کے ہار ڈال کر مزاروں پر چڑھاتے ہیں
گالاسا	Gallasa	ا	بہت زیادہ سفید ملائم
گاؤعنبر	Gao Anbar	ف	وہ سمندری گائے جس کی نسبت لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ عنبر اگلتی ہے
گرامی	Garami	ف	محترم
گرد آفرید	Gurd Afrid	ف	ایک ایرانی شہزادی کا نام
گرزن	Gurzan	ف	تاج
گرزین	Gerzin	ف	جڑاؤ تاج، مرصع تاج، عرش آسمان
گرگینہ	Gargina	ف	پوستین
گڑیا	Gurria	ہ	لڑکیوں کے کھیلنے کا کپڑے کا پتلا
گزین	Guzeen	ف	پسند کرنے والا، پسندیدہ، دلچسپ خلوت گزین
گزینہ	Gazina	ف	منتخب، چنی ہوئی، پسندیدہ
گشاد	Goshad	ف	خوشی، مسرت، کامیابی و کامرانی
گل	Gull	ف	پھول

marfat.com
Marfat.com

گل	Gill	اُف	خاک، مٹی، گارا، گیلی مٹی، کیچڑ، دلدل
گلبدن	Gulbadan	ف	پھول جیسے بدن والی، نازک، پیاری، محبوب، مغل بادشاہ ظہیرالدین بابر کی بیٹی کا نام گلبدن بیگم جو مغل بادشاہ نصیرالدین محمد ہمایوں کی سوتیلی بہن تھی۔ اور مغل بادشاہ اکبر کی پھوپھی تھی۔ اس کی والدہ کا نام صالحہ سلطان تھا۔ اس کی پیدائش کابل میں ہوئی اور وفات آگرہ میں ہوئی۔
گلچیں	Gulcheen	ف	مالی
گلستان	Gulsitan	ف	باغ، پھلواری
گلبار	Gulbar	ف	پھول برسانے والا
گلبازہ	Gulbazeh	ف	پھولوں سے کھیلنے والی
گل افروز	GulAfroze	ف	روشن پھول، روشن گلاب
گلدم	Guldam	ف	بلبل کی ایک قسم کا پرندہ جس کی دم سرخ پھول جیسی ہوتی ہے
گلدین	Guldin	ت	پھول سے نکلی ہوئی
گل چیں	Gulchin	ف	مالی، باغباں
گلاب	Gulab	ف	ایک خوشبودار پھول
گلغدار	Gulghadar	ف	گلاب جیسے گالوں والا
گلریز	Gulraiz	ف	پھلجھڑی
گل شگفتہ	Gul Shagufta	ف	کھلا ہوا پھول
گل اندام	GulAndam	ف	پھول جیسے جسم والی، پھول جیسے بدن والی
گلفام	Gulfam	ف	گل رنگ
گلفدا	Gulfidar	ف	گلاب جیسی
گلفشاں	Gulfishan	ف	پھول بکھیرنے والا، خوش گفتار

marfat.com
Marfat.com

گل نام	GulNam	ف	پھول کی مانند گل رنگ پھول جیسی
گل نرگس	Gul-e-Narges	ف	نرگس کا پھول
گل احمر	GulAhmer	ف	سرخ گلاب' سرخ پھول
گل بدن	Gulbadan	ف	پھول جیسے بدن والی' نازک' معشوق
گل بن	Gulben	ف	سرخ گلاب' گلاب کا پودا
گلشن	Gulshen	ف	چمن' پھولوں کا باغ' مغل بادشاہ شہاب الدین محمد شاہجہاں کے دور کی ایک مشہور شاعرہ کا نام گلشن جو صاحب دیوان بھی تھی
گل رو	Gulro	ف	پھول جیسا چہرہ
گل عذا	Gul Aza	ف	پھول کے رخسار والی
گل عذرا	Gul-E-Azra	ف	پھول جیسے گالوں والی' پھول جیسے رخساروں والی
گل شہر	Gul-Shehr	ف	فارس کے افراسیاب کے سپہ سالار کی بیوی کا نام
گل ہاشم	Gul-e-Hashim	ف	چنبیلی کا پھول
گلیم پوش	Gleem Posh	ف	کمبل پوش جو کمبل اوڑھے رکھے
گلیر	Gulair	ت	خوبصورت' حسین' نرم و نازک' رنگین' پیاری
گل صنوبر	Gul-E-Sonober	ف	پھول' صنوبر کا پھول
گل ابر	Gul-E-Abr	ف	بادل کا ٹکڑا
گلنار	Gulnar	ف	انار کی ایک قسم' انار کی طرح ایک سرخ پھلواری
گلناز	Gulnaz	ف	پھول پہ ناز کرنے والی
گل کوکب	Gul-E-Kokab	ف	ڈیلیا کا پھول

marfat.com
Marfat.com

گلالہ	Gulala	ف	گھنگھریالے بال' کھلے بال
گل رعنا	Gulrana	ف	وہ پھول جو اندر سے سرخ اور باہر سے زرد ہو۔
گل گوں	GulGoon	ف	گلاب جیسی رنگت والی' گلاب جیسے رنگ والی
گل چہر	GulChehr	ف	گلاب جیسے چہرے والی' پھول کی مانند چہرے والی
گل چہرہ	GulCher	ف	پھول سا چہرہ' دل کش' مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی بیٹی کا نام گل چہرہ بیگم جو ایک بہترین شاعرہ تھی۔
گل تن	Gulten	ت	پھول جیسے بدن والی' پھول جیسے جسم والی
گل نشاط	GulNishat	ف	شراب
گل آفتاب	Gul-E-Aftab	ف	سورج مکھی
گل مہتاب	Gul-E-Mahtab	ف	سفید پھول' درختوں سے چھن کر بکھری چاندنی
گل گونہ	Gulgona	ف	رخساروں کی سرخی' گال کی سرخی
گل افشاں	GulAfsuan	ف	پھول بکھیرنے والی' پھول برسانے والی
گل جان	Gul-E-Jan	ف	پھول کی جان' پھول جیسی جان والی
گل جانہ	Gul-e-jana	ف	گل جان کی تانیث' پھول کی جان
گل جانی	Guljani	ف	پھول کی جان
گل جام	Guljam	ف	پھول کے رنگ جیسی
گل زیبا	Gul-E-Zeba	ف	گل رعنا' دو رنگ کا پھول
گل رنگ	Gul-E-Rang	ف	گلاب کی مانند
گلنار	Gulnar	ف	شراب' گل نشاط

marfat.com

Marfat.com

گلزار	Gulzar	ف	گلشن، چمن، باغ
گلین	Guleen	ت	خوبصورت مسکراہٹ والی، سب سے حسین پھول
گلشن آراء	GulshanAra	ف	باغ کو سجانے والی، باغ کی آرائش کرنے والی
گل نسرین	Gulnasreen	ف	جنگلی پھول
گل مالا	Gul-E-Mala	ف	گلے کا ہار، گجرا
گل رخ	GulRukh	ف	پھول جیسے رخسار، محبوب
گل خندہ	GulKhanda	ف	قہقہہ لگا کر ہنسنے والی
گلثانہ	Gulsana	ف	بے مثال پھول
گل باشم	Gulbasham	ف	چنبیلی کا پھول
گل بکاؤلی	Gul-E-Bakaoli	ا	ایک خوشبودار سفید پھول
گل لالہ	Gul-E-Lala	ف	سرخ پھول کی ایک قسم
گل نیلوفر	Gul-E-Nilofer	ف	کنول کا پھول
گل نین	Gulnain	ع	کٹورا جیسی آنکھوں والی
گلیکن	Gulaikan	ت	دلہن
گوہر بار	Goherbar	ف	سخی، موتی برسانے والا

marfat.com
Marfat.com

گوہر	Goher	ف	موتی' جوہر'ماوراالنہر کے مشہور حکمران میرزا شاہ رخ کی ملکہ کا نام گوہر شاد آغا جو بڑی نیک کردار تھی۔ ایران کے شہر مشہد مقدس میں امام علی رضا کے مقبرہ کے ساتھ موجود عظیم الشان اور خوبصورت مسجد اسی نے تعمیر کروائی تھی۔ ملکہ گوہر شاد نے بہت سے مدرسے اور مساجد تعمیر کروائی تھیں۔ ہرات میں بھی کافی مساجد تعمیر کروائیں۔
گوزیل	Gozail	ت	بہادر' جری' دلیر' شجاع
گونل	Gonel	ت	درخشاں' تاباں' روشن' چمکدار' منور
گوئل	Goel	ت	چمکدار' روشن
گنج	Ganj	ف	خزانہ
گنج بخش	Ganjbakhsh	اُف	خزانہ بخشنے والا' بہت بڑا فیاض' ملک داتا' حضرت علی ہجویریؒ کا لقب
گنجرہ	Gunjera	ف	غازہ' ابٹن
گنجور	Ganjoor	ف	دولت مند' امیر آدمی
گنجینہ	Ganjeena	ف	خزانہ' ذخیرہ' مال گودام
گوہرتاب	Gohertab	ف	موتی کی طرح چمکنے والی
گوہر آراء	GoherAra	ف	موتی کو سجانے والی
گوہر افروز	GoherAfroz	ف	موتی کو روشن کرنے والی
گوشی	Goshi	ف	منسوب بہ گوش' ایک محصول کا نام
گونہ	Gona	ف	رنگ' ڈھنگ' وضع' ڈھنگ
گہربار	Goher Bar	ف	موتی برسانے والی

marfat.com
Marfat.com

گہر	Gohr	ف	موتی، گوہر
گیتا	Geeta	ہ	گانے والی
گیتی	Gaiti	ف	دنیا جہاں، عالم، زمین
گیتی آراء	Gaiti Ara	ف	دنیا کو سجانے والی، دنیا کی آرائش کرنے والی، امیر تیمور کے بیٹے میران شاہ کی اہلیہ کا نام گیتی آراء جو فلاحی اور رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ بہترین مصورہ تھی۔ فن سپہ گری میں ماہر تھی۔ اس نے خواتین کے لیے ایک فوجی سکول قائم کیا اور بہترین قسم کی زنانہ فوج تیار کی۔
گیتی آفرین	Geeti Afrin	ف	عالم کو پیدا کرنے والا، خدائے تعالیٰ
گیتی بان	Geetiban	ف	دنیا کا محافظ، دنیا کا بادشاہ
گیلانی	Geelani	ف	حضرت عبدالقادر جیلانی سے نسبت رکھنے والا
گیلن	Gailan	ت	دلہن، عروسہ
گیسو آراء	GasoAra	ف	بالوں کو سجانے والی، بالوں کی آرائش کرنے والی
گیتی فروز	Gaitifroz	ف	دنیا کو منور کرنے والی، دنیا کو روشن کرنے والی

marfat.com

Marfat.com

ل

لابتہ	Labta	ف	درخواست' خواہش
لابثہ	Labsa	ع	دیر کرنے والی' ٹھہرنے والی
لاثانی	Lasani		یکتا' بے نظیر' بے مثال
لاٹوں والی	LatonWali	ہ	جوالا مکھی' ایک دیوی جو درگا جی کا اوتار سمجھی جاتی ہے
لاخطہ	Lakhta	ع	کن انکھیوں سے دیکھنے والی
لامطہ	Lamta	ع	روشن' منور
لامیہ	Lamia	ع	زلفوں والی' گیسو والی' بالوں والی
لاجورد	Lajwerd	ف	نیلے رنگ کا ایک قیمتی پتھر
لاڈو	Lado	ہ	پیاری' لاڈلی' چہیتی' مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور کی ایک نیک سیرت خاتون کا نام لاڈو جو بڑی دین دار تھی۔ لاہور میں مسجد مائی لاڈو اسی کی تعمیر کروائی ہوئی شاندار مسجد ہے۔ اس مسجد کے ساتھ ایک عظیم الشان مدرسہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ جہاں دور دراز سے طالب علم دینی تعلیم کے لیے آتے تھے۔ اب مدرسہ کا نام و نشان موجود نہیں مگر مسجد تا حال قائم اور آباد ہے۔
لاہب	Laheb	ف	اونچے شعلوں والی آگ
لاہغہ	Lahgha	ع	فریادی' سائل
لاہقہ	Lahqa	ع	سائل' مظلوم' فریادی
لامعہ	Lamia	ع	درخشاں' منور' چمکدار' روشن
لاذقہ	Lazqa	ع	چمکنے والی' چمکنے والی

marfat.com

Marfat.com

لالہ رو	LalaRoo	ف	پھول جیسے چہرے والی
لال	Lal	ع	سرخ
لاصقہ	Lasqa	ع	پیوستہ جڑی ہوئی ملی ہوئی لپٹی ہوئی چمٹی ہوئی
لالہ	Lala	ف	ایک پھول کا نام چراغ
لاطہ	Lateh	ع	اصرار کرنا ضد کرنا
لاحظہ	Lahiza	ع	کنکھیوں سے دیکھنے والی
لاحفہ	Lahfa	ع	مدد کرنا
لامزہ	Lamza	ف	اشاروں سے بات کرنے والی
لالہ رخسار	Lala Rukshar	ف	سرخ گالوں والی سرخ رخساروں والی
لالہ عذار	LalaAzar	ف	لالہ جیسے رخساروں والی لالہ جیسے گالوں والی
لالہ عزار	Lala Azar	ف	لالہ کے رخساروں والی
لالہ لب	Lala Lab	ف	گل لالہ جیسے سرخ ہونٹوں والی
لالہ برگ	LalaBerg	ف	پھول کی پنکھڑی
لالہ رخ	Lala Rukh	ف	پھول جیسے چہرے والی
لاثمہ	Lasma	ع	چومنے والی بوسہ لینے والی محبت کرنے والی پیار کرنے والی
لائق	Laiq	ع	اہل قابل جائز موزوں
لافظہ	Lafiza	ع	دنیا سمندر
لائقہ	Laiqa	ع	قابل اہل موزوں
لائحہ	Laiha	ع	چمکدار چیز
لارا	Lara	لا	مشہور نامور پھولوں کا ملک
لادن	Ladn	ف	ایک خوشبو عنبر
لاڈلی	Ladli	د	پیاری چہیتی ناز و نعم سے پلنے والی

marfat.com

Marfat.com

لازب	Lazib	ع	چپکنے والا' لازم
لازقہ	Lazqa	ع	چپکنے والی' چمٹنے والی
لائمہ	Laima	ع	ملامت کرنے والی
لبوہ	Labwa	ع	شیرنی
لبنیٰ	Lubna	ع	دودھ جیسے رنگ والی سفید
لبری	Lubree	انگریزی	آزاد خیال' خودمختار' مطلق العنان سب کا بھلا چاہنے والا' جمہور اور معاشرتی اصطلاحات کا حامی اور خیر خواہ
لبیبہ	Labiba	ع	دانشمند' سمجھدار' دانا' عقلمند باشعور
لبنہ	Lubna	ع	دودھ جیسی رنگت والی' گوری چٹی' سفید
لبیقہ	Labiqa	ع	دانا عورت' ہوشیار عورت' سمجھدار عورت' عقلمند عورت
لتا	Lata	ا س	انگور کی بیل' لمبی اور پتلی عورت
لتازہ	Lataza	ع	آنکھوں سے اشارہ کرنے والی
لثوم	Lasoom	ع	چومنا' بوسہ لینا
لجہ	Lajjah	ع	بھنور' گرداب
لجمہ	Lajmah	ع	سطح پہاڑ
لجنہ	Lajna	ع	جماعت
لجیفہ	Lajeefa	ع	دروازے کا پہلو
لجین	Lajeen	ع	خالص چاندی
لحاظ	Lahaz	ع	شرم' حیا' دیکھنا' مروت' پاس داری' خیال' دھیان' تیرہویں صدی ہجری کی ایک نامور عالمہ فاضلہ کا نام لحاظ النساء جس نے اپنی ساری زندگی علم حدیث کی درس و اشاعت میں بسر کی
لحطہ	Lehta	ع	زینت دینا' سجانا' زیبائش و آرائش کرنا

marfat.com

Marfat.com

لحنہ	Lahna	ع	انگارہ شعلہ
لحیم	Laheem	ع	موٹا فربہ
لخمہ	Lakhma	ف	شعلہ انگارہ
لخشاں	Lakhshan	ع	نہایت صاف ستھری چیز
لخشہ	Lakhsha	ف	انگارہ شعلہ
لصیف	Laseef	ع	چمک درخشندگی
لطاف	Litaf	ع	بات جو غور کرنے کے بعد سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام
لطافت	Latataf	ع	عمدگی نرمی خوبی نزاکت پاکیزگی
لطیف	Latif	ع	باریک مہین نازک ملائم
لطف	Lutf	ع	لذت عمدگی مہربانی خوبی نرمی مزہ
لطیمہ	Latima	ع	نافہ مشک
لطفانہ	Lutfana	ع	نیکی اور بھلائی کرنے والی
لطیفہ	Latifa	ع	دلچسپ بات خوبی نازک چٹکلہ
لعلین	Lalin	ف	پھول کی طرح پھول جیسی سرخ
لعین	Laeen	ع	ملعون مردود بدبخت دوزخی
لعل	Lal	ف	سرخ رنگ کا موتی لال
لعبت	Labt	ع	گڑیا پتلی مورتی کھلونا محبوبہ
لعوب	Laoob	ع	نازونخرہ والی نازوادا والی
لعلی	Lali	ف	سرخ رنگ لال رنگ
لعل	Lal	ع	امید کرنا غالباً شاید
لغونہ	Laghoona	ف	غازہ پوڈر ابٹن گلگونہ

marfat.com
Marfat.com

لفاظ	Laffaz	ع	کوش گو خوش بیان' شیریں زبان' مبالغہ آمیز باتیں کرنے والا
لفیفہ	Lafeefa	ع	ملفوف' لپٹی ہوئی
لفیفہ	Lafifa	ع	لپیٹی ہوئی' لپٹی ہوئی' دوست
لقا	Laqaa	ع	چہرہ' شکل' دیدار
لقاعت	Laqaat	ع	حاضر جواب
لقاافروز	LaqaAfroz	ف	چہرے کو روشن کرنے والی' روشن چہرے والی
لقاآراء	LaqaAra	ف	چہرے کی آرائش کرنے والی' چہرے کو سجانے والی
لقاعہ	Laqa	ع	حاضر جواب' حاضر دماغ
لقاف	Laqaf	ع	ہوشیاری' مہارت' کمال
لقانت	Laqanat	ع	تیز فہم اور عقل مند ہونا
لقیط	Laqeez	ع	زمین پر پڑی ہوئی چیز جو اٹھائی جائے نیا چنا ہوا بچہ جو زمین پر پڑا ہوا ور اسے اٹھالیا جائے پرانا کنواں جو اچانک گر پڑے
لمیس	Lamees	ع	نرم و نازک عورت' نازک اندام حسینہ
لمظہ	Lamza	ع	ہونٹ کی سفیدی' دل کا سیاہ نقطہ
لزیرہ	Lazira	ع	پارسا عورت' عقلمند پرہیز گار' نیک دانشمند
لمعان	Laman	ع	چمکنا' روشن ہونا' منور ہونا
لمعہ	Lumaa	ع	روشنی' نور' چمک' شعاع
لمیا	Lamia	ع	سیاہ ہونٹوں والی
لموس	Lamoos	ع	اونٹنی جس کی فربہی میں شک ہو منہ بولا بیٹا وہ آدمی جس کے نسب میں خرابی ہو
لموع	Lamoo	ع	روشن ہونا' چمکنا
لمع	Lama	ع	روشنی' چمکنا' منور ہونا

marfat.com
Marfat.com

لمازہ	Lamaza	ع	آنکھ سے اشارہ کرنے والی
لمعطہ	Lamanta	ع	ہونٹ کی سفیدی' دل کا سیاہ نقطہ
لنڈا	Linda	لا	عقلمند' دانشمند' حسین وجمیل' خوبصورت
لولہ	Lola	ع	حوصلہ مند خاتون' باہمت عورت
لورین	Lorain	لا	پھولوں کا تاج
لوسندہ	Losinda	لا	روشنی' اجالا' نور
لوسیا	Losia	لا	اجالا' نور' روشنی
لولو	Lulu	ع	موتی' مروارید
لوح سیمیں	Loh-e-Simin	ع	محبوب کی پیشانی' محبوب کا ماتھا
لوح شمس	LohShams	ع	محبوب کا ماتھا
لویزہ	Loeeza	ع	حضرت آدم علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام
لولوشم	Lulusham	ف	ایک پھول کا نام
لولوہ	Luluh	ف	چھوٹا موتی
لوسی	Lusi	لا	روشنی' چمک' اجالا' نور
لورنڈا	Lorinda	لا	پھولوں کا مکٹ
لورا	Lora	لا	پھولوں کا مکٹ
لہری	Lahree	ہ	منچلا' زندہ دلی' ترنگی' موجی' ظریف' دل جلا
لہلہ	Lehla	ع	فراخ زمین' کھلی زمین' کشادہ زمین
لہنہ	Luhna	ع	تحفہ' عطیہ
لہیہ	Luhya	ع	عطیہ' بڑا انعام
لئیقہ	Laeeqa	ع	قابل' اہل' لائق
لینا	Laina	یو	ہمت' حوصلہ' روشنی' اجالا' نور
لینہ	Leena	ع	سفید' گوری' چٹی' دودھ جیسی رنگ والی

marfat.com
Marfat.com

لیلیٰ	Laila	ع	محبوبہ' کالی سیاہ' رات کی طرح سیاہ' ترکی کی ایک نامور شاعرہ کا نام لیلیٰ خانم جو تیرہویں صدی ہجری میں گزری ہے۔ اس کا دیوان ترکی میں بہت مقبول ہے۔
لیزا	Liza	عبر	اللہ تعالیٰ کے لیے وقف
لیل	Lail	ع	شب' رات
لیل افروز	Lail Afroz	ع	رات کو روشن کرنے والی
لیلا	Laila	ع	سیاہ' سانولی' کالی
لیلا	Lila	عبر	پرکشش' دل لبھانے والی' دلفریب' دلکش
لیلوفر	Lilofer	ع	نیلوفر
لیاقت	Liaqat	ع	قابلیت' خوبی' جوہر' استعداد
لیسا	Lissa	عبر	اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کی ہوئی
لیلیٰ	Laila	ع	رات کی رانی' رات کو خوشبو دینے والے پھول
لیلہ	Laila	لا	سوسن کا پھول
لیزے	Lize	ع	نرم اور لچکدار کمان
لیزم	Lizem	ف	نرم اور لچکدار کمان
لیقہ	Laeeqa	ع	عقلمند' دانا
لیماء	Leema	ع	صلح' شکل وشباہت میں مشابہ
لیمان	Leeman	ت	کھٹا' ترش

marfat.com
Marfat.com

م

ماشدہ	Masda	ت	دیدبان
ماثرہ	Masra	ع	اچھے کام کرنے والی
ماہ پارا	Mah para	ف	چاند کا ٹکڑا
ماہ لقا	Mahlaqa	ف	نہایت حسین وجمیل' چاند جیسی شکل' چاند جیسا چہرہ' اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ کا نام۔ ماہ لقا جو تیرہویں صدی ہجری میں گزری ہے۔ اس کے والد کا نام مرزا سلطان تھا جو نجف کا رہنے والا تھا اور مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں ہندوستان آکر شاہی دربار میں ملازم ہو گیا تھا۔
ماہ رُخ	Mahrukh	ف	چاند جیسے چہرے والی' چاند جیسی شکل والی
مارشا	Marsha	یو	موتی' گوہر
ماحلہ	Mahila	ع	تیز مزاج' لڑاکا
مالہ	Malah	ف	راج کی کرنی' گل مالہ' میل کرنے والا
مالکہ	Malika	ع	مالکن
ماہ مبین	Mah-e-Mubin	ف	ظاہر چاند' روشن چاند' منور چاند
ماہ پارہ	MahPara	ف	چاند کا ٹکڑا
ماہرہ	Mahera	ف	استاد' کامل' مشاق' مہارت رکھنے والی
ماہ	Mah	ف	مہینہ' چاند' ماہتاب' قمر
ماہ بانو	Mah Bano	ف	چاند جیسی عورت' ماہتاب جیسی عورت
ماصفہ	Masifa	ع	نیک' شریف' پاک' مطہرہ' پاکیزہ

marfat.com

Marfat.com

ماضرہ	Mazra	ع	چھوٹی کشتی
ماضیہ	Mazia	ف	گذشتہ
ماہ طلعت	Mah-E-Talat	ف	چاند جیسی دید' چاند جیسا نظارہ
مارلین	Marlyn	عبر	اعتبار کرنے والی' بھروسے والی
ماردہ	Mardah	ع	اونچی' بلند' فراز' بغاوت' سرکشی
ماہ پیکر	MahPaker	ف	چاند سے جسم والی' سلطنت عثمانیہ کے اٹھارہویں حکمران سلطان مراد چہارم کی والدہ کا نام ملکہ ماہ پیکر جو بڑی عقلمند اور صاحب تدبیر خاتون تھی۔ قسطنطنیہ میں اس کی تعمیر کروائی ہوئی عظیم الشان جامع مسجد چنلی آج بھی موجود ہے۔
ماہ سیما	Mah-E-Sima	ف	چاند جیسی پیشانی والی' چاند جیسے ماتھے والی
ماہ منیر	Mah-E-Munir	ف	چمکدار چاند' روشن چاند' چمکنے والا چاند
ماہ کامل	Mah-E-Kamel	ف	مکمل چاند' پورا چاند
ماہ عرب	Mah-E-Arab	ف	عرب کا چاند
ماہ عجم	Mah-E-Ajam	ف	عجم کا چاند
مادخہ	Madkha	ع	مکرم' محترم' معزز' معظم
مادقہ	Madfa	ع	معزز' معظم
مازجہ	Mazja	ع	مل جانا
مازحہ	Maziha	ع	خوش طبعی کرنا
مازیہ	Mazia	ع	بزرگی' فضیلت' بلند مرتبہ' ممتاز' اونچی' بلند و بالا
ماریا	Maria	عبر	سرفراز' اونچی' تیز' تلخ' بلند

marfat.com
Marfat.com

مارگو	Margo	یو	موتی' گوہر
مائلہ	Maila	ع	موافقت کرنا' محبت کرنا' پیار کرنا' مدد کرنا' حمایت کرنا
ماورا	Maoora	ع	غیر مرئی' دور
مارا	Mara	عبر	ممتاز' بلند' تلخ' سخت' سرفراز
ماہ رو	Mah-E-Roo	ف	چاند جیسی صورت' چاند کے مانند چہرے والی
ماثلہ	Masla	ع	مانند' نظیر' مثل' توصیف والی' صفت والی' نمونہ
مامونہ	Mamoona	ع	حفاظت میں' بے خوف' محفوظ' مامون' پناہ میں
ماہم	Mahem	ع	مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی اہلیہ کا نام۔ جو کہ شہنشاہ ہمایوں کی والدہ کا نام۔
ماجدہ	Majida	ع	قابل احترام عورت' برگزیدہ' بزرگ
ماجلہ	Majila	ع	لڑاکا' تیز مزاج
مارسیا	Marsia	یو	موتی' گوہر
ماہین	Mahin	ف	چاند جیسی' ماہتاب جیسی
ماہنہ	Mahna	ع	خادمہ' لونڈی' باندی' ختم کرنے والی
مایہ	Maya	ف	قدرت' سرمایہ' طاقت' مقدار
مایا	Maya	ہ	اللہ تعالیٰ کی قدرت' دولت' مال
مائرہ	Maira	ا	قابل تعریف' عمدہ' اعلیٰ
مائلہ	Maila	ف	متوجہ' مائل' جھکی ہوئی
ماہتاب	Mahtab	ف	چاندنی' چاند
مانیا	Mania	ر	سرفراز' ممتاز' بلند مرتبہ' ارفع
ماریہ	Maria	ع	سفید رنگ کی عورت' حضور نبی کریم ﷺ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہؓ۔ حضور ﷺ کے پیارے صاحبزادے حضرت ابراہیمؓ ان ہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے

marfat.com
Marfat.com

مادر	Mader	ف	ماں والدہ
ماخرہ	Makhra	ع	چھوٹی کشتی
ماذخہ	Mazikha	ع	معزز
ماذنہ	Mazna	ع	اذان کا مینا
ماذیہ	Mazia	ع	نرم یا سفید زرہ
مارشا	Marsha	لا	جنگجو لڑا کا' سیاہ مریخ کے زیر اثر
مارسیلہ	Marsila	یو	موتی' گوہر
ماروا	Marwa	ا	لاثانی' یکتا' بےنظیر
ماورا	Mawra	ت	نیچی' پرے' دور' غیر مرئی' علاوہ' سوا
مانی	Mani	ہ	مان کرنے والی' ناز کرنے والی
مالا	Mala	ہ	گلے کا ہار
مالتی	Malti	ہ	چنبیلی' ایک خوشبودار پھول
مائدہ	Maida	ع	دسترخوان' جس پر کھانا چنا ہوا ہو' قرآن پاک کی ایک سورۃ
ماہین	Mahin	ہ	خدمت گار' نوکر
ماہ چوچک	Mah-E-Chuchak	ف	مغل بادشاہ نصیرالدین محمد ہمایوں کی سب سے چھوٹی بیگم کا نام ملکہ ماہ چوچک جو کابل کے مشہور گورنر محمد حکیم مرزا کی والدہ تھی
مبلغہ	Mubelgha	ع	تبلیغ کرنے والی' پہنچانے والی' واعظ' خطیبہ
مبارکہ	Mubaraka	ف	امداد سے کام کرنا
مبارزہ	Mubakra	ف	حمایت سے کام کرنا' امداد سے کام کرنا
مبشرہ	Mubeshra	ع	مژدہ سنانے والی' خوشخبری دینے والی
مبصرہ	Mubesra	ع	پرکھنے والی
مبال	Mibal	ف	خوف' خطرہ' اندیشہ

marfat.com
Marfat.com

مبارک	Mubarak	ف	برکت دیا ہوا' خجستہ
مبارک	Mubarak	ع	خوشخبری' مژدہ
مبینہ	Mubina	ع	ظاہر ہونے والی' آشکارا ہونے والی' عیاں ہونے والی' واضح
مبنہ	Mubna	ع	صاف' آشکارا' ظاہر' عیاں' واضح
مبادرہ	Mubadra	ع	تیزی کرنے والی' جلدی کرنے والی' دلیری کرنے والی
مبردہ	Muberda	ع	ٹھنڈی کرنے والی چیز
مبسوطہ	Mabsoota	ع	کشادہ' کھلی' فراخ
منائم	Munaam	ع	ملائم' نرم' نازک
منالہ	Munala	ع	اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی
متاع	Mataa	ع	اثاثہ' پونجی
متاع النساء	Mata-un-Nisa	ع	عورت کو پونجی
متانت	Matanat	ع	مضبوطی' پختگی
متانت النساء	Matanat-un-Nisa	ع	پختہ عورت
متالمہ	Mutalma	ع	غمزدہ' غمگین' رنجیدہ
متبرکہ	Mutbarka	ع	بزرگ عورت' برگزیدہ' پاک صاف' مقدسہ
متجلی	Mutjalli	ع	روشن' چمکدار' ظاہر' منور
متحلی	Muthalli	ع	زیور سے آراستہ
متعارفہ	Mutarifa	ع	ظاہر' عیاں' مشہور' معلوم
متعلمہ	Mutalima	ع	تعلیم پانے والی' طالبہ' شاگرد
متمدنہ	Mutmadna	ع	مہذب' شریف' بننے والی
متین	Muteen	ع	مضبوط

marfat.com

Marfat.com

مثمر	Musmer	ع	فائدہ مند' پھلدار' پھل دینے والی' نفع بخش
مثالہ	Misala	ع	شاہی پروانہ
مثابت	Misabat	ع	مانند' مثل' مشابہ
محنہ	Majna	ع	امتحان' آزمائش
مجیزہ	Mujeeza	ت	معجزہ' وہ کام جو عقل میں نہ آئے' کرامت
مجیرہ	Mujira	ع	مددگار' پناہ دینے والی' حمایتی' معاون
مجاہدہ	Mujahida	ع	اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والی' جدوجہد' ریاضت' کوشش
مجیدہ	Majida	ع	بڑی' بزرگ' برگزیدہ
مجیدالنساء	Majeed-un-Nisa	ع	بزرگ عورت
مجرہ	Majira	ع	کہکشاں' ستاروں کی قطار
مجیب النساء	Majeeb-un-Nisa	ع	عورتوں کی قبولیت
مجیبہ	Mujiba	ع	قبول کرنے والی
مجازیہ	Mujazia	ع	جزا دینے والی
مجلہ	Mujalla	ع	روشن کرنے کی جگہ
محب	Muhib	ع	محبت کرنے والا' یا کرنے والی' تھکا ہوا اونٹ
محبوبہ	Mahbooba	ع	معشوقہ
محجوب	Mehjoob	ع	پوشیدہ' شرمندہ
محجوں	Mahjoon	ع	پوشیدہ' چھپا ہوا
محضہ	Mehza	ع	نیک' پارسا' اچھی
محمودہ	Mahmooda	ع	تعریف کی گئی

marfat.com
Marfat.com

محمود	Mahmood	ع	پسندیدہ سرسید احمد خان کی بہو کا نام محمود بیگم جو دہلی کے رئیس نواب شرف الدین خان کی صاحبزادی تھیں نہایت نیک سیرت تھیں۔
محمود النساء	Mahmood-un-Nisa	ع	پسندیدہ عورت
محصنہ	Mohisna	ع	پرہیزگار پارسا عورت نیک پاک پاکیزہ
محسنہ	Mohsana	ع	مددگار حمایتی احسان کرنے والی
محنہ	Muhina	ع	آزمائش امتحان
محالفہ	Muhalifa	ف	عہد کرنے والی وعدہ کرنے والی
محال	Muhaal	ع	دشوار مشکل
محالہ	Mahala	ف	تدبیر چارہ علاج حل جاگیر
محمدی	Muhammadi	ع	مسلمان حضور نبی کریم ﷺ کا پیروکار ایک نام محمدی بیگم
محمودی	Mahmudi	ع	چاندی کا ایک سکہ ایک قسم کی باریک ململ
محلدار	Mahaldar	ا	چوکیدار محافظ پہریدار نگران
محافہ	Muhafa	ع	پالکی ڈولی
مخدومہ	Makhdooma	ع	مالکہ آقا شمالی دکن کے گیارہویں بہمنی حکمران علاؤالدین ہمایوں شاہ کی ملکہ کا نام ملکہ مخدومہ جہاں جو بڑی نیک سیرت اور دانشمند تھی۔ حکومت کے کاموں میں مفید مشورے دیتی رہتی تھی۔
مخدوم النساء	Makhdoom-un- Nisa	ع	عورتوں کی آقا
مخابرہ	Mukhabira	ع	آپس میں خبریں پہنچانا خبر رسانی
مخاطبہ	Mukhatiba	ع	آپس میں گفتگو کرنا بات چیت کرنا

marfat.com

Marfat.com

مختار	Mukhtar	ع	آزاد، وکیل، ولی، پسندیدہ، مرضی کی مالک
مختار النساء	Mukhtar-un Nisa	ع	آزاد عورت
مختوم	Makhtum	ع	مہر لگا ہوا
مخرقہ	Mukhraqa	ع	حیا، شرم، لاج، غیرت
مخطوبہ	Makhtuba	ع	منگیتر لڑکی
مدحت	Midhat	ع	تعریف، برائی
مدیحہ	Madiha	ف	تعریف کرنے والی، صفت کرنے والی، مدحت کرنے والی، ایک نام مدیحہ گوہر
مدحہ	Madah	ع	تعریف کی گئی، حمد کی گئی
مدین	Madin	ع	شہر، بندہ، قرض دار
مدینہ	Madina	ع	یثرب، عرب کا شہر
مدیدہ	Madida	ع	مدت، عرصہ، دراز، لمبی، طویل
مدبرہ	Mudabbra	ع	عقل مند، دانشمند، سمجھدار، باتدبیر، صلاح دینے والی
مدرکہ	Mudarka	ع	سمجھنے کی قوت، ذہن
مدھو	Madhu	ف	دودھ، شہد، پانی، ایک درخت
مذلہ	Mazlah	ع	چٹان کا گڑھا، کھجور کی گٹھلی
مذیبہ	Muziba	ع	پگھلانے والی
مذیہ	Muzia	ع	آئینہ، شیشہ
مریحہ	Mariha	ع	پرمسرت، نہایت مسرور، بہت خوش
مرافتہ	Murafta	ف	دوستی، سہیل
مرافدہ	Murafida	ف	مدد کرنا، دوستی
مرافقہ	Murafiqa	ف	ساتھ دینے والی، دوستی کرنے والی، رفاقت کرنے والی

marfat.com
Marfat.com

مریم	Mariam	ع	پاکیزہ، کنواری، مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی شہزادی زیب النساء کی اتالیق کا نام حافظہ مریم آپ نے شہزادی کو آٹھ سال اور تقریباً ایک ماہ کی عمر میں قرآن پاک حفظ کروا دیا تھا۔
مراح	Mirah	ع	خوشی، سرور، مسرت، شادی بیاہ
مرحی	Merhi	ع	خوش ہونا، مسرور ہونا
مرضی	Merzy	ع	کوش ہونا
مرضیہ	Merzia	ع	پسند کی ہوئی، منتخب، چنی ہوئی، حضرت فاطمۃ الزہراءؑ کا لقب مبارک
مرجان	Merjan	ف	چھوٹا موتی، گوہر
مرجانی	Merjani	ع	چھوٹا موتی
مرام	Maram	ع	خواہش، مقصد، تمنا، آرزو، مراد، مطلب
مروارید	Merwarid	ف	موتی، گوہر
مرائلہ	Maraila	ف	فوری جانا، جلدی جانا
مروحہ	Maruha	ف	راحت کی چیز، آرام کی چیز، سکون کی چیز، سکھ اور چین کی چیز
مرتا	Mirta	یو	نصرت یافتہ، فتح مند، جیتی ہوئی
مراحت	Marahat	ع	شادی بیاہ، سرور، مسرت، خوشی
مرہاء	Merha	ع	بغیر سرے والی آنکھ
مرتاج	Mirtaj	ف	عیش و عشرت
مرتاح	Mertah	ف	عیش و عشرت کرنے والی
مروا	Merwa	ف	نیک فال
مرغلے	Merghale	پشتو	موتی، گوہر
مرافدا	Murafda	ف	دوستی، ساتھ، رفاقت، مدد کرنا، حمایت کرنا

marfat.com

Marfat.com

مرزہ	Murzeh	ع	ایک شکاری پرندہ
مرنا	Mirna	لا	نازک اندام' نرم مزاج
مرغوبہ	Marghooba	ع	پسندیدہ
مرعت	Merat	ع	حفاظت' نگرانی' نگہبانی' رعایت
مرشدہ	Murshada	ع	سیدھی راہ دکھانے والی' ہدایت پانے والی
مرتجہ	Murtaja	ف	امیدوار
مرصع	Murseh	ف	آراستہ' جڑاؤ
مرضی	Murassi	ع	مسرور' خوش
مرالجہ	Muralja	ع	فائدہ مند' نفع بخش
مرباء	Merbaa	ع	بے سرے کی آنکھ
مربح	Merbah	ع	فائدہ پہنچانے والی' سودمند' نفع بخش
مرصوصہ	Mersoosa	ع	مضبوط' مستحکم' پائیدار' پختہ
مرفیہ	Marfia	ع	پسند کی ہوئی چیز' حضرت فاطمہ کا لقب
مزیہ	Mizia	ع	شیشہ' آئینہ
مزیزہ	Mazeeza	ع	پڑھی ہوئی عالمہ
مزین	Mazayyen	ع	آراستہ و پیراستہ
مزنہ	Mizneh	ع	بادل کا ٹکڑا
مزیلہ	Mazila	ع	خوف دلانے والی' ڈرانے والی
مرغوب	Merghoob	ع	پسندیدہ
مزیب	Mazib	ع	زیب و زینت دی ہوئی' سجی ہوئی
مزلہ	Mazla	ع	راز ظاہر کرنے والی' بھید کھولنے والی
مزلہ	Muzla	ع	مٹی ہوئی' ختم شدہ' مٹ جانے والی
مرینا	Marina	[illegible]	[illegible]

marfat.com
Marfat.com

مرینہ	Merina		ایک قسم کا اونی کپڑا جو مینو بھیڑ کی اون سے بنایا جاتا ہے انگریزی لفظ Merina سے ماخوذ
مزکہ	Muzka	ع	پاک کیا گیا
مزقہ	Mizqa	ع	پاکی، اونی کپڑے کا ٹکڑا
مژدہ	Muzhda	ف	بشارت، خوشخبری، خوشی کی خبر
مژگان	Muzgan	ف	پلکیں
مژہ	Mizhda	ف	آنکھ کی پلک
مساہرہ	Masahira	ع	بیدار رہنے والی
مسعودہ	Masooda	ع	نیک، بختاور، مبارک
مستور	Mastoor	ع	پوشیدہ، مخفی، پردے میں چھپی ہوئی، ایک نام خدیجہ مستور
مسجہ	Masja	ع	تسبیح کرنے والی، عبادت گزار
مسقلہ	Masqla	ع	چشم، آنکھ
مسماہ	Mismah	ف	اسم مبارک، نام والی
مسرت	Mussarat	ف	فرحت، شادمانی، خوشی، سرور
مسلمہ	Musalmah	ع	مسلمان، اسلام قبول کرنے والی، ایمان لانے والی
مسرور	Masroor	ع	پرمسرت، خوشی، شاداں وفرحاں
مستمرہ	Mustamarah	ع	مضبوط، دائمی، سدا، قائم دائم
مستورہ	Mastura	ع	پوشیدہ، چھپی ہوئی
مسمط	Musmet	ع	موتیوں کی ایک لڑی
مشفق	Mushfiq	ع	شفقت کرنے والا، مہربان، شفیق
مشفق النساء	Mushafaq -un-Nisa	ع	عورتوں پر مہربان
مشیہ	Mashih	ع	چال، رفتار

marfat.com
Marfat.com

مشعرہ	Mashara	ع	اطلاع دینے والی
مشعل	Mashal	ع	روشنی، روشن آگ، شعلہ
مشیت	Masihat	ع	مقدر، مرضی، قسمت، بخت
مشرف	Musharf	ع	شرف یافتہ
مشرفہ	Musharafa	ع	بزرگی دینے والی، عزت وتکریم دینے والی
مشہودہ	Mashhooda	ع	شاہدہ، موجود، حاضر کی ہوئی
مشیرہ	Musheera	ع	مشورہ دینے والی
مشیرہ	Mushira	ع	صلاح کار، مشورہ دینے والی
مشتاقہ	Mushtaqa	ع	خواہش، آرزو
مشتری	Mushtari	ف	ایک ستارہ
مشیرہ	Mushira	ع	گوری، سفید، چٹی، صبیح
مشکنہ	Mushkana	پشتو	یاقوت کے دانے
مشکور النساء	Mashkoor-un-Nisa	ع	شکر گزار
مشاطہ	Mushata	ع	دلہن سنوارنے والی عورت
مشال	Mishal	ع	روشن، چمکدار
مشاہدہ النساء	Mushahida-un-Nisa	ع	معائنہ کرنے والی
مصباح	Misbah	ع	چراغ
مصدقہ	Musaddaqa	ع	اعتبار کرنے والی، یقین کرنے والی، مانی ہوئی، تصدیق کی ہوئی
مصلحت	Maslehat	ع	خوبی، صفت
مصنفہ	Musanifa	ع	تصنیف کرنے والی

marfat.com
Marfat.com

مصیرہ	Musira	ع	واپس آنے والی لوٹنے والی پلٹنے والی ٹھکانہ
مسینہ	Maseena	ع	مددگار حمایت
مصونہ	Masoona	ع	محفوظ حفاظت میں
مضفرہ	Muzafera	ع	حمایت کرنا مدد کرنا
مضیفہ	Muzifa	ع	مہمانی کرنے والی میزبان تواضع کرنے والی
مطیبہ	Mutayyeba	ع	اچھی خوشبو دینے والی اچھی مہک دینے والی
مطیع	Matee	ع	تابعدار
مطیع النساء	Matee-un-Nisa	ع	خدمتگار عورت
مطہرہ	Mutahera	ع	پاکیزہ منزہ پاک کی ہوئی
مطربہ	Mutraba	ع	خوش کرنے والی راضی کرنے والی
مطربہ	Mutarraba	ف	گلوکارہ گانے والی مغنیہ
مطفیہ	Mutfia	ع	آگ ٹھنڈی کرنے والی
مطلوبہ	Matlooba	ع	مانگی ہوئی
مطلوب	Matloob	ع	طلب کی ہوئی مانگی ہوئی محبوبہ
مطلوب النساء	Matloob-un-Nisa	ع	مانگی ہوئی عورت
مطلیب	Matleeb	ع	مہک خوشبو
مطیہ	Matia	ع	سواری مرکب
مطیرہ	Mutira	ع	بارش برسانے والی
مطوہ	Matoah	ع	چاقو
مطوہ	Matooh	ع	انگڑائی
مطرزہ	Materzah	ع	زیبائش دیا ہوا زیب و زینت دیا ہوا

marfat.com
Marfat.com

مطائبہ	Mutaiba	ع	سیر' تفریح' مہذب' سلیقہ مند' خوش طبعی
مطاء	Mutah	ع	حفاظت' مدد' حمایت
مطائرہ	Mutaira	ف	اڑانا
مطار	Mutaar	ع	مدد' حفاظت
مطارحہ	Mutarha	ع	مشورہ کرنا' بات چیت کرنا' خوشامد
مطراق	Mitraq	ع	مثل' مانند' نظیر' تھوڑی
مظفر النساء	Muzaffar-un-Nisa	ع	کامیاب عورت
مظہر النساء	Mazhar-un-Nisa	ع	جگہ' ظاہر ہونے والی
مظلہ	Muzlah	ع	چھتری
معاذہ	Muazah	ع	بصرہ عراق کی رہنے والی مشہور تابعیہ حضرت معاذہ عدویہ''۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی شاگرد تھیں۔ بہت عبادت گزار اور شب بیدار خاتون تھیں
معالغہ	Mualigha	ف	وعدہ کرنے والی
معافرہ	Muafira	ع	ساتھ چلنے والی
معجزہ	Muajza	ع	جو بات خلاف عادت ظاہر ہو
معزہ	Muizzah	ع	باوقعت' باوقار
معشوقہ	Mashooqa	ع	محبوبہ' پیاری
معینہ	Mueena	ع	حمایتی' مددگار' معاون
معظمہ	Muazzama	ع	نیک' قابل احترام' بزرگ' شریف
معصومہ	Masooma	ع	بے گناہ' بے قصور' پاک دامن' گناہوں سے پاک' حضرت بی بی معصومہ مزار مبارک ایران کے شہر قم میں واقع ہے

marfat.com
Marfat.com

معلہ	Mualla	ع	بلند و بالا' ارفع' اعلیٰ' فراز
معرفت	Maarfat	ع	خدا شناسی
معروفہ	Maroofa	ع	شہرت رکھنے والی' مشہور و معروف
معیزہ	Mueeza	ع	مددگار' معاون
معینده	Mueenda	ع	جس سے فائدہ پہنچے' نفع دینے والی
معراج	Meraj	ع	انتہا' انتہائی بلندی
معرج	Muarj	ع	ایک طرح کا پھول دار کپڑا
مغیرہ	Mughira	ع	جلدی کرنے والی' حضرت مغیرہ بنت حسان۔ آپ کا شمار تابعیات میں ہوتا ہے۔
مغیثہ	Mughees	ع	فریادرس
مغتنمہ	Mughtinma	ع	غنیمت سمجھی گئی
مغلانی	Mughlani	ا	خادمہ' مغل کی عورت' بارہویں صدی ہجری کی ایک مشہور خاتون کا نام مغلانی بیگم جو لاہور کے ایک امیر نواب جانی بیگ کی صاحبزادی تھی۔
مغنیہ	Magheena	ع	گانے والی
مفتوحہ	Maftooha	ع	فتح کی ہوئی
مفضالہ	Mufzala	ع	بہت احسان کرنے والی
مفیثہ	Mufisa	ع	فریادرس
مفیضہ	Mufaiza	ع	جس سے فیض پہنچے' جس سے نفع پہنچے
مفیدہ	Mufeeda	ع	منافع بخش
مفید	Mufid	ع	جس سے نفع حاصل ہو
مفاخرہ	Mufakhra	ع	فخر کرنے والی' ناز کرنے والی
مفازہ	Mufaza	ع	جنگل' بیابان' رہائی پانے کی جگہ

marfat.com

Marfat.com

مقبولہ	Maqboola	ع	پسندیدہ، محبوبہ
مقبول	Maqbool	ع	پسندیدہ، محبوب، تحریک پاکستان کے نامور رہنما حسین شہید سہروردی کی نانی کا نام مقبول النساء جو نہایت عالمہ، فاضلہ، دانشمند، خوددار اور باہمت خاتون تھیں۔
مقلہ	Muqla	ع	آنکھ، عین، چشم
مقدمہ	Muqadima	ع	آگے آگے رہنے والی، پیش پیش رہنے والی
مقدسہ	Muqaddisa	ع	پاکیزہ، پاک، منزہ
مقدرہ	Muqadira	ع	مقرر کی ہوئی
مقصود	Maqsood	ع	مطلب، غرض
مقصودہ	Maqsooda	ع	ارادہ کیا ہوا، قصد کیا ہوا
مقیتہ	Maqeeta	ع	روزی رساں
مکاشفہ	Makashifa	ع	کھولنے والی
مکیشہ	Makisha	ع	صابرہ، سنجیدہ، متین، صبر کرنے والی
مکین	Makeen	ع	رہنے والی، صاحب مکان
مکرمہ	Mukarama	ع	برگزیدہ، تکریم والی، بزرگ، پاکیزہ
مکسورہ	Maksura	ع	ٹوٹی ہوئی
مکیلہ	Makila	ع	پیمانہ، ناپ
ملشہ	Malsa	ع	شام کا اندھیرا

marfat.com
Marfat.com

ملکہ	Malika	ع۔ف	قابلیت' لیاقت' مہارت' بادشاہ کی بیگم' ایک مشہور محدثہ کا نام ملکہ بی بی جو ایک عرصہ تک لوگوں کو درس حدیث دیتی رہیں۔ بے شمار لوگوں نے آپ سے کسب فیض حاصل کیا جن میں علامہ ابن حجر عسقلانیؒ بھی شامل ہیں۔ آٹھویں صدی ہجری میں گزری ہیں اور شرف الدین بن عبداللہ مقدسیؒ کی بیٹی تھیں
ملاحہ	Malaha	ف	مہربانی' کرم' شکل کی خوبصورتی' چہرے کا حسن
ملاح	Mallah	ع	نمکین اور خوبصورت
ملاحت	Malahat	ف	چہرے کی نمکینی' خوبصورتی
ملیحہ	Maliha	ف	حسین وجمیل' خوبصورت' کالی' سانولی
ملیقہ	Maliqa	ع	تیز رفتار' تیز چلنے والی
ملوحہ	Malooha	ف	ملاحت' خوبصورتی' حسن
ملاحبت	Malahbet	ف	حسن' خوبصورتی' سانولا پن
ملاطفہ	Malatfa	ع	نیکی کرنا' مہربانی کرنا' بھلائی کرنا
ملیکہ	Malaika	ع	مالک' پہلی صدی ہجری میں گزرنے والی نہایت عبادت گزار خاتون کا نام ملیکہ بنت منکدرؓ آپ کا شمار تابعیات میں ہوتا ہے
ممتاز	Mumtaz	ع	بلند وبالا' شریف' نامور' اعلیٰ' ارفع' امتیازی حیثیت
ممتاز بیگم	Mumtaz Baigam	ع	نامور' شریف
ممطور	Mamtoor	ع	مینہ پڑی ہوئی جگہ' بہت مسواک کرنے والا آدمی
ممیزہ	Mumiza	ع	پہچاننے کی قوت
ممیزہ	Mumaiza	ع	ممتاز' جدا اور الگ کیا ہوا

marfat.com
Marfat.com

مولا	Mamula	ہ	بھوپال کے ایک حکمران نواب یار محمد خان کی اہلیہ کا نام مولا بیگم جو بڑی دانشمند اور باتدبیر خاتون تھی۔ ریاست بھوپال میں اس کی قدر کی جاتی تھی۔ بھوپال میں دو عظیم الشان مساجد مولا بیگم نے تعمیر کروائی تھیں جو آج بھی موجود ہیں۔
مندل	Mandal	ع	خوشبو دینے والی لکڑی
منظوراں	Manzooran	ع	پسندیدہ
منظور النساء	Manzoor-un-Nisa	ع	عورت کی پسند
منظور العین	Manzoor-ul-Ain	ع	آنکھوں کی پسند
منے	Munnay	ت	کمسن، چھوٹی
منیر النساء	Maneer-un-Nisa	ع	چمکیلا، روشن
منیرہ	Munira	ع	روشن، چمکدار، درخشاں، منور
منشدہ	Munshada	ع	شعر پڑھنے والی
منوہ	Manwa	ع	طلب کی ہوئی، مانگی ہوئی، آرزو، تمنا، خواہش
منیزہ	Muniza	ع	عیوب سے مبرا، نقائص سے پاک، ایک نام منیزہ ہاشمی
منور	Munawwer	ع	روشن، چمکدار، منور
منورہ	Munawwara	ع	روشن، چمکدار
منزہ	Manza	ع	منزل
منزہ	Munazza	ع	نقائص سے پاک، عیوب سے مبرا
منصورہ	Mansoora	ع	فتح و نصرت دی ہوئی، مدد کی ہوئی، عیوب سے مبرا
منشاء	Manshah	ع	ارادہ، مراد

marfat.com
Marfat.com

منشاء	Mansha	ع	بلند پرچم، اونچا جھنڈا
منشا	Mansha	ع	پیدا ہونے کی جگہ
منشار	Munshar	ع	بلند جھنڈا، بلند نشان راہ
منشار	Manshar	ع	پیدا کرنے کی جگہ
منحل	Munhel	ع	کشادہ ہونے والی، فراخ ہونے والی، کھلی ہونے والی
منحہ	Minha	ع	دینا، عطا کرنا
مناء	Mena	ع	آرزو، خواہش
منا	Mina	یو	موتی، گوہر
منفعت	Manfiat	ع	نفع، فائدہ
منیقہ	Maniqa	ع	عظیم، برگزیدہ، بلند، برتر، پاکیزہ، پاک صاف، بزرگ
منصفہ	Munsifa	ع	عادل، انصاف کرنے والی
منقبت	Munqabat	ع	بڑائی، بزرگی، انتہا، سیڑھی، آخری حد
منیبہ	Muniba	ع	حق کی طرف پلٹنے والی، حق کی طرف پھرنے والی
منحد	Munhed	ع	دینا، عطا کرنا، عنایت کرنا
منحر	Manhar	ع	عطا کرنے والی، دینے والی
منیفہ	Munifa	ع	برتر، بزرگ، پاک، صاف، مطہر
منہشی	Munehshi	ع	انتہا کو پہنچی ہوئی
منبہ	Manba	ع	عیاں، صاحب
منہل	Munhel	ع	منبع، چشمہ
منتہی	Muntahi	ع	بلندی کی آخری حد
منکشے	Munkeshay	ت	ایک پھول
منال	Minal	ع	کسی چیز کے حاصل ہونے کی جگہ، مال و دولت، جاگیر
منار	Minar	ع	چراغ، نور کا مقام، نور کی جگہ

marfat.com
Marfat.com

من میل	Man Mail	ع	دلوں کو جوڑنے والی' حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کی رضاعی والدہ کا نام من میل جو بڑی نیک سیرت اور پابند شریعت خاتون تھیں۔ آپ کا مزار مبارک دہلی میں حضرت خواجہ بختیار کاکیؒ کے مزار کے سامنے واقع ہے
موتفہ	Motfa	ع	جمع کرنے والی
موخر	Muakhir	ع	چیزوں کو پیچھے چھوڑنے والا' ہر چیز کو اس کی جگہ رکھنے والا
موئیدہ	Muida	ع	تائید یافتہ
مولفہ	Mualfa	ع	اکٹھا کرنے والی' جمع کرنے والی
مومنہ	Momina	ع	اسلام قبول کرنے والی' ایمان لانے والی' مسلمان
مولہ	Mola	ع	الفت سے بے قرار' پیار سے بے چین
مؤذنہ	Muazana	ع	اذان دینے والی' اندلس کے حکمران خلیفہ عبدالرحمن ثالث کے عہد کی ایک ادیبہ اور شاعرہ کا نام مؤذنہ جو نہایت خوش الحان اور شعلہ بیان شاعرہ تھی۔ خلیفہ وقت کی معتمد خاص بھی تھی
مونیک	Monik	لا	رائے دینے والی' مشورہ دینے والی
مونیکا	Monika	لا	مشورہ دینے والی' رائے دینے والا
موصوفہ	Mosufa	ع	تعریف کی ہوئی
موصیہ	Mosia	ع	وصیت کرنے والی
موقنہ	Muqana	ع	یقین کرنے والی' اعتبار کرنے والی
مومل	Momil	ع	امیدوار
مون	Moon	ا	چاند' قمر' ماہتاب

marfat.com
Marfat.com

مونسہ	Moonsa	ع	ساتھی' دوست' انس دینے والی' آرام دینے والی' سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی مصر کے حکمران ملک العادل کی بیٹی کا نام مونسہ جو نہایت عالمہ اور فاضلہ تھی۔ نہایت قابل ہونے کے باعث اسے جلیلہ سلطانیہ کے لقب سے نوازا گیا۔
مونا	Moona	لا	پُرسکون' نیک' شریف' بھلی' تنہا
مہر	Mehr	ف	محبت' پیار' الفت' سورج' آفتاب "مدینۃ الاولیاء" کے مصنف اور مشہور مورخ محمد دین کلیم قادری کی والدہ محترمہ کا نام مہر النساء بیگم۔
مہرالنساء	Meh-ur-Nisa	ف	پیار کرنے والی عورت
مہماء	Mehma	ع	عظیم' بڑی' برگزیدہ' بزرگ
مہرافزوں	MehrAfzoon	ف	بڑھتی ہوئی اُلفت' بڑھتا ہوا پیار
مہرافروز	MehrAfroze	ف	روشن محبت' روشن پیار' روشن الفت
مہ جبین	MehJabeen	ف	چمکدار پیشانی والی' چاند کی مانند
مہدیہ	Mehdia	ع	ہدایت کی ہوئی' ہدایت یافتہ
مہرین	Mehrin	ف	پیار والی' محبت والی' الفت والی' آفتاب و ماہتاب' سورج' چاند' ایک نام مہرین الٰہی
مہرنگار	MehrNighar	ف	پیار کا نقش' الفت کا نشان' محبت کا نشان' چاند کی شکل
مہرانگیز	Mehr Angaiz	ف	پیار سے بھرپور' الفت سے معمور' محبت سے لبریز' مغل بادشاہ ظہیرالدین محمد بابر کے ایک قریبی عزیز مظفر مرزا کی صاحبزادی کا نام مہرانگیز بیگم جو تیر اندازی اور چوگان بازی میں بڑی ماہر تھی
مہروز	Mehroze	ف	چاند جیسی شکل' چاند جیسا چہرہ' چاند جیسی صورت
مہوش	Mehwish	ف	چاند جیسی حسین و جمیل' چاند جیسی خوبصورت

marfat.com

Marfat.com

مہ	Meh	ف	قمر' چاند'ماہتاب' مہینہ
مہ لقا	Meh Laqa	ف	بے حد خوبصورت' انتہائی حسین' چاند جیسی شکل والی
مہرو	Mehroo	ف	ماہتاب سا چہرہ' چاند سا چہرہ
مہرہ	Mehra	ف	ماہر' کامل' مہارت رکھنے والی
مہیرہ	Mehira	ع	بہت مہربانی کرنے والی' نہایت کرم کرنے والی
مہین	Maheen	ع	نرم و نازک' پتلی
مہین	Muhine	ف	عظیم' برگزیدہ
مہربانو	MehrBano	ف	الفت والی' پیار والی' محبت والی
مہتابہ	Mahtaba	ف	چاند جیسی
مہتاب	Mehtab	ف	چاندنی' چاند
مہشید	Mehshid	ف	ماہتاب' چاند
مہرماہ	MehrMah	ف	چاند' مہتاب' عثمانیہ سلطنت کے دسویں حکمران سلطان سلیمان اول کی اکلوتی صاحبزادی کا نام مہر ماہ سلطان جو نہایت دیندار اور نیک سیرت لڑکی تھی اس نے اپنی زندگی میں استنبول اور سقوطری شہر میں عظیم الشان مساجد تعمیر کروائیں جو اسی کے نام پر مشہور ہیں۔ مہر ماہ سلطان کا مقبرہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے۔
مبلہ	Mubla	ع	نرمی' آہستگی' راکھ میں دبی ہوئی چنگاری
مہلہ	Muhla	ف	کسی سے راز کہنا' کسی کو بھید بتانا
مہماء	Miha	ع	بلور کی طرح
مہاء	Maha	ع	برگزیدہ' بڑی' عظیم
مہاء	Maha	ع	بلور' مانند بلور

marfat.com
Marfat.com

مہازقہ	Muhazqa	ع	آہستہ ہنسنا
مہک	Mehak	ہ	خوشبو
مہری	Mehri	ف	چاند جیسی، مشہور ترک شاعرہ کا نام مہری خاتون جو نویں صدی ہجری میں گزری ہے۔ بڑی خداترس اور دیندار تھی ایشیائے کوچک کے شہر اماسیہ میں اس کا مقبرہ آج بھی مرجع خلائق ہے
میرام	Miram	ت	تمنا آرزو، خواہش، مطلب، غرض، مقصد
میراں	Meeran	ت	ہرنی، غزالہ
مینا	Mina	ف	زریں نقش ونگار کا نام
میمنت	Mimnet	ع	برکت، فضل، فتح، کامیابی، جیت
میادہ	Miadah	ع	بے قرار، بے چین، ناز وانداز سے چلنے والی
میذنہ	Maizna	ع	اذان دینے کی جگہ
میرال	Miral	ت	ہرنی
میصرہ	Maisera	ع	پرکھنے والی
مینے	Minay	ت	کمسن، چھوٹی
میمہ	Mima	عبر	خوش بخت، خوش نصیب، فاختہ
میرہ	Merah	ع	سرداری، رسد
میرا	Mira	لا	شہزادی، بے حد خوبصورت، نہایت حسین وجمیل
میلہ	Mela	ع	وقت، زمانہ

marfat.com

Marfat.com

میمونہ	Maimuna	ع	مبارک، حضور نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ کا اسم مبارک سیدہ میمونہؓ۔ آپ سے چھہتر احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ ان میں سے سات متفق علیہ ہیں، ایک بخاری و مسلم میں ہے۔ باقی دیگر کتب میں ہیں۔ سیدہ میمونہؓ کی نماز جنازہ آپ کے بھانجے حضرت ابن عباسؓ نے پڑھائی تھی۔
میتا	Mita	یو	موتی، گوہر
مینو	Minu	ف	بہشت، جنت، زمرد
میرانده	Mirandah	لا	تعریف کے قابل، پسندیدہ
میراث	Miras	ع	ترکہ، ورثہ

marfat.com
Marfat.com

ن

نابتہ	Nabta	ع	اگانے والی
نابلہ	Nabla	ع	تیز بنانے والی' تیرانداز
ناسکہ	Naska	ف	عابدہ' زاہدہ' عبادت گزار
ناحیہ	Nahia	ع	فخر میں مقابلہ کرنے والی
ناخدا	Nakhuda	ف	نادخدا کا مخفف' کشتی دلانے والا ملاح' رہنما
ناخلہ	Nakhla	ع	نصیحت کرنے والی
ناشرہ	Nashara	ع	بکھرنے والی
ناشکہ	Nashka	ع	دیندار عورت' نیک خاتون' بھلی اور شریف عورت
ناہی	Nahi	ف	منع کرنے والا
ناہید	Naheed	ف	زہرہ ستارہ
ناجحہ	Najeha	ع	چھٹکارا پانے والی
ناجیہ	Najia	ع	نجات پانے والی' چھٹکارا پانے والی
ناجیہ النساء	Najia-un-Nisa	ع	نجات والی عورتیں
ناسمہ	Nasma	ع	قربت' نزدیکی
نابغہ	Nabgha	ع	نہایت سمجھدار' ذہین' فطین
نازاں	Nazan	ف	ناز کرنے والی
نازلہ	Nazla	ف	فخر کرنے والی' ناز کرنے والی
نازہ	Naza	ع	فخر میں مقابلہ کرنا
نازی	Nazi	ف	فخر والی' ناز والی

marfat.com

Marfat.com

نازین	Nazin	ع	دل آویز' نازک
نازیری	Nazeeri	ف	شہزادی
ناصحہ	Nasiha	ع	نصیحت کرنے والی
ناصفہ	Nasifa	ع	خادمہ
نازپری	Nazpari	ف	شاہ خوارزم کی بیٹی کا نام جو بہرام گور کی ملکہ تھی
ناظمہ	Nazma	ع	پردے والی
ناظمہ	Nazima	ع	بندوبست کرنے والی' انتظام کرنے والی
نائفہ	Naifa	ع	زائد' بہت' وافر' زیادہ' کثیر
ناشدہ	Nashida	ع	تشہیر کرنے والی' مشہوری کرنے والی
نازک ادا	Nazuk Ada	ف	نازک اندام
نازیہ	Nazia	ع	فخر کرنے والی' ناز کرنے والی
نازلی	Nazli	ف	نزاکت' لطافت' نرمی' ملائمت
نادرہ	Nadira	ع	انوکھی' نرالی' بیش قیمت' کمیاب' مغل بادشاہ جہانگیر کی پوتی اور شہزادہ داراشکوہ کی اہلیہ کا نام شہزادی نادرہ بیگم' قبر مبارک لاہور میں حضرت میاں میر صاحبؒ کے احاطہ میں واقع ہے۔
ناعشہ	Naisha	ع	زندگی عطا کرنے والی' زندگی بخشنے والی
ناسقہ	Nasqa	ف	تنظیم کرنے والی' نظم ونسق کرنے والی
ناہد	Nahid	اُف	ابھرے ہوئے پستان والی عورت' شیر کی جھاڑی
ناہدہ	Nahida	ف	نوخیز' نوجوان' لڑکی' نامور' مشہور' شہرت یافتہ
ناطفہ	Natifa	ع	بولنے کی صلاحیت
ناطقہ	Natiqa	ع	قوت گویائی
نائدہ	Naida	ع	آواز دینے والی' صدا دینے والی' پکارنے والی

marfat.com

Marfat.com

نانون	Nanoon	عبر	پروقار' پرکشش' حسین وجمیل' خوبصورت
ناجیہ	Nahija	ع	نجات پانے والی' چھٹکارا پانے والی
نازش	Nazish	ع	ناز' فخر
ناشیرہ	Nashera	ع	مشہور کرنے والی
ناشیہ	Nashia	ع	نوجوان عورت' جواں سال عورت' نوخیز
ناظرہ	Nazra	ع	نظر کرنے والی' دیکھنے والی
ناعمہ	Naama	ع	آسودہ حال' خوشحال زندگی گزارنے والی
ناجلہ	Najla	ع	شریف النفس عورت
نانہ	Nana	عبر	حسین وجمیل' خوبصورت' پرکشش' پروقار
ناقدہ	Naqada	ف	پرکھنے والی' جانچنے والی
نائمہ	Naima	ع	سونے والی
ناہیہ	Nahia	ف	منع کرنے والی' باز کرنے والی' روکنے والی
نادینہ	Nadina	ع	امید' آس' توقع
ناز پرور	Nazperwer	ف	ناز سے پلی ہوئی' ناز ونعم سے پرورش ہونے والی
نازنین	Naznin	ف	نازک اندام' دل آویز
ناعجہ	Naaja	ع	گوری چٹی عورت' سفید رنگ کی عورت
نایاب	Nayab	ع	نادر' ناپید
نازبو	Nazbu	ف	ایک پودا' خوشبودار پودا
ناظورہ	Nazura	ف	محبوبہ' معشوقہ' پیاری
نائرہ	Naira	ف	روشنی' آگ' شعلہ
ناصیف	Nasif	ع	ملازم' خدمت گار' غلام
ناصیہ	Nasia	ع	ماتھا' جبین' پیشانی' پیشانی کے بال
ناثرہ	Nasira	ع	چھڑکنے والی' بکھیرنے والی

marfat.com

Marfat.com

ناشئہ	Nasha	ف	نوجوان لڑکی
نازندہ	Nazanda	ف	فخر کرنے والی' ناز دکھانے والی
نامین	Namin	ف	نشوونما پانے والی' شہرت پانے والی' نامور
نافرہ	Nafrah	ع	آدمی کے رشتہ دار عزیز واقارب' بھاگنے والی
نافعہ	Nafay	ع	نفع حاصل کرنے والی
نافیلہ	Nafeela	ع	تیراندازی میں مقابلہ کرنے والی
نازید	Nazid	ف	ناز کیا ہوا
نازیدہ	Nazida	ف	فخر کی ہوئی' ناز کی ہوئی
نائلہ	Naila	ع	پہنچانے والی' پانے والی' حضرت عثمان غنیؓ کی اہلیہ کا نام
ناحیہ	Nahia	ع	ارادہ کرنے والی' نیت کرنے والی' قصد کرنے والی
ناسیہ	Nasia	ف	بھولنے والی
نابہ	Nabah	ف	بادۂ ناب' مے خالص
نابہ	Naba	ع	مشہور' نامور' نیک' شریف
ناصرہ	Nasra	ع	مددگار' معاون' مدد دینے والی
ناجدہ	Nijida	ع	معاون' مددگار' مدد دینے والی
ناز	Naz	ف	پیار' فخر
ناوک	Nawek	ف	چھوٹا تیر
نامیہ	Namia	ف	بڑھنے کی قوت
نافجہ	Nafja	ع	مشک' نافہ' خوشبودار چیز' مہک
نافلہ	Nafla	ع	نفل پڑھنے والی' عبادت گزار
ناطعہ	Natia	ع	خالص رنگ
ناضر	Nazir	ع	تروتازہ (چہرہ) رونق والا (چہرہ)
ناضلہ	Nazla	ع	تیراندازی میں مقابلہ کرنے والی

marfat.com
Marfat.com

ناصبہ	Nasba	ع	نصب کرنے والی' قائم کرنے والی
نادیہ	Nadia	ع	آواز دینے والی' پکارنے والی' صدا دینے والی
ناشبہ	Nashba	ع	تیروں والی
ناسخہ	Nasikha	ف	نیت کرنے والی' ارادہ کرنے والی' لکھنے والی
نابیہ	Nabia	ع	کسی ہوئی کمان
ناژو	Nazho	ف	چنار' سرو' صنوبر کا درخت
نبیا	Nabia		(نبی سے) اللہ تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بندہ جو اس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائے
نبیلہ	Nabeela	ع	قرابت' وسیلہ
نبیلہ	Nabila	ع	خوبصورت' حسین وجمیل' سمجھدار' دانشمند' عقلمند
نبیہ	Nabia	ع	خبردار کرنے والی' آگاہی دینے والی' اطلاع دینے والی
نبید	Nabid	ع	خوشخبری' نوید' بشارت
نباہہ	Nibaha	ع	دانش' عقل' شعور' سمجھ' شہرت' ناموری' شرافت
نباہمہ	Nabahma	ع	شرافت
نبیرہ	Nabira	ع	دانشمند عورت' عقلمند عورت' دانا عورت
نبیدہ	Nabida	ع	خوشخبری' بشارت' نوید
نبرہ	Nabira	ف	بلند کیا ہوا
نبالہ	Nibala	ع	نجابت' شرافت' ذکاوت
نبالہ	Nabala	ع	سمجھ' شعور' شہرت' ناموری' شرافت
نبالہ	Nebala	ع	عطیہ' ثواب وجزا
نبیرہ	Nabira	ع	نواسی' پوتی' پوتا' پوتی
نبقہ	Nabqa	ع	لکھنا' تحریر کرنا' مشہور پھل بیر
نبسہ	Nabsa	ف	نواسی' نواسا

marfat.com
Marfat.com

نثرہ	Nasra	ع	برج اسد کے دو ستارے
نشطہ	Nasta	ع	خاموش کرنا' ٹھنڈا کرنا
نثیلہ	Naseela	ع	واسطہ' ذریعہ' قرابت
نیتا	Neeta	لا	خدا کا تحفہ
نتیلہ	Natila	ع	قرابت' رشتہ' وسیلہ' واسطہ
نتاشہ	Natasha	ر	اللہ تعالیٰ کا تحفہ
نجیبہ	Najiba	ع	شریف' نیک' بھلی مانس
نجیف	Najeef	ع	چوڑی' پیکان کا تیر' پرانی مشک
نجیب النساء	Najib-ul-Nisa	ع	شریف عورت' بھلی مانس عورت
نجدہ	Najda	ع	امداد کرنا' حمایت کرنا' مدد کرنا' معاونت کرنا
نجیرہ	Najeera	ع	دلیر' بہادر
نجیدہ	Najida	ع	بہادر' جرأت مند' شجاع' دلیر
نجاح	Najah	ع	فتح مند' نصرت' جیت' ضرورت پوری ہونا' حاجت روائی
نجاہ	Naja	ع	نظر لگانا
نجیہ	Najia	ع	ہمراز عورت
نجم	Najam	ع	ستارہ
نجم النساء	Najam-un-Nisa	ع	ستارے والی عورت
نجم الخیر	Najam-ul-Khair	ع	خیر کا تارہ' بھلائی کا ستارہ
نجم السحر	Najam-ul- Sahar	ع	صبح کا ستارہ' سحر کا ستارہ

marfat.com
Marfat.com

نجاحہ	Najaha	ع	صبر' قناعت' برداشت
نجمہ	Najma	ع	ستارہ
نجدت	Najdat	ع	بہادری' جرأت مندی' شجاعت' دلیری
نجفہ	Nujfa	ع	تھوڑی چیز
نجابت	Najabat	ع	شرافت' اصالت
نجوہ	Najwah	ع	راز' بھید' اونچی زمین' بلند زمین
نجلہ	Najla	ع	اولاد' نسل
نجاوہ	Najava	ع	زمین کی فراخی' زمین کی وسعت
نحلہ	Nehla	ع	عطا' عنایت' بخشش
نحام	Nuham	ع	سرخاب' چکور
نحامہ	Nahama	ع	چکوری' مادہ سرخاب
نخام	Nakham	ع	سرخاب
نخامہ	Nakhama	ع	چکوری' سرخاب کی مادہ
نخشارہ	Nakhshara	ع	گال' رخسار' عذرا
نخبہ	Nakhia	ع	منتخب' چنی ہوئی چیز
ندری	Nadri	ع	نادر' نایاب' کمیاب' بیش قیمت
ندیمہ	Nadima	ع	ساتھ بیٹھنے والی' ہم مجلس' ہم نشین
ندین	Nadin	ع	امید' آس' توقع
ندبہ	Nadba	ع	پھرتیلی ہونا' ہوشیار ہونا' چست ہونا
ندرت	Nudrat	ف	نرالا پن' انوکھا پن
ندرت النساء	Nudrat-un-Nisa	ع	انوکھی عورت
ندما	Nudma	ع	ہم نشین' ہم مجلس' ساتھی' دوست' رفیقہ' سہیلی

marfat.com
Marfat.com

نام	Name	زبان	معنی
نداحل	Nidahel	ف	پکارنے والی صدا دینے والی آواز دینے والی
ندیا	Nidia	لا	جائے پناہ پناہ کی جگہ
نداء	Nida	ف	پکار آواز
ندوہ	Nadwah	ع	مجلس
ندارت	Nazarat	ع	ترس خوف رحم
نذاء	Nizah	ع	بہت سے چشموں والی جگہ
نرمین	Nermin	ف	صاف وشفاف لطیف نرم و نازک
نرین	Narin	ت	لطیف نازک نرم
نروہ	Nirwah	ت	پرمسرت مسرور خوش وخرم
نرجس	Nargis	ف	نرگس کا پھول
نریتا	Narita	یو	سمندری شہزادی
نرملا	Nirmila	ہ	نکھری ہوئی صاف ستھری
نریسا	Narisa	یو	سمندری سمندر کی رہنے والی
نرمل	Nirmal	ہ	پاک پاکیزہ صاف وشفاف خالص
نرزہ	Nirza	ا	چھوٹی ترازو
نرما	Nirma	ا	نرم کپڑا روئی کا پودا
نزحہ	Nazha	ف	آسودگی خوشحالی
نزدہ	Nazda	ت	خوش وخرم
نزہون	Nazhoon	ع	پانچویں صدی ہجری کی ایک نامور شاعرہ جو بہت سے علوم میں مہارت رکھتی تھی۔ عالم اسلام میں اس کے علمی کمالات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ نزہون بی بی غرناطہ کی رہنے والی تھی۔ اس کے والد کا نام ابوبکر غسانی تھا۔ نزہون بی بی نے تمام علوم ایک نابینا عالم ابوبکر مخزومی سے حاصل کئے تھے

marfat.com
Marfat.com

نزیل	Nazeel	ع	مہمان' مسافر
نزار	Nazar	ا' ع	دبلا' پتلا' ایک فاطمی خلیفہ کا نام
نزاکت	Nazakat	ف	نرمی' لطافت' نازکی
نزھ	Nizha	ف	خوشحالی' آسودگی' طہارت' پاکیزگی' پاکی
نرگس	Nargis	ف	نرجس' آنکھ کی مانند ایک پھول
نزہت	Nuzhat	ف	آسودگی' خوشحالی' بھلائی' پاکیزگی
نزہت آراء	NuzhatAra	ف	پاکیزگی کی آرائش کرنے والی
نزاہت	Nazahat	ع	پاکیزگی' صفائی' پاک' طہارت
ندبہ	Nazba	ع	جبت
نذیر بیگم	Nazir Begum	ع۔ت	ڈرانے والی خاتون
نذیر النساء	Nazir-ul-Nisa	ع	ڈرانے والی عورت
نژادہ	Nazada	ف	اصیل' نجیب' شریف
نسرین	Nasrin	ع	گل سیوتی' نسترن' دوتارے
نسترن	Nistran	ف	گل سیو' سفید پھول' سفید گلاب
نسیمہ	Nasima	ف	نرم ٹھنڈی ہوا
نسوہ	Niswah	ع	عورتیں' خواتین
نسیہ	Nasia	ف	مہلت
نسیم	Nasim	ف	خوشبودار' ہلکی خوشگوار ہوا
نسیہ	Nasia	ع	قرض' ادھار
نسیجہ	Nasija	ع	ریشمی کپڑا' بنا ہوا کپڑا

marfat.com
Marfat.com

نسمات	Nismat	ع	خوشبوئیں
نشاط	Nishat	ف	لطف' شادمانی' سرور' مولانا حسن موہانی کی نیک سیرت اہلیہ کا نام سیدہ نشاط النساء بیگم۔
نشاء	Nishah	ف	دنیا' عالم' جہان
نشرہ	Nashra	ع	سحر' جادو
نشیدہ	Nashida	ع	راحت' سرور' گیت' نغمہ
نشیر	Nasheer	ع	بو' مہک
نشوہ	Nishwah	ع	پہلی خبر
نشیطہ	Nashita	ع	پُرمسرت' مسرور' خوش وخرم
نشیہ	Nashia	ع	مہک
نشرہ	Nashra	ع	خوشبو' مہک' قرآن مجید ختم ہونے کی خوشی
نشا	Nisha	ع	اطمینان' تسلی' سکون
نشدہ	Nishda	ع	صدا' آواز' پکار
نشاطیہ	Nashatia	ف	جس سے لطف اور خوشی حاصل ہو
نشابہ	Nishaba	ع	تیر چلانے والی
نشق	Nashq	ع	خوشبو' مہک
نشیلی	Nashili	ا	متوالی
نصفت	Nisfat	ا' ع	دوسرے کو عاجز اور خاموش کر دینے والا
نصیبہ	Nasiba	ع	مقدر' حصہ' قسمت
نصد	Nasad	ع	لگانا
نصرت	Nusrat	ف	حمایت' فتح' مدد
نصیرہ	Nasira	ف	معاون' مددگار' مدد کرنے والی
نصیری	Nasiry	ع	حضرت علیؓ کو خدا ماننے والا فرقہ' شیدائی' جانثار

marfat.com

Marfat.com

نصرہ	Nasra	ع	مددگار، معاون
نصبہ	Nasba	ع	نصب کرنا، لگانا، جڑنا
نصیح	Naseeh	ع	نصیحت کرنے والا
نصیحت	Naseehat	ع	[illegible]
نصیح النساء	Nasee-ul-Nisa	ع	نصیحت کرنے والی
نصمہ	Nisma	ع	احترام والی تصویر
نضرہ	Nazra	ع	حسن، خوبصورتی، انعام، نعمت
نضار	Nuzar	ع	سونا، چاندی، خالص، بغیر گل، درخت کی لکڑی (جو برتن بنانے کے کام آتی ہے) حضور کا منبر پاک بھی اسی لکڑی کا ہے
نضارت	Nazarat	ع	تازگی، آب داری، چمک دمک
نضیر	Nuzair	ع	پاک، خالص
نضرت	Nuzrat	ع	رعنائی، تازگی، حسن، آبداری
نضفہ	Nazfa	ع	خدمت کرنا
نضرہ	Nizra	ع	سونا، زر خالص شے
نطالیہ	Natalia	عبر	اللہ تعالیٰ کا تحفہ
نظیفہ	Nazifa	ع	پاکیزہ، مطہر، حلال، پاک وصاف، طاہرہ
نظر	Nazar	ع	آنکھ کی روشنی
نظر النساء	Nazar-un-Nisa	ع	عورت کی مانند
نظرہ	Nazra	ع	نگاہ، نظر
نظیرہ	Nazira	ع	مشابہ، مثل، ثانی، مانند

marfat.com

Marfat.com

نظیر	Nazir	ع	مثل، مانند
نظارہ	Nazara	ع	سونا، زرِ خالص
نظامی	Nizami	ف	سلسلہ نظامیہ کا مرید جو کہ نظام الدین اولیاء سے منسوب ہے
نعیم النساء	Naeem-ul-Nisa	ع	جنتی عورت، بہشت کی عورت
نعامہ	Naama	ع	مسرت، خوشی، اعلیٰ، عمدہ، نفیس
نعیمہ	Naeema	ع	بہشت، جنت، انعام، نعمت
نعمت	Nemat	ع	دولت، ثروت، انعام، روزی، مال
نعمت عظمیٰ	Nemat-e-Uzma	ف	بہت بڑی نعمت
نعومہ	Naooma	ع	نرمی، ملائمت
نعمہ	Naama	ع	آسودگی، خوشحالی، بہتری، اچھائی، نعمت، انعام
نعمہ	Nema	ع	نفاست، عمدگی، تازگی
نعماء	Namaa	ع	عنایت، عطا، نعمتیں، مال، دولت
نعمانہ	Nomana		نعمت والی
نعومت	Naoomat	ع	تازگی، نرم و نازک ہونا
نغمات	Naghmaat	ف	دلکش اور عمدہ آوازیں
نغمہ	Naghma	ف	اچھی آواز، راگ، گانا، گیت
نغولہ	Naghoola	ف	بالوں کی لٹ، زلف، گیسو
نفحتہ	Nafhata	ع	ہوا کی روانی، خوشبو کی مہک، بخشش، عطیہ
نفولہ	Nafoola	ف	زلف
نفیر	Nafeer	ف	انصاف، عدل

marfat.com
Marfat.com

نفیسہ	Nafisa	ع	عمدہ' اعلیٰ' پسندیدہ' لطیف' اچھی' امام جعفر صادقؒ کی بہو کا نام نفیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن حضرت علیؓ۔ آپ کے خاوند کا نام حضرت اسحاق تھا۔ نہایت عابدہ و زاہدہ تھیں۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وصال فرما گئیں۔ مزار مبارک مصر میں واقع ہے جو کہ "مشہد نفیسہ" کے نام سے مشہور ہے
نفیس	Nafees	ع	پسندیدہ' عمدہ' لطیف' اعلیٰ
نفراء	Nifra	ع	کنیز' خدمتگار
نفاست	Nafasat	ع	لطافت' عمدگی' پسندیدگی
نفاثہ	Nafasa	ع	جادو کرنے والی' سحر کرنے والی
نفجہ	Nafja	ع	خوشبو' مہک
نقیر	Naqeer	ا'ع	صغیر
نقیبہ	Naqiba	ع	خبر کرنے والی
نقیہ	Naqea	ع	پاک' خالص
نقیہ	Naqia	ع	اطلاع کرنے والی' خبر کرنے والی
نقرت	Naqrat	ع	تازگی' رعنائی
نقرہ	Naqra	ع	چاندی
نقشین	Naqsheen	ف	جس پر نقش و نگار کیے گئے ہوں
نقشی	Naqshi	ا	جس پر نقش و نگار کیا گیا ہو
نکہت	Nikeht	ف	خوشبو' مہک
نکولا	Nikola	یو	عوام کی جیت
نکوئی	Nakoi	ف	بھلائی' نیکی' اچھائی' عمدگی' خوبی

marfat.com

Marfat.com

نگاہ عالم	Nighah-e-Alam	ف	دنیا کی آنکھ، دنیا کی نظر
نگارش	Nigaresh	ف	تحریر، لکھائی، نقش
نگین	Nagin	ف	نگینہ، نگ
نگینہ	Nagina	ف	نگ، ایک قیمتی پتھر
نگار	Nigar	ف	نقش، محبوب، آرائش، زیبائش، سجاوٹ
نگار عالم	Nigar-e-Alam	ف	دنیا کی محبوب، دنیا کا نقش، بہت خوبصورت
نگہت	Nighet	ف	مہک، خوشبو
نگارینہ	Nigarina	ف	محبوب، پیاری
نگارین	Nigarin	ف	محبوب
نلوہ	Nilwah	ہ	خالص، بے لوث، مخلص
نمار	Numar	ع	اشارہ، ایما
نماسخہ	Namaskha	ف	ارادہ کرنے والی، نیت کرنے والی، لکھاری، تحریر کرنے والی
نملہ	Nimala	ف	شوخ و چنچل، پھرتیلی، تیز و طرار، چست، مور
نمالہ	Nimla	ف	مورنی
نمال	Nimal	ف	مور
نماء	Numa	ف	دکھانے والا، دیکھنے والا
نمیقہ	Namiqa	ع	تحریر، نوشتہ، خط، مکتوب
نمرہ	Nimra	ف	عدد، نمبر
نمیرہ	Namira	ع	پاک دامن خاتون، خوش ذائقہ پانی
نمو	Nimu	ع	بڑھنا، اگنا
نمرۃ	Nimerqa	[illegible]	[illegible]

marfat.com
Marfat.com

ننھی	Nannhi	ہ	چھوٹی لڑکی' انجان' لاڈلی' پیاری
نورالصباح	Noor-ul-Sabha	ف	خوبصورت روشنی' اچھی روشنی' تحریک پاکستان کی نامور خاتون رہنما نورالصباح بیگم جو ادیبہ اور شاعرہ بھی تھیں۔ احتجاجی تحریکوں میں بھرپور حصہ لیتی رہیں۔ ہفت روزہ ''اخبار جہاں'' اور ماہنامہ ''جام نو'' کراچی میں عرصہ تک لکھتی رہیں۔
نواز	Nawaz	ف	سرفراز کرنے والا
نوازش	Nawazish	ف	کرم' عنایت' مہربانی
نوصر	Nosar	ف	خواب' نیند
نوید	Naveed	ف	خوشخبری' بشارت
نورس	Nauras	ف	تروتازہ' نوخیز
نوشا	Nosha	ت	پرمسرت' مسرور' خوش وخرم' مثل' نمونہ
نوال	Nawal	ع	مہربانی' عنایت' کرم' لاثانی' بخشش
نوشابہ	Noshaba	ف	آب حیات' سکندر کی بیوی کا نام
نورالنساء	Noor-un-Nisa	ع	روشن عورت
نورتن	Noorten	ت	حسین وجمیل' خوبصورت' روشن' منور' چمکدار
نوری	Noori	ف	روشنی سے معمور' روشنی سے بھرپور
نوریتا	Noorita	یو	موتی' گہر
نوریشہ	Noureesa	یو	موتی' گوہر
نویس	Navees	ف	لکھنے والا' تحریر کرنے والا
نویلہ	Nawaila	ف	نیا' جدید' تازہ
نورہ	Noora	ع	ان کھلا پھول' غنچہ' کلی

Marfat.com

نورہ	Noorah	ع	درخشاں۔تاباں۔روشن۔منور
نورہ	Noora	ف	چمکدار۔روشن۔منور۔درخشاں
نوربانو	NoorBano	ف	روشن خاتون' چمکدار خاتون' ترکی کے مشہور عثمانی حکمران سلطان مراد ثالث کی والدہ کا نام ملکہ نور بانو جو نہایت دیندار اور نیک سیرت خاتون تھی۔آج بھی قسطنطنیہ میں اس کی تعمیر کروائی ہوئی مشہور جامع مسجد ''الیسکی والدہ جامع'' موجود ہے۔
نوار	Nawar	ع	شکوک وشبہات کو ناپسند کرنے والی
نورس	Nawaras	ف	تازہ' نوخیز
نومی	Noami	ف	نیند' خواب
نونا	Noona	یو	چاند کی بیٹی
نوفلہ	Nofla	ع	فیاض عورت' سخی عورت
نورا	Noora	یو	محترمہ' قابل احترام' چمک' نور' روشنی
نورانی	Noorani	ف	روشن' نور والا' منور' درخشاں
نوبہار	Nobahar	ف	نئی بہار' وہ چیز جس پر نئی بہار آئی ہو
نوا	Nawa	ف	آواز' راگ' روزی' اولاد
نوین	Naweeen	ف	نئی' تازہ
نورافشاں	Noor Afshan	ف	روشنی بکھیرنے والی' نور چھڑکنے والی
نور	Noor	ف	روشنی' چمک' نور
نورتیا	Norita	یو	موتی' وہ
نورالعین	Noor-ul-Ain	ف	آنکھ کی چمک' آنکھ کی روشنی

marfat.com

Marfat.com

نورالنہار	Noor-ul-Nihar	ف	صبح کی روشنی
نورالانوار	Noor-ul-Anwar	ف	نور کو روشن کرنے والی
نویرہ	Nuwaira	ع	پھولوں کی کلی
نوائے خیر	Nawai Kher	ف	اچھی آواز' خیر کی آواز
نوائے فروش	Nawa-e-frosh	ف	سروش کی آواز
نوائے وقت	Nawa-e-Waqat	ف	وقت کی آواز
نورین	Noreen	یو	سمندر کی شہزادی
نورین	Norin	یو	قابل تعظیم' قابل عزت
نورافزاء	NoorAfaza	ف	روشنی بڑھانے والی
نوشی	Noshi	ف	نوشین کا مخفف' شیریں' خوش ذائقہ
نوشین	Noshin	ف	میٹھی' شیریں
نوبر	Nober	ف	نوخیز' نوجوان لڑکی
نویدہ	Nuwaida	ف	خوشخبری دی ہوئی' بشارت دی ہوئی
نورجہاں	Noor Jehan	ف	دنیا کا نور' جہان کی روشنی' مغل شہنشاہ نورالدین محمد جہانگیر کی اہلیہ کا نام جو ایران کے ایک معزز خاندان کے فرد اعتماد الدولہ میرزا غیاث بیگ کی صاحبزادی تھی۔ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ لاہور میں واقع ہے۔
[illegible]ت	[illegible]wakhat		

Marfat.com

نولہ	Noala	ک	مشہور، نامور، معروف
نوفہ	Noofa	ع	نمایاں ہونا، بلند ہونا
نہی	Nahi	ع	دانش، سمجھ، عقل، خرد، شعور
نہمار	Nehmaar	ف	عظیم، بزرگ، عجیب
نہیلا	Nahila	ع	پُر مسرت، مسرور، خوش
نہیلہ	Nahila	ع	خوش، مسرور
نہلا	Nehla	ع	خوش، پُر مسرت، مسرور
نہاد	Nihaad	ف	بنیاد، خلقت، طینت
نہار	Nihaar	ف	دن
نہال	Nihal	فہ	مسرور، خوش، پُر مسرت، خوبصورت، درخت، کامیاب
نہاء	Naha	ع	نوخیز، شرارتی، شوخ، چنچل
نہاں	Nahan	ف	حسین وجمیل، خوبصورت، پوشیدہ، مخفی
نہالہ	Nihala	ف	خوبصورت درخت
نہیہ	Nahia	ف	عقل، دانش
نہانی	Nihani	ف	پوشیدگی، مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور کی ایک مشہور شاعرہ کا نام نہانی جو آگرہ کی رہنے والی تھی۔
نیاز	Niaz	ف	امنگ، خواہش، عاجزی، آرزو
نیالش	Nayalash	ع	تعریف، دعا، آفرین
نیر	Nayyer	ف	روشن ستارہ
نیرا	Nayyera	ہ	ایسی سفیدی جو طلوع آفتاب سے قبل ہو، پانی، آنسو
نیرین	Nayyerine	ف	آفتاب و ماہتاب، چاند سورج، آفتاب و قمر
نیرو	Naroo	ف	طاقت، توانائی

marfat.com

Marfat.com

نیرہ نور	Nayyera Noor	ف	روشنی دینے والا نور، چمکدار روشنی
نیلہ	Nila	ف	گراں قیمت، بیش قیمت
نیسا	Nisa	یو	پاکیزہ، پارسا
نیک	Naik	ع	خوب، سعید
نیک نام	Naik Nam	ع	جس کا نام بھلائی اور اچھائی کے ساتھ مشہور ہو
نیلا	Neela	ہ	نیلگوں
نیل بر	Neel bar	ف	نیلوفر
نیلوفر	Nilofer	ف	کوکا بیلی، ایک خوبصورت پھول، دوسرے عثمانی حکمران سلطان اورخان کی اہلیہ اور سلطان مراد اول کی والدہ کا نام جو بڑی نیک سیرت اور مخیر خاتون تھی۔ اس نے بہت سی عمارات، سڑکیں اور نہریں تعمیر کروائیں۔
نیلوفری	Nilofary	ف	نیلوفر کے رنگ کی، نیلگوں
نیلبر	Nilber	ف	نیلوفر کا پھول
نیلمیں	Nilmin	ف	نیلی، نیلم جیسی
نیلم	Neelam	ف	نیلے آسمانی رنگ کا ایک بیش قیمت پتھر
نینا	Nina	عبر	خوبصورت، حسین و جمیل
نیک بخت	Naik Bakht	ف	خوش قسمت
نیلما	Nilma	ف	نیلی، نیلم جیسی، نیلگوں
نیک اختر	Naik Akhter	ف	خوش قسمت، خوش بخت
نیوا	Niwa	.	سنجیدہ، متین، پرسکون

marfat.com

Marfat.com

نیوشندہ	Newshinda	ف	سننے والا
نیما	Neema	ف	نصف' آدھا
نیما	Nima	ہ	پاک دامن' پاکیزہ' ایماندار
نینوں	Nainwan	لا	خوبصورت' حسین وجمیل
نیشہ	Naisha	ف	بانسری
نیکوئی	Nikoi	ف	عمدگی' بھلائی' اچھائی' نیکی' خوبی
نیلک	Nilak	ف	ایک طرح کا ریشمی کپڑا
نیلی	Nili	ف	نیلے رنگ کی' نیلی آنکھوں والی
نیناں	Nainan	ہ	آنکھیں' نگاہیں' نظر' نظریں

marfat.com

Marfat.com

و

وانیا	Wania	عبر	اللہ تعالیٰ کا تحفہ
واصیہ	Wasia	ع	رہنما خاتون' سربراہ عورت
وادیہ	Wadia	ع	نیچی زمین' صحرا
وافیہ	Wafia	ع	پوری' مکمل' کاملہ' مکمل حق ادا کرنے والی
واجدہ	Wajda	ع	وجود پانے والی
وافدہ	Wafda	ع	پیامبر' قاصدہ' شتر سوار عورت
واردہ	Warda	ع	آنے والی' قاصدہ
وارہ	Warih	ف	عادت' موسم
وارہہ	Wareha	ع	کشادہ' فراخ' کھلی
واباء	Waba	ع	سمجھنے کی طاقت' شعور کی قوت
وابال	Wabal	ع	سمجھنے کی قوت
واحدہ	Wahida	ع	یکتا' اکیلی' تنہا' ایک
وازعہ	Wazia	ع	حاکمہ' منع کرنے والی' روکنے والی' باز کرنے والی
واینا	Wayna	عبر	اللہ کا تحفہ
وایہ	Waya	ع	مقصد' غرض' حاجت' مطلب' مراد' ضرورت
واسعہ	Wasaya	ع	فراخ' کھلی' وسیع' کشادہ' پھیلنے
واقدہ	Waqda	ع	الاؤ جلانے والی' آگ روشن کرنے والی
واشدہ	Washda	ع	کھلی ہوئی' شگفتہ
وارینہ	Warina	ف	مشابہ' مثل' مانند' نظیر
واسفہ	Wasifa	ع	شریف' نیک' اصیل' نجیب' عمدہ' اعلیٰ

marfat.com

Marfat.com

واصفہ	Wasfa	ع	تعریف کرنے والی، ستائش کرنے والی، توصیف کرنے والی، صفت بیان کرنے والی
واہبہ	Wahiba	ع	بخشنے والی، معاف کرنے والی، عطا کرنے والی، دینے والی
واعظہ	Waaza	ع	نصیحت کرنے والی، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ کی پھوپھی حضرت خدیجہ واعظہؒ جو عارفہ، کاملہ، عابدہ اور زاہدہ تھیں۔
واعیہ	Waeeah	اُف	واعی کی تانیث، نگاہ رکھنے والی محافظ
والیہ	Walia	ع	مالک، دوست، حاکم، رفیق
واصلہ	Wasla	ع	پہنچی ہوئی، بھیجی ہوئی
وارقہ	Warqa	ع	پتوں والا چھوٹا درخت
وارثہ	Warsa	ع	حق دار، مستحق، مددگار، معاون
واثقہ	Wasqa	ع	مستحکم، مضبوط، پختہ
وبیص	Wabis	ع	جگمگانا، چمکنا، منور کرنا
وثقہ	Wasqa	ع	ایمان محکم، یقین کامل
وثقی	Wasqi	ع	پائیدار، پکی، مضبوط، مستحکم
وثبہ	Wasba	ع	چھلانگ، زقند
وثیقہ	Wasiqa	ع	اقرار نامہ، معاہدہ، عہد و پیمان
وجنہ	Wajna	ف	گال، رخسار، غدار
وجیہا	Wajeeha	ع	حسین، شکیل
وجیہہ	Wajeeh	ف	خوبصورت عورت، حسین و جمیل عورت
وجیہ	Wajiha	ف	خوبصورت، سوہنی، حسین
وجاہت	Wajahat	ع	عزت، حسن، خوبصورتی

marfat.com

Marfat.com

وجاہت النساء	Wajahat-ul-Nisa	ع	عورت کی خوبصورتی' عورت کا حسن
وجہ	Wijh	ف	جانب' طرف
وجہا	Wijha	ف	تنخواہ
وجیزہ	Wajiza	ع	مختصر
وحدت	Wahdat	ع	اکیلا ہونا
وحیدہ	Wahida	ع	لاثانی' بے نظیر' واحد' تنہا' اکیلی' یکتا' یگانہ
ودیدہ	Wadida	ع	رفاقت' دوستی' پیار محبت
ودیقہ	Wadiqa	ع	شدت کی گرمی' سبزہ زار
ودھاء	Widha	ع	گوری چٹی عورت' سفید رنگت والی عورت
ودیعہ	Wadia	ع	امانت
ودین	Wadin	ع	بھیگی ہوئی' نم
ودیا	Widya	س	ہنر' فن' علم' سمجھ
وریقہ	Wariqa	ع	سبزہ زار' شدید گرمی' سرسبز درخت
وردت افشاں	Werdet Afshan	ع	گلاب کے پھول بکھیرنے والی
ورزانہ	Werzana	ف	مشق کرنے والی
ورود	Warood	ع	گلاب کا پھول
وردہ	Werda	ع	گلاب کا پھول
ورقاء	Werqa	ف	فاختہ' کبوتر
ورقانہ	Warqana	ع	شفاعت کرنے والی
ورتاج	Wertaj	ف	نیلوفر' سورج مکھی کا پھول
ورقہ	Werqa	ع	پھول کی پتی' درخت کا پتا

marfat.com
Marfat.com

وردت	Werdet	ع	گلاب کا پھول' گلگوں رنگ
ورفانہ	Werfana	ع	سفارش کرنے والی' شفاعت کرنے والی
ورودہ	Warudah	ع	گلاب کا پھول' درخت کی کلی
ورقا	Werqa	ع	نیالی رنگت
ورديعہ	Werdia	ع	امانت
وردہ	Wurdah	ع	سرخ رنگت' سرخ گھوڑی
وردہ	Wirdah	ت	جگہ بنانا' راستہ دینا
وزیمہ	Wazimah	ع	تحفہ' ہدیہ' سوغات' عطیہ
وزیعہ	Wazia	ع	امانت
وزیلہ	Wazila	ع	شیشہ' آئینہ
وسالت	Wasalat	ع	وسیلہ' سلسلہ' واسطہ
وسیلہ	Waseela	ع	ثالثہ' منصفہ
وسیم آراء	Wasim Ara	ع	خوبصورتی کی آرائش کرنے والی
وسامہ	Wasama	ع	خوبصورتی' حسن وجمال' حسن کا اثر
وستا	Wasta	ف	تعریف' ستائش' توصیف' حمد
وسمیہ	Wasmia	ع	موسم بہار کی عورت
وسیم النساء	Wasim-ul-Nisa	ع	خوبصورت عورت' حسین وجمیل عورت
وسیمہ	Wasima	ع	حسین' سونی' خوبصورت
وسامت	Wasamat	ع	خوبصورتی' زیبائش' خوبی' حسین ہونا
وشاقہ	Washaqa	ع	باندی' کنیز' لونڈی
وشاء	Washa	ع	تلوار' شمشیر

marfat.com
Marfat.com

وشاخ	Washakh	ع	تلوار' شمشیر' کمان
وشاد	Washad	ع	شمشیر' تلوار
وشادہ	Washada	ع	تلوار
وشنی	Washni	ف	سرخ رنگ' گلگونہ
وشمہ	Wishma	ع	بارش کا قطرہ
وشیکہ	Washiqa	ع	تیز رفتار' جلدی کرنے والی
وشت	Washt	ف	خوب' خوش
وصیلہ	Wasila	ع	ہر وقت ساتھ رہنے والی
وصفیہ	Wasfia	ع	صفاتی' تعریفی' توصیفی' ستائش
وصلہ	Wasla	ع	ملاپ' واسطہ' تعلق
وصیہ	Wasia	ع	سربراہ' جس خاتون کو وصیت کی گئی ہو
وصیفہ	Wasifa	ع	خدمت گار' خادمہ' خدمت کرنے والی
وصف	Wasf	ع	تعریف' خوبی توصیف' عمدگی' بھلائی
وضات	Wazat	ع	روشنی' نور' چمک' حسین ہونا' پاکیزگی' خوبصورتی
وعاء	Wia	ع	ظرف' برتن
وعیدہ	waida	ع	سزا کی دھمکی دینے والی
وفضہ	Wufza	ع	ترکش' جھولی
وفا	Wafa		نباہ' ساتھ دینا' تکمیل' تعمیل' خیر خواہی
وفاقت	Wafaqat	ع	صلح' موافقت
وقیعہ	Waqia	ع	اہم' اہمیت رکھنے والی' وقعت رکھنے والی
وقر	Waqr	ع	عزت' حلم
وقر النساء	Waqr-ul-Nisa	ع	عورت کی عزت' عزت دار خاتون

marfat.com
Marfat.com

وقار	Waqar	ع	آرام، راحت، چین، بردباری، سکون
وقاد	Waqad	ع	روشن، منور، چمکدار
وکالت	Wakalat	ع	قائم مقامی
وکیلہ	Wakeela	ع	نائب، کارساز
ولدہ	Waldah	ع	اندلس کے حکمران محمد اول کی صاحبزادی کا نام ولدہ بنت محمد جو نہایت عالمہ اور فاضلہ خاتون تھی۔ اپنے زمانے کی مشہور شاعرہ تھی اور اس کا کلام اندلس میں خوب مشہور تھا۔ اہل قرطبہ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔
وزیر بیگم	Wazir Begum	ع۔ت	کارفرما خاتون
ولایت	Walayat	ع	امداد کرنا، مدد کرنا
وِلدہ	Wilda	لا	بے قابو، جنگلی
ولجہ	Wiljah	ع	پناہ گاہ، وادی کا موڑ
ولیہ	Walia	ع	سرپرست، کفیل
ولایت	Wilayat	ع	ولی اللہ تعالیٰ کا مقرب، ملک، بادشاہت
ولیع	Walie	ع	منہ بند کلی
وناہ	Winah	ع	مورنی
ویشرہ	Waisra	ع	خالص
وینا	Veena	ہ	ایک ساز
وینا	Weena	لا	روما کی لڑکی
وویان	Wuyan	لا	زندہ، بھرپور زندگی
وہاجہ	Wahaja	ع	روشن، چمکیلی
وہبی	Wahbi	ع	عطا کیا ہوا، دیا ہوا

marfat.com
Marfat.com

ویلما	Wilma	ا۔س	حفاظت کرنے والی' نگرانی کرنے والی' پناہ دینے والی
ویدا	Weeda	ف	ایک پھول (وی دا)
ویدا	Wida	عبر	پیاری' محبوبہ' عزیز
ویرا	Wira	ع	خربوزے کی بیل
ویرا	Weera	لا	ایمان' یقین' اعتماد
ویژہ	Wisa	ع	خالص
ویتا	Weeta	لا	زندگی' حیات

marfat.com
Marfat.com

ہ

ہابلہ	Habla	ع	کمانے والی
ہانم	Hanem	ف	خاتون' خانم
ہاربہ	Harba	ع	تیز رفتار' تیز دوڑنے والی
ہارشہ	Harsha	ع	ناز کرنے والی
ہانیہ	Hania	ع	پرمسرت' خوش' مسرور
ہاجرہ	Hajra	ع	ہجرت کرنے والی' حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کا نام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں
ہاجی	Hadi	ع	ہجو کرنے والا' نقال' منہ چڑھانے والا
ہاخرہ	Hakhira	ع	آنکھ سے اشارہ کرنے والی
ہانیہ بانو	Hania Bano	ع	خوش وخرم خاتون' پرمسرت عورت
ہائدہ	Haida	ف	توبہ کرنے والی
ہائمہ	Haima	ع	محبت میں متوالی' پیار میں دیوانی
ہادقہ	Hadiqa	ع	مسافر' گروہ
ہادفہ	Hadifa	ع	مسافر' گروہ
ہادمہ	Hadma	ع	گرانے والی
ہادی	Hadi	ع	راستہ دکھانے والا
ہادیہ	Hadia	ع	راستہ دکھانے والی' ہدایت دینے والی' رہبری کرنے والی
ہالتہ	Halta	ع	ام المومنین حضرت خدیجہؓ کی ہمشیرہ کا نام
ہائلہ	Haila	ع	شدید' سخت' زبردست' ڈرانے والی

marfat.com

Marfat.com

ہامر	Hamar	ف	بہت برسنے والی گھٹا
ہاملہ	Hamila	ع	سونے والی' بہت سفر کرنے والی
ہامزہ	Hamza	ع	آنکھ سے اشارہ کرنے والی
ہامون	Hamoon	ف	جنگل' صحرا
ہاجرہ	Hajra	ع	نہایت اعلیٰ' نہایت عمدہ
ہاشمہ	Hashima	ع	توڑنے والی' ٹکڑے کرنے والی
ہاجلہ	Hajla	ع	بہت سفر کرنے والی' سونے والی
ہادرہ	Hadra	ع	گرج دار بادل
ہالہ	Hala	ف	چاند کے چاروں اطراف کا روشن دائرہ
ہارونہ	Haroona	ع	قاصدہ' پیامبر' سرکش گھوڑی
ہاجسہ	Hajsa	ع	دل میں گزرنے والی
ہبہ	Haba	ع	ایک ستارہ
ہجراں	Hijran	ف	جدائی' فراق
ہداد	Hadad	ع	نرمی' مہربانی
ہدایت	Hadayat	ع	رہبری' رہنمائی
ہدایت النساء	Hadayyat-un-Nisa	ع	عورتوں کو ہدایت دینے والی
ہدہ	Huda	ف	حق' فائدہ' نفع
ہدیدہ	Hadeeda	ع	ہمنی عورت
ہدیہ	Yadya	ف	تحفہ' سوغات
ہذامہ	Hazama	ع	دلیر' بہادر
ہرمز	Harmaz	ف	ایران کے ایک بادشاہ کا نام
ہزمن	Hazman		

marfat.com

Marfat.com

ہزیرہ بانو	Hazira Bano	ف	دانا عورت، عقل مند خاتون
ہزیرہ	Hazira	ف	دانشمند، سمجھدار، عقلمند، دانا
ہزت	Hizt	ع	خوشی، سرور، عیش
ہزینہ	Hazina	ف	خزاں، خزینہ، ہمیشہ، دائمی
ہسینہ	Hasina	ع	سکون، وقار
ہشیمہ	Hasheema	ع	سخی، فیاض
ہضیم	Hazim	ع	نازک جسم والی عورت، کلی
ہلبد	Helbad	ع	ستارے کا نام
ہلیہ	Hulya	ع	ایک ستارہ
ہلابہ	Hilaba	ع	ٹھنڈی ہوا جو بارش کے ساتھ چلے
ہلیہ	Halya	ف	چھوٹی کشتی کا چپو
ہمدم	Hamdam	ف	رفیق، ساتھی، دوست
ہمیم	Hammeem	ع	ہلکی بارش، کم رفتاری
ہما	Huma	ف	ایک تصوراتی پرندہ
ہمت	Himmat	ع	حوصلہ
ہمدوش	Hamdosh	ف	ساتھی، رفیق، ہمسر
ہمس	Hamass	ع	نرم اور ہلکی آواز دل کی دھڑکن کی آواز
ہمراہی	Hamrahi	ف	ساتھی، ساتھ چلنے والا
ہمباز	Hambaz	ف	شریک، شریف
ہمبر	Hamber	ف	ہم پہلو
ہنید	Haniad	ع	خوشگوار
ہنیہ	Hania	ع	پسندیدہ، خوشگوار، دل کو بھانے والی

marfat.com
Marfat.com

ہندہ	Hinda	ع	زلف' محبوب کے رخسار کا تل' حضرت ابوسفیانؓ کی بیوی کا نام
ہنا	Hina	ع	عطا' عنایت' بخشش
ہنی	Hani	ع	خوشگوار' خوش ذائقہ
ہند	Hind	ع	محبوبہ کی زلف' ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابوہریرہؓ نے پڑھائی تھی۔
ہودہ	Hooda	ف	درست' حق' سچا' ٹھیک
ہوزان	Hozan	ف	نرگس' نرجس
ہویدا	Huwaida	ف	واضح' عیاں' صاف' ظاہر
ہوشنگ	Hoshang	ف	عقل' ایران کے بادشاہ کا نام' ہمدم' رفیق' ساتھی' دوست
ہوشیا	Hoshia	ف	ہوشمند' دانشمند' عقل مند
ہونہ	Hona	ع	صلح' تسلی' تسکین' اطمینان
ہیفا	Haza	ع	پتلی کمر والی عورت' پتلی کمر کا گھوڑا
ہین	Heen	ع	نرم' آسان' ہلکا' ملائم
ہینہ	Heena	ع	وقار' بردباری' سکون' اطمینان
ہیما	Hima	ع	بغیر پانی کا جنگل
ہیام	Hiyam	ع	ہمیشہ گرنے والی ریت' جنونی عشق
ہیمیا	Himia	ع	طلسم کا علم
ہیفا	Hifa	ع	پتلی کمر والی
ہیر	Heer	س	طاقت' دولت' خالص' صاف' قوت' مشہور عاشق رانجھا کی محبوبہ کا نام۔

marfat.com
Marfat.com

ی

یاب	Yab	ف	یافتن کا امر' پانا' اسم کے آخر میں آ کر فعل کے معنی دیتا ہے' جیسے کامیاب' فیض یاب
یابندہ	Yabinda	ف	پانے والا' حاصل کرنے والا
یاسج	Yasaj	ف	پیکان والا تیر
یاسمہ	Yasma	ف	چنبیلی کا پودا' چنبیلی کا پھول
یاسین	Yaşeen	ع	امین' سیدھا ہاتھ
یاسرہ	Yasra	ع	رئیس عورت' امیر عورت' دولت مند عورت
یازان	Yazan	ف	قصد کرنے والا' کھینچنے والا
یازرہ	Yazra	عبر	مصنفہ' لکھنے والی
یازہ	Yazay	ف	جمائی' انگڑائی
یاسمین	Yasmin	ف	چنبیلی کا پھول
یامنہ	Yamna	ع	داہنی طرف
یامین	Yameen	ع	امین' سیدھا ہاتھ
یافرہ	Yafra	ع	نقاش' مصورہ' مطلب' غرض' مقصد
یاسمن	Yasmen	ف	چنبیلی کا پھول
یاقوت	Yaqoot	ع	ایک قیمتی پتھر
یاقوت احمر	Yaqoot-e-Ahmar	ف	سرخ رنگ کا یاقوت' قیمتی پتھر
یاور	Yawer	ف	حمایتی' معاون' مددگار
یافہ	Yafa	ع	حاصل ہونے والی شے

marfat.com
Marfat.com

یاشہ	Yasha	ت	زندہ باد
یاسم	Yasem	ف	چنبیلی کا پودا
یافت	Yafat	أف	فائدہ' آمدنی' نفع
یافتہ	Yafta	ف	پائی ہوئی چیز' بچائی ہوئی شے
یارا	Yara	ف	قوت' حوصلہ
یارباش	Yarbash	ف	ملنسار' دوست دار' یاروں کا یار
یارہ	Yara	ف	ساتھی' معشوقہ
یارق	Yaruq	ف	روشن' منور' ظاہر' واضح' سفید
یاسمون	Yasmoon	ع	چنبیلی کا پھول
یتاقی	Yataqi	ت	نگہبان' پہریدار' چوکیدار
یثرب	Yasrab	ع	مدینہ منورہ کا پرانا نام' لغتاً بیماری' حضورؐ کے آنے سے پہلے وہاں کی آب ہوا اچھی نہ تھی جو جاتا بیمار ہو جاتا' لیکن جب آپ قدم رنجہ فرما ہوئے تو یہی یثرب مدینہ المنورہ بن گیا۔
یدھمان	Yadhuman	اُہ	سورما' لڑنے والا سپاہی
یدین	Yadeen	ع	دونوں ہاتھ
یرغا	Yurgha	ت	حملہ' یلغار' تیز رفتار گھوڑی یا گھوڑا
یریدہ	Yareeda	ع	آرزو کرنے والی
یراعہ	Yaraa	ع	جگنو' بانسری
یرمغان	Yermaghan	ف	تحفہ' سوغات
یرسلہ	Yursala	ع	ارسال کی ہوئی' بھیجی ہوئی
یزیدہ	Yazeeda	ع	دولت میں بڑھنے والی
یسارت	Yasarat	اُع	دولت مندی' امیری' دولت کی فراوانی
یسالہ	Yasala	ع	پھولوں کا تاج

marfat.com
Marfat.com

یسپارہ	Yaspara	ع	دولتمندی' اعارت
یسرانہ	Yasrana	ع	خوشحالی' آسانی' سہولت
یسریٰ	Yasra	ع	خوشحال' آسودہ' مطمئن
یشم	Yasham	ت	سبزی مائل' بیش قیمت پتھر
یشعرہ	Yasharah	ع	فہم وفراست والی' سمجھدار' باشعور
یشعرہ بتول	Yasharah Batool	ع	سمجھدار' کنواری
یشل	Yashal	ت	تازہ' سرسبز
یشلہ	Yashla	ت	تروتازہ
یعسوبہ	Yasooba	ف	رہبر' راہنما عورت
یعشیرہ	Yasheera	ع	سمجھدار' دوشیزہ
یعقوبہ	Yaqooba	عبر	پیچھے آنے والی
یغما	Yaghma	ف	تاراج' ترکستان کے ایک شہر کا نام
یغماناز	Yaghmanaz	ف	بہرام گور کی بیوی کا نام جو خاقان چین کی بیٹی تھی
یقطان	Yaqtaan	ف	بیدار' ہوشیار' چوکنا
یکسو	Yaksoo	ف	الگ' روشن' چمکدار' عیاں
یگانہ	Yagana	ف	تنہا' اکیلا
یگونہ	Yagoona	ف	یکساں' برابر' ایک سا
یلدرم	Yaldram	ف	بجلی' سلطان' بایزید کا لقب
یلناز	Yalnaz	ت	بے مثل' لاثانی' یکتا' بے نظیر
یلنازہ	Yalnaza	عبر	بے نظیر' بے مثل
یلناز بیگم	Yalnaz Begum	ت	بے مثل خاتون' بے نظیر خاتون

marfat.com

Marfat.com

ارادہ کرنے والی	ع	Yameeha	یمیحہ
سیدھی جانب چلنے والی	ع	Yamina	یمینہ
برکت، سعادت	ع	Yamna	یمنہ
سیدھی طرف، دائیں جانب	ع	Yamnah	یمنہ
نیت کرنے والی، ارادہ کرنے والی، قصد کرنے والی	ع	Yamima	یمیمہ
ایک شہنشاہ کا نام	ف	Yamaak	یماک
جنگلی کبوتر	ع	Yamama	یمامہ
جوان عورت، دوشیزہ	اُہ	Yani	ینی
ستائش، تعریف	ا.	Yojina	یوجنا
حملہ، چڑھائی، بلہ	ع	Yorash	یورش
اونچائی، فراز، بلندی	ت	Yuksel	یوکسل
نازل کی ہوئی، اتاری ہوئی	ع	Yanzala	ینزلہ
حسین، سوہنی، خوبصورت	ت	Yusma	یوسما
خوبصورت خاتون	ت	Yusma Begum	یوسما بیگم

marfat.com
Marfat.com

ادارے کی دیگر کتب



Rs. 150/-



Rs. 200/-

Rs. 200/-

Rs. 80/-

Rs. 165/-

علم و عرفان پبلشرز

34 اردو بازار، لاہور۔ فون: 7352332-7232336

E-Mail:ilmoirfanpublishers@hotmail.com